

ذخیرۃ الجمان فہم القرآن

اغادات

شیخ الحدیث و التفسیر

رحمۃ اللہ علیہ

مولانا محمد سرفراز خان صفدر

* ناشر *

میر محمد لقمان براوران

سٹیٹیا سٹ ٹاؤن گوہرائوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من ابی الزاہد

اے جیسے اولاد ہی و احبابی و تلامذتی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

راقم اشیم گنگوڑ میں قرآن کریم و حدیث شریف

کا بیجاپی میں جو درس دیتا رہا اس درس

قرآن کریم کا بڑی عمر قریبی کے ساتھ اردو میں ترجمہ

دلانا احمد نواز بلوچ صاحب نے کیا جسکی طباعت

شہار مستطام الحاج میر محمد لقمان اللہ صاحب

نے اور ان کے بھائیوں نے کیا ہے راقم اشیم

طباعت کے حقوق انکو دیتا ہے مانا اگر علی

طور پر اصلاح کی ضرورت پڑے تو راقم اشیم

سے بچے مثلاً عزیزم زاہد اور عزیزم قاری گلہا

تعالیٰ وغیرہ مشورہ دے سکتے ہیں باقی

سب حقوق طباعت جناب میر صاحب

کو دیدئے ہیں واللہ الموفق

ابو الزاہد میر فرزان عفی عنہ

۲۸ راجستھان
۱۹۲۳ء
۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزانہ کُرسِ قرآنہ پانچ

تفسیر

سُورَةُ النَّبَاِ

تَا

سُورَةُ النَّاسِ

(مکمل)

جلد ۲۱

افادات

شیخ احادیث والتفسیر

حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر
قدس سرہ

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بوہڑوالی گلگت و گجرات نوالہ، پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	---- ذخیرۃ البچان فی فہم القرآن (سورۃ النبا تا سورۃ الناس، مکمل)
افادات	---- شیخ الحدیث و التفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان سفدر پور
مرتب	---- مولانا محمد نواز بلوچ مدظلہ، گوجرانوالا
سرورق	---- محمد خاور بیٹ، گوجرانوالا
کیپوزنگ	---- محمد صفدر حمید
تعداد	---- گیارہ سو [۱۱۰۰]
تاریخ طباعت	----
قیمت	----
طابع و ناشر	---- لقمان اللہ میر اینڈ برادرز، سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالا
	Cell: 03008741292 - 03218741292

ملنے کے پتے

- (۱) والی کتاب گھر، اردو بازار گوجرانوالا
- (۲) اسلامی کتاب گھر، نزد مدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالا
- (۳) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور

اہل علم سے گزارش

بندۂ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد بھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم لقمان اللہ میر صاحب حضرت اقدس کے مخلص مرید اور خاص خدام میں سے ہیں۔

ہم وقتاً فوقتاً حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت شیخ اقدس کو زیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جاتا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں لکھیں ہیں اور ہر باطل کا رد کیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا اور میرا مقصد صرف رضائے الہی ہے، شاید یہ میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کو خواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیوں کے جھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں

نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔ حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالا خواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جو علمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ”ذخیرۃ الجنان“ کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گلکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گلکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درس قرآن پنجابی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اردو زبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میرا ایک شاگرد آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، دوران گفتگو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم۔ اے پنجابی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میرا ایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیشیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم۔ اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سنی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہو کر کام شروع کر دیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علمائے ربانیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائشی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لاہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلاپوری شہیدؒ سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی الجھن پیدا ہو جاتی تو براہِ راست حضرت شیخؒ سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلاپوریؒ کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اسی کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا

حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبویؐ کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کر مسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گزارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محمد نواز بلوچ

فارغ التحصیل مدرسہ نصرۃ العلوم وفاضل وفاق المدارس العربیہ، ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
17	سورۃ النبا	01
21	وجہ تسمیہ اور کوائف	02
22	تصور قیامت	03
24	دلائل قدرت	04
41	سورۃ النازعات	05
45	نام، کوائف اور موضوع	06
50	واقعہ حضرت ہوئی علیہ السلام	07
54	اثبات قیامت	08
61	سورۃ عبس	09
64	نام اور کوائف	10
65	شان نزول	11
67	ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے	12
69	حضرت عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی ذہانت بھری چال	13
74	ربط آیات	14
76	زیتون کی خوبیاں	15
77	عرب چادل اور اخروٹ سے آشنانہ تھے	16
79	میدان محشر میں لوگوں کا حشر	17

83	سورۃ التکویر	18
86	نام دوائف	19
86	موضوع سورت	20
87	نغمہ اولیٰ کی نشانیاں	21
89	نغمہ ثانیہ کی سات نشانیاں	22
95	ستاروں کی تفصیل	23
96	حضرت جبریل <small>علیہ السلام</small> کی صفات	24
97	حضرت ضحاک <small>رضی اللہ عنہ</small> کے اسلام لانے کا واقعہ	25
103	سورۃ الانفطار	26
107	نام اور کوائف	27
110	دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے	28
115	سورۃ المطففین	29
119	نام اور کوائف	30
120	حقوق العباد اور غنیۃ الطالبین کے دو واقعات	31
121	امام اعظم ابوحنیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا کاروباری معاملات میں احتیاط کا ایک واقعہ	32
130	ارواح کا اجسام کے تعلق	33
132	جنت کی شراب	34
137	سورۃ الانشقاق	35
141	نام و کوائف	36
146	اختلاف شفق	37
151	سورۃ البروج	38
155	نام اور کوائف	39

157	اصحاب الاخذود کا واقعہ	40
163	سورۃ الطارق	41
166	نام اور کوائف	42
166	طارق کیا ہے اور انجم الثاقب کی مختلف تفسیریں	43
167	حافظ کی مراد	44
170	مقرب بندوں کے گناہ نیکوں میں بدل دیئے جائیں گے	45
171	حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ	46
175	سورۃ الاعلیٰ	47
179	نام اور کوائف	48
180	ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور و ادراک رکھا ہے، ایک واقعہ	49
183	معجزہ شق القمر	50
185	فلاح پانے والوں کا تذکرہ	51
187	سورۃ الغاشیہ	52
191	نام اور کوائف	53
196	دیباچہ نرسوتی کا اعتراض اور دیوبندی عالم کا بصیرت افروز جواب	54
199	سورۃ الفجر	55
202	نام اور کوائف	56
203	والفجر کی تفسیریں	57
205	قوم عاد	58
221	سورۃ البلد	59
225	نام اور کوائف	60
227	شان نزول	61

233	سورة الشمس	62
236	نام اور کوائف	63
241	شرعی دائرے میں رہ کر ریاضتیں کرنا جائز ہے	64
241	قوم شمود کا واقعہ	65
245	سورة ایل	66
249	نام اور کوائف	67
254	الائقی کا مصداق حضرت ابو بکرؓ ہیں	68
257	سورة الضحیٰ	69
260	نام اور کوائف	70
260	شان نزول	71
263	آپ ﷺ کی تربیت	72
269	سورة الانشراح	73
271	نام اور کوائف	74
272	آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت اہل عرب کی حالت	75
275	حسی طور پر آپ ﷺ کا چار مرتبہ شوق صدر ہوا	76
279	فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت	77
281	سورة التین	78
284	نام اور کوائف	79
284	انجیر کے فوائد	80
285	زیتون کے فوائد	81
286	چار مقامات پر دجال نہیں جاسکے گا	82
293	سورة اعلق	83

297	نام اور کوائف	84
297	شان نزول	85
307	سورة القدر	86
310	شان نزول	87
312	لیلۃ القدر کی تلاش	88
314	مکرمین حدیث کا رد	89
319	سورة البینہ	90
323	نام اور کوائف	91
323	رب نے پیچیدہ بیماریوں کے لیے ماہر حکیم اعلیٰ دوا کے ساتھ بھیجا	92
325	دم تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے، ایک واقعہ	93
331	سورة الزلزال	94
334	نام اور کوائف	95
335	سورة الزلزال کی فضیلت	96
336	قرب قیامت زمین اپنے دہنیے اُگل دے گی	97
337	دورۃ الغریقہ اور یہود کے کارخانے	98
341	سورة الغادیات	99
344	نام اور کوائف	100
345	قرآن پاک کی قسم اٹھانا کیسا ہے؟	101
348	حسن بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک لکنؤ کا معنی	102
349	نماز ادا کرنے میں شکر کا سب سے عمدہ طریقہ	103
349	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مراسلہ	104

353	سورة القارئة	105
356	نام اور کوائف	106
357	بقول ابن العربي آخری انسان کی پیدائش چین میں	107
358	اعمال کا ملنا حق ہے اور معتزلہ کا رد	108
360	بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب	109
361	ایک نیکی سب بدیوں پر بھاری	110
365	سورة التكاثر	111
368	نام اور کوائف	112
370	شان نزول	113
373	علم کے تین درجات	114
377	سورة العصر	115
379	نام اور کوائف	116
380	عصر کی مختلف تفسیریں	117
381	کتاب الروح کا ایک عبرت ناک باب	118
383	باطل فرقے	119
385	عمر دین العاص اور مسیلمہ کذاب کا مکالمہ	120
387	سورة الحمزة	121
390	نام اور کوائف	122
390	آنحضرت ﷺ کا سفر طائف	123
392	ہمزہ اور لہزہ کی تفسیر	124
399	سورة الفیل	125
401	نام اور کوائف	126

404	اصحاب فیل کا واقعہ	127
405	اصحاب فیل اور حضور ﷺ کی ولادت عام الفیل میں	128
407	اصحاب فیل کی ناکامی	129
411	سورۃ قریش	130
413	نام اور کوائف	131
415	اچھے اور برے مال کا فرق	132
416	لفظ قریش کی وجہ تسمیہ	133
419	پنڈت کا اعتراض اور اس کا جواب	134
419	مسئلہ	135
423	سورۃ الماعون	136
425	نام اور کوائف	137
428	عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی برکات	138
428	یتیم کا مال اور تیجے، ساتویں کی بدعت	139
431	سناٹق کی نماز	140
435	سورۃ الکوثر	141
437	نام اور کوائف	142
438	شان نزول	143
442	اہل بدعت حوض کوثر سے محروم رہیں گے	144
444	منکرین قربانی کے اعتراضات اور جواب	145
447	سورۃ الکافرون	146
449	نام اور کوائف	147
450	شان نزول	148

459	سورۃ النصر	149
461	نام اور کوائف	150
462	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ	151
464	فتح مکہ	152
471	سورۃ اللہب	153
473	نام اور کوائف	154
474	شان نزول	155
474	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں	156
475	صفا پہاڑی کا وعظ	157
477	ابولہب کی بیوی ام جمیل	158
478	دوموذی انسان	159
479	ابولہب کی عبرت ناک ہلاکت	160
480	ام جمیلہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت	161
483	سورۃ الاخلاص	162
485	نام اور کوائف	163
485	شان نزول	164
486	سورۃ الاخلاص ثلث قرآن	165
487	بعض چیزوں کا یہ طور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا	166
490	سورۃ کافرون کی فضیلت	167
492	امیری، غریبی رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں	168
495	سورۃ الفلق	169
497	نام اور کوائف	170

498	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں مدینہ والوں کے حالات	171
501	نبی القبلتین	172
504	یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور سورۃ کا شان نزول	173
506	ما قبل سے ربط	174
507	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جارو کا اثر	175
510	حسد، غبط اور دوسو۔	176
513	سورۃ الناس	177
517	دعائے ختم القرآن	178
518	قرآن یہ طور سلطانی گواہ	179
		180
		181
		182
		183
		184
		185
		186

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls. It explains that internal controls are designed to ensure that transactions are recorded accurately and in a timely manner. These controls include procedures for authorizing transactions, separating duties, and reconciling accounts. The document stresses that strong internal controls are a key component of an effective risk management strategy.

3. The third part of the document addresses the issue of transparency. It argues that transparency is crucial for building trust and confidence in the financial system. By providing clear and accessible information about transactions and financial performance, organizations can demonstrate their commitment to ethical practices and accountability. The text suggests that transparency also helps to identify areas for improvement and to address any concerns that may arise.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits. It states that audits provide an independent and objective assessment of the financial records and internal controls. Regular audits help to ensure that the financial system is operating as intended and that any weaknesses are identified and addressed promptly. The document notes that audits are also a key tool for detecting and preventing fraud.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the need for ongoing monitoring and improvement. It states that the financial system is constantly evolving, and organizations must stay up-to-date on the latest developments and best practices. Regular monitoring and improvement are essential for ensuring the long-term success and integrity of the financial system.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ النَّبَاِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

11

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

The names and addresses of the members of the committee are as follows: Mr. A. B. C., 123 Main St., New York, N.Y.; Mr. D. E. F., 456 Elm St., Boston, Mass.; Mr. G. H. I., 789 Oak St., Chicago, Ill.; Mr. J. K. L., 101 Pine St., Philadelphia, Pa.; Mr. M. N. O., 202 Cedar St., St. Louis, Mo.; Mr. P. Q. R., 303 Birch St., Cincinnati, Ohio; Mr. S. T. U., 404 Spruce St., Pittsburgh, Pa.; Mr. V. W. X., 505 Ash St., Cleveland, Ohio; Mr. Y. Z. A., 606 Hickory St., Columbus, Ohio; Mr. B. C. D., 707 Walnut St., Indianapolis, Ind.; Mr. E. F. G., 808 Chestnut St., Louisville, Ky.; Mr. H. I. J., 909 Poplar St., Memphis, Tenn.; Mr. K. L. M., 1010 Magnolia St., Nashville, Tenn.; Mr. N. O. P., 1111 Dogwood St., Atlanta, Ga.; Mr. Q. R. S., 1212 Peach St., Savannah, Ga.; Mr. T. U. V., 1313 Apple St., Jacksonville, Fla.; Mr. W. X. Y., 1414 Orange St., Tallahassee, Fla.; Mr. Z. A. B., 1515 Lemon St., Miami, Fla.; Mr. C. D. E., 1616 Lime St., Orlando, Fla.; Mr. F. G. H., 1717 Grape St., Tampa, Fla.; Mr. I. J. K., 1818 Strawberry St., St. Petersburg, Fla.; Mr. L. M. N., 1919 Blueberry St., Clearwater, Fla.; Mr. O. P. Q., 2020 Raspberry St., Dunedin, Fla.; Mr. R. S. T., 2121 Blackberry St., Palm Bay, Fla.; Mr. U. V. W., 2222 Elderberry St., Titusville, Fla.; Mr. X. Y. Z., 2323 Currant St., Melbourne, Fla.; Mr. A. B. C., 2424 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 2525 Strawberry St., Vero Beach, Fla.; Mr. G. H. I., 2626 Blueberry St., Ft. St. John, Fla.; Mr. J. K. L., 2727 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 2828 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 2929 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 3030 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 3131 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 3232 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 3333 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 3434 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 3535 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 3636 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 3737 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 3838 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 3939 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 4040 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 4141 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 4242 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 4343 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 4444 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 4545 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 4646 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 4747 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. U. V. W., 4848 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. X. Y. Z., 4949 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. A. B. C., 5050 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 5151 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. G. H. I., 5252 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. J. K. L., 5353 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 5454 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 5555 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 5656 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 5757 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 5858 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 5959 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 6060 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 6161 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 6262 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 6363 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 6464 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 6565 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 6666 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 6767 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 6868 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 6969 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 7070 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 7171 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 7272 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 7373 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. U. V. W., 7474 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. X. Y. Z., 7575 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. A. B. C., 7676 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 7777 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. G. H. I., 7878 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. J. K. L., 7979 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 8080 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 8181 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 8282 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 8383 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 8484 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 8585 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 8686 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 8787 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 8888 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 8989 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 9090 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 9191 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 9292 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 9393 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 9494 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 9595 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 9696 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 9797 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 9898 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 9999 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

The names and addresses of the members of the committee are as follows: Mr. A. B. C., 123 Main St., New York, N.Y.; Mr. D. E. F., 456 Elm St., Boston, Mass.; Mr. G. H. I., 789 Oak St., Chicago, Ill.; Mr. J. K. L., 101 Pine St., Philadelphia, Pa.; Mr. M. N. O., 202 Cedar St., St. Louis, Mo.; Mr. P. Q. R., 303 Birch St., Cincinnati, Ohio; Mr. S. T. U., 404 Spruce St., Pittsburgh, Pa.; Mr. V. W. X., 505 Ash St., Cleveland, Ohio; Mr. Y. Z. A., 606 Hickory St., Columbus, Ohio; Mr. B. C. D., 707 Walnut St., Indianapolis, Ind.; Mr. E. F. G., 808 Chestnut St., Louisville, Ky.; Mr. H. I. J., 909 Poplar St., Memphis, Tenn.; Mr. K. L. M., 1010 Magnolia St., Nashville, Tenn.; Mr. N. O. P., 1111 Dogwood St., Atlanta, Ga.; Mr. Q. R. S., 1212 Peach St., Savannah, Ga.; Mr. T. U. V., 1313 Apple St., Jacksonville, Fla.; Mr. W. X. Y., 1414 Orange St., Tallahassee, Fla.; Mr. Z. A. B., 1515 Lemon St., Miami, Fla.; Mr. C. D. E., 1616 Lime St., Orlando, Fla.; Mr. F. G. H., 1717 Grape St., Tampa, Fla.; Mr. I. J. K., 1818 Strawberry St., St. Petersburg, Fla.; Mr. L. M. N., 1919 Blueberry St., Clearwater, Fla.; Mr. O. P. Q., 2020 Raspberry St., Dunedin, Fla.; Mr. R. S. T., 2121 Blackberry St., Palm Bay, Fla.; Mr. U. V. W., 2222 Elderberry St., Titusville, Fla.; Mr. X. Y. Z., 2323 Currant St., Melbourne, Fla.; Mr. A. B. C., 2424 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 2525 Strawberry St., Vero Beach, Fla.; Mr. G. H. I., 2626 Blueberry St., Ft. St. John, Fla.; Mr. J. K. L., 2727 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 2828 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 2929 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 3030 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 3131 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 3232 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 3333 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 3434 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 3535 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 3636 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 3737 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 3838 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 3939 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 4040 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 4141 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 4242 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 4343 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 4444 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 4545 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 4646 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 4747 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. U. V. W., 4848 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. X. Y. Z., 4949 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. A. B. C., 5050 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 5151 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. G. H. I., 5252 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. J. K. L., 5353 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 5454 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 5555 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 5656 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 5757 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 5858 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 5959 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 6060 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 6161 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 6262 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 6363 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 6464 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 6565 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 6666 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 6767 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 6868 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 6969 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 7070 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 7171 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 7272 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 7373 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. U. V. W., 7474 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. X. Y. Z., 7575 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. A. B. C., 7676 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. D. E. F., 7777 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. G. H. I., 7878 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. J. K. L., 7979 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. M. N. O., 8080 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. P. Q. R., 8181 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. S. T. U., 8282 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. V. W. X., 8383 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Y. Z. A., 8484 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. B. C. D., 8585 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. E. F. G., 8686 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. H. I. J., 8787 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. K. L. M., 8888 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. N. O. P., 8989 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Q. R. S., 9090 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. T. U. V., 9191 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. W. X. Y., 9292 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. Z. A. B., 9393 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. C. D. E., 9494 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. F. G. H., 9595 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. I. J. K., 9696 Raspberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. L. M. N., 9797 Strawberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. O. P. Q., 9898 Blueberry St., Ft. Pierce, Fla.; Mr. R. S. T., 9999 Blackberry St., Ft. Pierce, Fla.

آیتھا ۲۰ ﴿۸۱﴾ سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ ۸۰ ﴿۲﴾ رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲ الَّذِي هُمْ فِيْهِ
مُخْتَلِفُونَ ۝۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۵ اَلَمْ نَجْعَلِ
الْاَرْضَ مَهْدًا ۝۶ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝۷ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا ۝۸ وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۹ وَجَعَلْنَا الْبَيْلَ لِبَاسًا ۝۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۝۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝۱۳ وَانزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝۱۵ وَجَنَّتِ
الْاَفَاقُ ۝۱۶ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
فَتَاتُونَ اَفْوَاجًا ۝۱۸ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ ابْوَابًا ۝۱۹ وَسُيِّرَتِ
الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۲۱ لِلطَّغِيْنَ
مَا بَأْسًا ۝۲۲ لِيُثَبِّتُنَّ فِيْهَا اَحْقَابًا ۝۲۳ لَا يُدْخِلُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝۲۴

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں

عَنِ النَّبَاِ ۝ بڑی خبر کے بارے میں . الَّذِي وہ خبر ہے

مُخْتَلِفُونَ کہ یہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں کَلَّا خبردار

سَيَعْلَمُونَ عن قریب یہ جان لیں گے ثُمَّ كَلَّا پھر خبردار سَيَعْلَمُونَ

عن قریب یہ جان لیں گے اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ
 زمین کو مہدًا بچھونا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا اور پہاڑوں کو میخیں
 وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ
 اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سُبَاتًا آرام کا ذریعہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ اور
 بنایا ہم نے رات کو لَبَاسًا لباس وَجَعَلْنَا النَّهَارَ اور بنایا ہم نے دن کو
 مَعَاشًا ذریعہ معاش وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر
 سَبْعًا سِدَادًا سات آسمان سخت (مضبوط) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا اور بنایا ہم
 نے چراغٌ وَهَاجًا روشن وَأَنْزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ
 الْمُعْصِرَاتِ نِجْرًا والے بادلوں سے مَاءً ثَجَّاجًا پانی زور سے بہنے
 والا لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے حَبًّا دانے وَنَبَاتًا
 اور سبزہ وَجَنَّتِ الْاَفَاقُ اور گھنے باغ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بے شک فیصلے کا
 دن كَانَ مِيقَاتًا ایک وقت مقرر ہے يَوْمَ يُنْفَخُ جس دن پھونکا جائے گا
 فِي الصُّورِ بگل فَتَاتُونَ اَفْوَاجًا پس آؤ گے تم فوج در فوج وَفُتِحَتْ
 السَّمَاوَاتُ اور کھول دیئے جائیں گے آسمان فَكَانَتْ اَنْبَابًا پس ہو جائیں
 گے دروازے ہی دروازے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلا دیئے جائیں گے
 پہاڑ فَكَانَتْ سَرَابًا پس ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت اِنَّ جَهَنَّمَ
 بے شک جہنم كَانَتْ مِرْصَادًا گھات میں لگی ہوئی ہے لِلطَّاغِيَتِ

سرکشوں کے لیے مَابًا ٹھکانا ہے لِثِيْنٍ فِيْهَا ٹھہریں گے اس
 دوزخ میں اَحْقَابًا زمانہ ہائے زمانہ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا نہیں
 چکھیں گے اس میں بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا کوئی ٹھنڈک اور نہ پانی۔
 وجہ تسمیہ اور کوالف :

اس سورت کا نام نبا ہے اور نبا کا معنی ہے خبر۔ اور لفظ نبی کا مادہ بھی نبا ہے۔ نبی کا
 لفظ اسی سے لیا گیا ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دیتا
 ہے۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے اُناسی ۷۹ * سورتیں نازل ہو چکی
 تھیں اس کا اتنی ۸۰ * نمبر ہے۔ اس کے دو رکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔

عَمَّ اصل میں عَمَّا تھا۔ یعنی آخر میں الف بھی تھا مگر اس کو تخفیفاً حذف کر دیا
 گیا۔ عَمَّ کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں يَتَسَاءَلُوْنَ یہ لوگ ایک دوسرے
 سے سوال کرتے ہیں عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ بڑی خبر کے بارے میں۔ اس خبر کے
 بارے میں جو بڑی ہے الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ وہ خبر جس کے بارے میں
 اختلاف کرتے ہیں۔ نبا عظیم کے متعلق مفسرین کرام رضی اللہ عنہم نے بہت کچھ کہا
 ہے دو چیزیں مشہور ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ نبا عظیم سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
 ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی ہے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں اختلاف
 کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے گھڑ کے لایا ہے، کوئی کہتا ہے اَسَاطِيْرُ
 الْاَوَّلِيْنَ ”پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔“ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے کہانت
 ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو ان کے دل

میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، کہتے ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبأ سے مراد قیامت ہے۔ اور یہی تفسیر بہتر ہے کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور بڑے شدد و مد کے ساتھ انکار کرتے تھے۔

تصویر قیامت :

یہودی اور عیسائی قیامت کے قائل ہیں مگر اس کی جو تفسیر کرتے ہیں اس سے انکار ہی لازم آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت ایسے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ جسم اور جسم کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا بس جس طرح ہم خواب میں خوشی دیکھتے ہیں یا غمی دیکھتے ہیں بس یہی کچھ ہوگا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے ملک کے صدر کو دیکھا ہے اور اس کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے کہ اس کی چار ٹانگیں تھیں، لمبے لمبے اس کے دانت تھے، پیٹھ اس کی چوڑی تھی (اوپر چار پائی بچھا سکتے ہیں۔) اور آگے ایک لمبی سونڈ تھی جو اس نے نیچے لٹکائی ہوئی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ صدر کی تصویر نہیں یہ تو ہاتھی کی تصویر ہے جو اس نے کھینچ کر بنائی ہے۔ صدر کو تو اس نے نہیں دیکھا یہ تو صدر کے دیکھنے کا انکار ہے۔ تو جس طرح قیامت کی حقیقت عیسائی بیان کرتے ہیں وہ قیامت کا انکار ہی ہے۔

اہل حق قیامت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا اظہار فرماتے ہیں کہ قیامت اور سارا معاملہ اس

خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہوگا۔ رب تعالیٰ انہی خاکی جسموں کو قیامت والے دن اٹھائیں گے اور خوشیاں، غمیاں انہی کے ساتھ ہوں گی۔

تو فرمایا یہ کس چیز کے بارے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبر جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں کلاً خبردار سَيَعْلَمُونَ عن

قریب یہ جان لیں گے ثُمَّ كَلَّا پھر خبردار سَيَعْلَمُونَ عن قریب یہ جان لیں گے۔ چونکہ وہ لوگ زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ءَاِذَا مِثْنَا

وَ كُنَّا ثَرَابًا و عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿صفت: ۱۶﴾ ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟“ اور کبھی کہتے ءَاِذَا مِثْنَا و كُنَّا ثَرَابًا

ذٰلِكَ رَجِعْ بَعِيدٌ ﴿ق: ۳، پارہ: ۲۶﴾ ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔“ ان کا وہم تھا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان

کس طرح بنے گا؟ کبھی کہتے مَنْ يُّخِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿يسين: ۷۸﴾ ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟“ بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان

ڈالے گا؟ کبھی کہتے ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿السجده: ۱۰﴾ ”کیا جس وقت ہم رمل مل جائیں گے زمین میں، زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے کیا ہم نئی

پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟“ مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی جائے گی؟ گویا ان کے نزدیک یہ بڑا مشکل کام تھا (ان کے دماغوں پر سوء معرفت کا پردہ

تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی۔ مرتب)

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ

مِيْقَاتًا ”بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے۔“

دلائل قدرت :

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا **الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مِهْدًا** کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا۔ جس زمین پر تمھاری بود و باش ہے جس پر تم رہتے ہو اس کو ہم نے نہیں بنایا؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیوں کہ اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر ۳۸ میں ہے **وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ** ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔“

تو فرمایا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا **وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا** اور پہاڑوں کو میخیں۔ **اوتاد و تدد** کی جمع ہے اس کا معنی ہے میخ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو زمین میں اضطراب تھا حرکت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیئے تاکہ زمین کا توازن درست ہو جائے۔ اور دور نہ جاؤ **وَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا** اور ہم نے پیدا کیا تمھیں جوڑا جوڑا۔ مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کیں **وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا** اور بنایا ہم نے تمھاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نیند نہ آئے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے بیمار لوگ بھی ہیں جو نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ نیند سے بدن اعتدال پر آ جاتا ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ نیند کس نے بنائی ہے؟

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ جس طرح لباس سے ستر اور پردہ ہوتا ہے اسی طرح رات بھی پردہ ہے **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** اور بنایا ہم نے

دن کو ذریعہ معاش، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین ہم نے بنائی، پہاڑ ہم نے بنائے، تمہیں ہم نے پیدا کیا، رات ہم نے بنائی، نیند ہم نے بنائی، دن ہم نے بنایا۔ اور سنو! وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا - شِدَادٌ شَدِيدَةٌ کی جمع ہے اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان مضبوط۔ جب سے آسمان بنائے گئے ہیں آج تک ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ آج کل حکومتیں عمارتوں کی تعمیر کا ٹھیکہ دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ مرمت کا بھی ٹھیکہ دیتی ہیں مگر آسمان کو دیکھو ہزار ہا سال گزر چکے ہیں دراڑ تک نہیں آئی۔ پھر نہ نیچے کوئی دیوار ہے نہ ستون ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہیں۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور بنایا ہم نے چراغ روشن۔ سورج کی روشنی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وَانزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور نازل کیا ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے پانی زور سے بہنے والا۔ بادل جو قطروں کو نچوڑتے ہیں ان سے زور کی بارش ہم نے برسائی ہے۔ بادل کس نے بنائے، ان میں بارش کس نے پیدا کی، بادلوں کو پانی سے کس نے بھرا؟ اور بارش کیوں برسائی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانے اور سبزہ۔ وہ علاقے جن میں نہریں اور ٹیوب دیل ہیں بارش نہ ہو تو ان پر بھی زد پڑتی ہے اور جو بارانی علاقے ہیں کہ جہاں فصلیں صرف بارش سے ہوتی ہیں وہ بے چارے تو اجڑ (بنجر ہو) جاتے ہیں (اور ان کی زبان باہر نکل آتی ہے) تو بارش کے ذریعے دانے اور سبزیاں کون اُگاتا ہے، ان کا خالق کون ہے؟

وَجَنَّتِ الْفَافَا اور گھنے باغ۔ الْفَافَا لَفِيفٌ کی جمع ہے اور لَفِيفٌ کا معنی ہے گھنا۔ ایسے باغ کہ ٹہنیوں پر ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں یہ باغ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں کیا تم ان کا انکار کر سکتے

ہو؟ وہ قادر مطلق ہے جس نے یہ سب کام کیے جو تمہارے سامنے ہیں اور تم مانتے ہو اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پروردگار جو دانوں کو مٹی میں ملا کر اگا دیتا ہے۔ کیسے خوب صورت پودے کھڑے کر دیتا ہے، وہی تمہیں ریزہ ریزہ کر کے مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ کھڑا کرے گا۔

فرمایا **إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا** بے شک فیصلے والے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گا۔ دنیا میں بھی مقدمے چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں مگر بسا اوقات سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا ہو جاتا ہے، بے گناہ پھنس جاتے ہیں اور مجرم بری ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی دھوکا، فراڈ اور داؤ نہیں چل سکے گا حق کا فیصلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ **يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ** جس دن پھونکا جائے گا صور میں، بگل پھونکی جائے گی۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے صور پھونکنے کی اور وہ رکوع کی حالت میں صور منہ پر رکھ کر انتظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں بگل بجا دوں۔ تو جس دن بگل پھونکی جائے گی **فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا** پس آؤ گے تم فوج در فوج۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ ابلیس، جو ناری مخلوق میں پہلا ہے اس سے لے کر آخری جن تک، تمام حیوانات، چرند، پرند، حشرات الارض جمع ہوں گے۔ کیا نقشہ ہوگا شہروں کی اکٹھی آبادی کو سامنے رکھ کر اندازہ لگا لو۔ جماعت در جماعت آئیں گے۔

یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے **وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا** اور کھول دیئے جائیں گے آسمان پس ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے۔ اس کو اس طرح

سمجھو کہ مکان سے دروازے نکال دیئے جائیں تو باقی خالی خانے اور سوراخ ہی سوراخ نظر آئیں گے پھٹنے سے پہلے یہ کیفیت ہوگی۔ پھر ساتوں آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کتابوں پر بستہ لپیٹا جاتا ہے۔

سورة الانبياء آیت نمبر ۱۰۴ میں ہے **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ** ”جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔“ یا اس طرح سمجھو کہ سائبان کو ضرورت کے وقت سر پر لٹکا دیا جاتا ہے ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے **وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ** اور چلا دیئے جائیں گے پہاڑ **فَكَانَتْ سَرَابًا**۔ اصل میں سراب کہتے ہیں ریتلے علاقوں میں دوپہر کے وقت جو گرمی نکلتی ہے یوں لگتا ہے ریت سے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو معنی کرتے ہیں چمکتی ہوئی ریت اور باریک غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور سورة القارعة پارہ ۳۰ میں ہے **وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ** ”اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح۔“ اور زمین کی سطح بالکل ہموار ہو جائے گی **لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا** ﴿طہ: ۱۰۷، پارہ: ۱۶﴾ ”نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیلا“ فرض کرو کوئی آدمی مشرق سے چل کر مغرب میں پہنچنا چاہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کوئی ناپینا شمال سے جنوب میں پہنچنا چاہے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

اور یاد رکھو! **إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا**۔ مرصاد کا معنی ہے گھات۔ جہاں بیٹھ کر لوگ دشمن پر حملہ کرتے ہیں یا شیر، چیتے کے شکار کے لیے کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر بیٹھنا۔ تو وہ جگہ جہاں وہ شکار کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو گھات کہتے ہیں اور عربی میں

مرصاد کہتے ہیں۔ تو جس طرح وہ چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے یا دشمن پر وار کرنے کے لیے اسی طرح جہنم تمہارے گھات میں ہے، انتظار میں ہے مگر سب کے لیے نہیں بلکہ لَلظَّاعِنِ مَآبًا سرکشوں کے لئے ٹھکانا ہے لِبِشِينٍ فِيهَا آخِقَابًا۔
 آخِقَابِ حُقْبٍ کی جمع ہے۔ حُقْبُ کا معنی ہے دَهْرًا طَوِيلًا لمسا زمانہ۔ تو معنی ہوگا ٹھہریں گے اس دوزخ میں زمانہ ہائے زمانہ۔ جنت دوزخ کی زندگی کتنی لمبی ہوگی؟
 آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور دروغہ جہنم سے کہیں گے دعا کرو اپنے رب سے يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِآمِنِ الْعَذَابِ ﴿المومن: ۴۹﴾
 ”ہلکا کر دے وہ ہم سے ایک دن ہی عذاب۔“ کچھ سکون ہو جائے گا۔ جس طرح مزدور اور ملازم چھٹی والے دن خوش ہوتے ہیں کہ آج سوئیں گے، آرام کریں گے۔ اسی طرح جہنمی کہیں گے کہ ایک دن عذاب میں تخفیف ہو جائے ہمیں سکون مل جائے مگر لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا نہیں چکھیں گے دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی۔ ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا گرم پانی ملے گا جس کے متعلق آگے بیان ہوگا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ



لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۗ

الْأَحْمِيمًا ۗ وَغَسَاقًا ۗ جَزَاءً ۗ وَفَاقًا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
حِسَابًا ۗ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا كِتَابًا ۗ
فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۗ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۗ
حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۗ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۗ وَكَأَسَادٍ نَهَاقًا ۗ
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ۗ جَزَاءً ۗ مِمَّنْ رَزَّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۗ
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ
خِطَابًا ۗ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا
مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۗ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ
شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ آبَاءٍ قَرِيبًا ۗ يَوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكُفْرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا نہیں چکھیں گے دوزخ میں بَرْدًا نہ کوئی
ٹھنڈک وَّ لَا شَرَابًا اور نہ پانی الْاَحْمِيمًا مگر گرم پانی وَ غَسَاقًا
اور پیپ جَزَاءً وَ فَاقًا بدلہ ہوگا پورا پورا (ان کے اعمال کے موافق)
إِنَّهُمْ كَانُوا بے شک وہ تھے لَا يَرْجُونَ حِسَابًا نہیں امید رکھتے
حساب کی وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا اور جھٹلایا انھوں نے ہماری آیتوں کو
زور سے جھٹلانا وَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو أَحْصَيْنَاهُ شمار کر رکھا ہے ہم نے

كِتَابًا كِتَابٌ فِي فِدْوَقُوا پس چھوتم فَلَئِنْ تَزِيدَكُمْ پس ہم نہیں
 زیادہ کریں گے تمہارے لیے إِلَّا عَذَابًا مگر عذاب إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
 بے شک پرہیزگاروں کے لیے مَفَازًا کامیابی ہے حَدَائِقَ
 باغات ہوں گے وَأَعْنَابًا اور انگور وَكَوَاعِبَ اور نوجوان عورتیں
 أَتْرَابًا ہم عمر وَكَأْسًا اور پیالے ہوں گے دِهَاقًا بھرے ہوئے لَا
 يَسْمَعُونَ فِيهَا نہیں سنیں گے اس میں لَغْوًا کوئی بے ہودہ بات وَلَا
 كِبْدًا اور نہ جھٹلانا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے
 عَطَاءً دیا ہوا حِسَابًا حساب سے رَبِّ السَّمَوَاتِ جو رب ہے
 آسمانوں کا وَالْأَرْضِ اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں
 کے درمیان میں ہے الرَّحْمَنِ نہایت رحم کرنے والا ہے لَا يَمْلِكُونَ
 نہیں مالک ہوں گے مِنْهُ اس کی طرف سے خِطَابًا بات کرنے کے
 يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ جس دن کھڑا ہوگا روح الامین وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے
 صَفًّا قطار در قطار لَا يَتَكَلَّمُونَ نہیں کلام کر سکیں گے إِلَّا مَنْ
 مَّكْرَهُ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ جس کو اجازت دے گا رحمان وَقَالَ صَوَابًا
 اور کہے گا بات ٹھیک ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ یہ دن برحق ہے فَمَنْ شَاءَ
 پس جو شخص چاہے اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ بنالے اپنے رب کی طرف مَابًا ٹھکانا
 إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے عَذَابًا قَرِيبًا قریبی

عذاب سے یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ جس دن دیکھے گا آدمی مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے وَ یَقُولُ الْكَافِرُ اور کہے گا کافر یَلَيْتَنِي کاش کہ میں کُنْتُ تُرَابًا ہوتا مٹی۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جس ذات نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، تمھارے جوڑے پیدا کیے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن بنایا روزی کمانے کے لیے، بادلوں سے بارش برسائی، زمین سے دانے اُگائے، گھنے باغات پیدا کیے۔ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ قیامت قائم کرے گا۔ پھر ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ جہنم سرکشوں کی تاک میں ہے اور وہ سرکشوں کا ٹھکانا ہے۔ وہ قرن ہائے قرن دوزخ میں رہیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا نہیں چکھیں گے وہ دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا مگر گرم پانی اور پیپ۔

دنیا میں گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈی بوتلیں پی کر، شربت، جوس پی کر کلیجے کو ٹھنڈا کرتے ہیں لیکن دوزخیوں کو گرم پانی ملے گا ایسا کہ یَسْوَى الْوُجُوهُ ﴿سورة الكهف﴾ ”چہروں کو جلادے گا۔“ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينَعُهُ ﴿ابراہیم: ۷۱﴾ ”گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا۔“ اور قریب نہیں ہوگا کہ حلق سے اتار سکے۔ چند قطرے بھی اندر چلے گئے تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿سورة محمد: ۱۵﴾ ”پس کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔“ آنتوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے نکال دے گا۔ جس طرح جمال گوٹہ اندر سے سب کچھ نکال دیتا ہے۔

اور سورت حج آیت نمبر ۱۹-۲۰ میں ہے ”اور بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی یَضْمَرُ بِهَمَّافِي بَطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ پگھلایا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی جلائی جائیں گی۔“ سارا چمڑا اُدھڑ کر پاؤں سے اتر جائے گا۔ کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں ہے۔ اور زخموں سے بہنے والی پیپ ہوگی۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ پانی جس سے پیپ اور خون دھویا گیا ہو (پیپ اور خون آلود پانی) وہ پلایا جائے گا۔ آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کراہت ہوتی ہے۔ یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔

جَزَاءً وِفَاقًا بدلہ ہوگا پورا پورا ان کے اعمال کا جو انھوں نے کیے ہیں۔ یہ بدلا ان کو کیوں ملے گا؟ اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی۔ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں کوئی حساب نہیں، کوئی میدان محشر نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا اور جھٹلایا انھوں نے ہماری آیتوں کو زور سے جھٹلانا۔ كَذَبَ کا معنی ہے جھوٹ اور كَذَاب کا معنی ہوتا ہے زوردار طریقے سے جھٹلانا۔ مثلاً: کسی نے کہا یہ قرآن جادو ہے، کسی نے کہا خود گھڑ کے لایا ہے، کسی نے کہا اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ کہہ لو جو کچھ کہنا ہے اور کر لو جو کچھ کرنا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ اَخَصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے کتاب میں۔ ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔

بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کی ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد ہر آدمی کا اعمال نامہ ہے۔ اس نے جو کیا ہے وہ اس میں درج ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ﴿۱۳﴾ یعنی اسرائیل: ۱۳۔ ”پڑھ اپنا اعمال نامہ۔“ ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔ چاہے پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھا ہے۔ ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی قوت عطا فرمائیں گے۔ خود پڑھے گا اور تعجب کرے گا اور کہے گا۔ مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴿۱۴﴾ الکہف: ۱۴۔ ”کیا ہے اس کتاب کو، میرے اعمال نامے کو نہیں چھوڑتا کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگر اس نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔“

یہ سب کچھ اس میں درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کئی نیکی، بدی کے کام کر کے بھول جاتا ہے۔ وہاں دماغ اتنا مضبوط اور قوی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آجائے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے فَذُوقُوا۔ پس چکھو تم اے مجرمو! فَلَنْ نُنَبِّئَكَم بِالْآعْذَابِ۔ پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ روز بہ روز عذاب کا اضافہ ہوگا۔ مثلاً: آج اگر چار درجے کا ہے تو کل پانچ درجے کا ہوگا اور پرسوں چھ درجے کا ہوگا۔ جس طرح مومنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ آج کے پھل کی اور لذت، کل کے پھل کی اور لذت اور پچھلے دن والے کی زیادہ لذت ہوگی۔ مقدار اور تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ کافروں کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اب ان کے مد مقابل پرہیزگاروں کا حال سنو!

فَرَمَا يَا۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ متقین کا مادہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ بہترین تقویٰ کفر و شرک سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ پھر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے

بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر، شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر مَفَاظًا مصدر میسی بھی بن سکتا ہے جس کا معنی ہے کامیابی اور اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کا معنی ہے کامیابی کی جگہ۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔

فرمایا حَدَّآبٍ - یہ حدیقہ کی جمع ہے۔ حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو۔ چاہے اینٹوں کی ہو، پتھروں کی ہو، مٹی کی ہو یا درختوں کی ہو۔ اور ایسا باغ جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو اسے عربی میں روضہ کہتے ہیں۔ تو پرہیزگاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگی وَأَعْنَابًا اور انگور ہوں گے۔ أَعْنَابٍ کی جمع ہے اور عِنَبٌ کا معنی ہے انگور۔ دنیا کے انگور جنت کے انگوروں کے مقابلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے وَتَوَاعِبِ أَثْرَابًا اور نوجوان عورتیں ہم عمر۔ وَتَوَاعِبِ یہ تَوَاعِبِ کی جمع ہے اور تَوَاعِبِ اس عورت کو کہتے ہیں جو اب جوان ہوئی ہے یعنی اس کے پستان ابھر آئے ہوں، اٹھتی جوانی۔ اور أَثْرَابِ تَزْوِجِ کی جمع ہے۔ تَزْوِجِ کا معنی ہے ہم عمر۔ یعنی وہ حوریں نوزاد اور ہم عمر ہوں گی۔ یعنی جنتی مردوں اور حوروں کی عمریں برابر ہوں گی۔

اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور جنتیوں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، شباب رہے گا۔ تیس سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ طبی اعتبار سے تیس سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور آدمی جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو قوت، عقل اور دماغ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور چالیس سال کے بعد قوت بدنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے (جنتی چاہے طاقت کی چیزیں

استعمال کرے اور سونے ہیرے کے کشتے کھائے۔ مرتب)

تو فرمایا جو ان ہم عمر عورتیں ہوں گی وَكَأْسًا دِهَاقًا اور پیالے ہوں گے
بھرے ہوئے، دودھ کے، شراب کے، شہد کے، خالص پانی کے اور جنت کے چشموں کا
ذکر بھی ہو چکا ہے۔ کافور، زنجبیل، سلسبیل اور کوثر کے چشمے۔ ان ذائقوں سے آدمی کو لطف و
سرور آئے گا اور پینے کے بعد طبیعت میں اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے کے کھانے
سے طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی۔ فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نہیں سنیں گے جنت میں
لَعْوًا کوئی بے ہودہ بات۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی
وَلَا كِبْرًا اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بات ہوگی۔

دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں جیسے سیاسی لوگ ایک دوسرے کو
جھٹلاتے رہتے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ (دوسرا) کہتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ ہم کہتے
ہیں سب سچ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہیں تو سارے ہی جھوٹے۔ لیکن جنت میں کوئی کسی کو نہیں
جھٹلائے گا جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے عَطَاءً حِسَابًا
دیا ہوا حساب سے۔ یہاں حساب کا معنی کافی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو
بدلہ ملے گا وہ کافی ہوگا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا
وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ فضا اور خلا ہے اور اس میں
جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔

رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا الرَّحْمٰن اور رحمان ہے بہت
رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ
کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں

جو مانگے پردے۔ دیکھو! کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیئے، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ کیوں کہ اس وقت انسان کو کوئی شد بدھ نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بن مانگے عطا فرمائیں۔ پھر جب شد بدھ حاصل ہوئی تو انسان نے اپنی ضروریات مانگنی شروع کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے عطا کر دیتا ہے۔

تو فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ رحمان ہے۔ اور یاد رکھو! لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا نہیں مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔ محشر میں اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہو گی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے لائق ہوگی۔ مخلوق بالکل خاموش ہوگی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ روح سے مراد جبریل عليه السلام ہیں کیوں کہ روح القدس جبریل عليه السلام کا لقب ہے اور روح الامین بھی ان کا لقب ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جبریل عليه السلام بھی کھڑے ہوں گے۔ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا اور باقی فرشتے بھی صف بہ صف کھڑے ہوں گے۔

انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے، عجیب منظر ہوگا ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں ایک نیکی تلاش کر کے لاتا کہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ تو وہ بڑی چاہ کے ساتھ اپنے لنگوٹے پیار کے

پاس جائے گا کہ بھائی مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ وہ کہے گا
 اِلَيْكَ عَتِي "میرے سے پیچھے ہٹ جا تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گا۔" پھر اپنے
 بھائی کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، مہم جو اب دے دیں گے۔ آخر
 میں اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اَتَعْرِفُنِي "کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟" کہے
 گی ہاں تو میرا وہی بیٹا ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھایا اور جنا اور پرورش کی۔ کہے گا
 امی! پھر بات یہ ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی مجھے دے دے تا کہ میرا
 نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گی اِلَيْكَ عَتِي "پیچھے ہٹ جا تجھے نیکی دے کر
 میں کہاں جاؤں گی؟"

سورۃ عبس پارہ ۳۰ میں ہے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۙ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ ۙ
 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ "جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور بھاگے گا اپنی ماں سے
 اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔" ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو
 گی۔

تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے
 قطار در قطار لَا يَتَكَلَّمُونَ نہیں کلام کر سکیں گے إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَكْرُوهٌ
 جس کو اجازت دے گا رحمان۔ جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ بول سکتے گا وَ
 قَالَ صَوَابًا اور کہے گا بات درست۔ آج دنیا میں ایسے ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہیں جو
 دوسرے کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں مگر وہاں یہ داؤ نہیں چلے گا اس لیے کہ اللہ
 تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی وہ علیہم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔
 فرمایا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ یہ دن برحق ہے، سچا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو

جب یہ حق ہے تو فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاتًا پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانا۔ آج موقع ہے جو کر سکتے ہو کر لو آنکھیں بند ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ اگر کچھ نہ کیا، کفر شرک سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ”اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھ یَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْئَلًا ﴿فرقان: ۲۷﴾ کاش میں بنا لیتا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ راستہ۔“ مگر اس وقت چیخنا چلانا کس کام کا۔

تو فرمایا پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ جَسَدًا كَانَ يَدْعُو تِلْكَ اَنْفُسًا اُخْرٰى جَسَدًا كَانَ يَدْعُو تِلْكَ اَنْفُسًا اُخْرٰى جَسَدًا كَانَ يَدْعُو تِلْكَ اَنْفُسًا اُخْرٰى جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے۔ نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہے گا کافر يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا کاش کہ میں ہوتا مٹی۔ بات توجہ سے سنیں! قیامت والے دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے سوائے تیرہ جانوروں کے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔

ایک ان میں سے اصحاب الکہف کا کتاب ہے، اور حضرت صالح عليه السلام کی اڈٹنی ہے، حضرت سلیمان عليه السلام کا ہدھد ہے، باقیوں کے نام بھی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ باقی سب جانور خاک کر دیئے جائیں گے۔ تو جس وقت جانوروں کو خاک کر دیا جائے گا تو کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا کیوں کہ سامنے نظر آرہی ہوگی وَيُرْتَبِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوِيْنَ ﴿اشعراء: ۹۱﴾ ایک تفسیر یہ ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر سے کافر اعظم مراد ہے، اور کافر اعظم ابلیس لعین

ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ کو سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔
 رب تعالیٰ نے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ ”کس چیز نے روکا تجھے کہ تو
 نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس موقع پر ابلیس نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
 میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿الاعراف: ۱۲﴾ آپ
 نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔“ میں خاک کی کو سجدہ کیوں کروں؟
 لیکن اس دن ابلیس یہ کہے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاک کیوں کو کیسے عہدے مل رہے
 ہیں کاش! کہ میں بھی مٹی ہوتا اور درجے پاتا۔ تو کافر سے مراد کافر اعظم ہے۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900

آياتها ۲۲ ﴿۹﴾ سُورَةُ اللّٰزِعَاتِ مَكِّيَّةٌ ۸۱ ﴿۲﴾ رُكُوعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَاللّٰزِعَاتِ غَرْقًا ۝۱ وَالنّٰشِطَاتِ نَشْطًا ۝۲ وَالسّٰبِغَاتِ سَبْحًا ۝۳
 فَالسّٰبِغَاتِ سَبْحًا ۝۴ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ۝۵ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝۶
 تَتَّبِعُهَا الزّٰادِفَةُ ۝۷ قُلُوبٌ یُّومِیْدُ وَاِجْفَةٌ ۝۸ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝۹
 یَقُولُوْنَ اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِی الْحَافِرَةِ ۝۱۰ اِذَا كُنَّا عِظَامًا
 مُّخِرَةً ۝۱۱ قَالُوْا تِلْكَ اِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝۱۲ فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝۱۳
 فَاِذَا هُمْ بِالسّٰاهِرَةِ ۝۱۴ هَلْ اَتٰکَ حَدِیْثُ مُوسٰی ۝۱۵ اِذْ نَادٰهُ
 رَبُّکَ یٰاِلٰوَادِ الْمَقْدَسِیْنَ طُوٰی ۝۱۶ اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ کٰفِرٌ
 فَقُلْ هَلْ لَّکَ اِلٰی اَنْ تَزٰکٰی ۝۱۷ وَاَهْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْشٰی ۝۱۸
 فَارِهُ الْاٰیَةَ الْکُبْرٰی ۝۱۹ فَکَذَّبَ وَعَصٰی ۝۲۰ ثُمَّ اَدْبَرَ یَسْعٰی ۝۲۱
 فَحَشَرَ فَنَادٰی ۝۲۲ فَقَالَ اِنَّا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی ۝۲۳ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ
 الْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَلٰی ۝۲۴ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ یُّخْشٰی ۝۲۵

وَاللّٰزِعَاتِ غَرْقًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچ لاتے ہیں بدن
 میں ڈوب کر وَالنّٰشِطَاتِ نَشْطًا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے
 ہیں کھول دینا وَالسّٰبِغَاتِ سَبْحًا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا

فَالسَّبِقَاتِ سَبَقًا . قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے
 جانا . فَالْمَدْبِرَاتِ أَمْرًا . پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
 کے حکم کی . يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ . جس دن کانپے گی کانپنے والی . تَتَّبِعُهَا
 الرَّادِفَةُ . اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی . قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ . کچھ
 دل اس دن کانپ رہے ہوں گے . أَبْصَارٌ هَا خَاشِعَةٌ . آنکھیں ان کی جھکی
 ہوں گی . يَقُولُونَ . کہتے ہیں . إِنْ أَلْمَرْدُودُ دُونَ فِي الْحَافِرَةِ . کیا بے شک
 ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف . إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً . کیا
 جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ . قَالُوا . یہ کہتے ہیں . تِلْكَ إِذَا كَرَّجَتْ
 خَاسِرَةٌ . یہ لوٹ آنا تو نقصان دہ ہوگا . فَأَلْمَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . پس پختہ
 بات ہے وہ جھڑک ہوگی ایک ہی . فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ . پس اچانک وہ میدان
 میں ہوں گے . هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . کیا پہنچی ہے آپ کے پاس موسیٰ
 ﷺ کی بات . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ . جب پکارا اس کو اس کے رب نے . بِالْوَادِ
 الْمُقَدَّسِ طُوًى . پاکیزہ میدان میں جس کا نام طوی ہے . إِذْ هَبَّ إِلَى
 فِرْعَوْنَ . جاؤ فرعون کی طرف . إِنَّهُ طَغَى . بے شک اس نے سرکشی کی
 ہے . فَقُلْ . پس آپ کہیں . هَلْ لَكَ . کیا تجھے رغبت ہے . إِلَى أَنْ تَرَخِي
 اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے . وَأَهْدِيكَ . اور میں تیری راہ نمائی
 کروں . إِلَى رَبِّكَ . تیرے رب کی طرف . فَتَخْشَى . پس تیرے اندر

خوف پیدا ہو جائے فَأَرَبَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پس دکھائی موسیٰ ﷺ نے اس کو
 بڑی نشانی فَكَذَّبَ وَعَصَى پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَذْبَرَ
 پھر اس نے پشت پھیری يَسْعَى دَوْرًا فَحَشَرَ پس اس نے اکٹھا کیا
 لوگوں کو فَتَأَذَى پس اس نے پکارا فَقَالَ پس کہنے لگا أَنَا رَبُّكُمْ
 الْأَعْلَى میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے
 نَكَالَ الْآخِرَةِ آخرت کی سزا میں وَالْأُولَى اور دنیا کی سزا میں إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَعِبْرَةً بے شک اس میں البتہ عبرت ہے لِمَنْ يَتَّخِذُ اس کے
 لیے جو ڈرا۔

نام، کوائف اور موضوع :

اس سورت کا نام نازعات ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ لفظ موجود ہے، اسی سے لیا
 گیا ہے۔ اس سورت کے دور کوع اور چھپالیس ۴۶ آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اسی
 ۸۰ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ پچھلی سورت کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کا
 ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا ہے۔

وَالذَّرْعَتِ غَرْقًا سے لے کر فَأَلْمَدَبَاتِ أَمْرًا تک کی مختلف تفسیریں
 بیان کی گئی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں ایک
 تفسیر یہ کرتے ہیں کہ فرشتے مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ
 قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچ لاتے ہیں بدن میں ڈوب کر غوطہ لگا کر۔ فرشتوں
 کے لیے جان کے اندر جانا آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرشتوں کے لیے تو دیواروں کی بھی

کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔ ہم مرنے والے کو دفن کر کے منوں کے حساب سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور فرشتے حساب کتاب کے لیے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں کوئی شے نہیں ہیں یعنی بے حیثیت ہیں۔

سورت النساء آیت نمبر ۷۴ میں ہے **اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيْدِرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ** ”تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں پاپے کی اگرچہ تم مستحکم اور مضبوط قلعوں میں ہو۔“ بعض بچے جان پڑنے کے بعد ماں کے پیٹ ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ فرشتے پیٹ میں ہوتے ہوئے جان نکال لیتے ہیں، پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ **وَالنَّشِطِطِ نَشْطًا** اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھول دیتے ہیں گرہ کھول دینا۔ فرشتے سونوں کی جان اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح کوئی گرہ آرام سے کھول لی جاتی ہے روح کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی **وَالسَّيِّحَاتِ سَبِيحًا** اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا **فَالسَّيِّحَاتِ سَبِيحًا** قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں رب تعالیٰ کے حکم میں سبقت لے جانا **فَالْمَدْبِرَاتِ اَمْرًا** پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی رو سے یہ ساری صفات فرشتوں کی ہیں اور جو اب قسم محذوف ہے اور وہ ہے **لَتُبْعَثُنَّ** البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ قسم کے فرشتوں کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی صفتیں ہیں۔ معنی ہوگا قسم ہے مجاہدین کی ان جماعتوں کی جو کھینچ لاتے ہیں اپنے قیدیوں کو دشمنوں کی فوجوں میں گھس کر لڑائی کے دوران میں۔ مجاہدین کے ساتھی بھی گرفتار ہوتے ہیں تو یہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں میں گھس کر کھینچ لاتے ہیں وَاللَّشِطَةِ نَشْطًا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو قیدیوں کی گرہ کھول دیتے ہیں۔ کسی کو ہتھ تڑی لگی ہوئی ہے، کسی کو بیڑی لگی ہوئی ہے، کسی کو رسی سے باندھا ہوا ہے، یہ ساری گرہیں کھول کر ساتھیوں کو نکال لاتے ہیں وَالشَّيْخَةِ سَبْحًا اور ان کو لے کر اپنے مورچوں کی طرف تیرتے ہوئے جاتے ہیں فَالْشَّيْخَةِ سَبْحًا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جو اپک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں فَالْمَدَّيْرَاتِ أَمْرًا اور قسم ہے ان مجاہدین کی جماعتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں کام کی۔ حسن تدبیر سے جہاد کرتے ہیں، مورچے سنبھالتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، کافروں سے لڑتے بھی ہیں۔

تیسری تفسیر یہ ہے کہ علماء مراد ہیں کہ علماء کی جماعتیں علم کی گہرائی میں ڈوب کر نکات نکالتی ہیں۔ (نکتہ آفرینی کرتی ہیں) علماء لوگوں کے شکوک و شبہات کی گرہوں کو کھولتے ہیں اور تیرتے ہیں علمی میدان میں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور حسن تدبیر سے دین پہنچاتے ہیں۔

چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے واعظین مراد ہیں کہ پہلے زمانے میں علماء خود جا کر وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آج کل اس کا سمجھنا مشکل نہیں یوں سمجھ لو کہ معنی ہے کہ جس طرح یہ تبلیغی جماعتیں آدمیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں محلوں سے، دفتروں اور دکانوں سے، مسجدوں میں داخل کرتے ہیں اور ان کے حیلوں بہانوں کی گرہیں کھول کر کہ کوئی کہتا ہے میری دکان ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ یعنی

ایک دوسرے سے بڑھ کر تبلیغ کرتے ہیں۔ اور وہ جماعتیں حسن تدبیر سے کام کو چلاتی ہیں۔ جو اب قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے قیامت ضرور آئے گی۔ کس دن آئے گی؟

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَسُدُّ دُنُوبَكُمْ كَمَا تَسُدُّ وَالِي ۝ يَوْمَ تَكْفُرُ سِرَابِيلُ ۝

یوم تہ رجفہ الراجفۃ۔ جس دن کانپنے والی۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب صور پھونکیں گے تو ساری دنیا کانپنے کی جیسے ریل گاڑی جب لائن پر سے گزرتی ہے تو آسن پاس کی چیزیں کانپتی ہیں، زمین ہلتی ہے۔ ہوائی جہاز جب نزدیک ہو تو مکان کانپتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں بندوں کی ایجاد ہیں۔ اور نفخہ اسرافیل تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ جب پھونکیں گے تو ساری دنیا کانپنے کی تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی۔ چالیس سال کے بعد اسرافیل علیہ السلام پھر صور پھونکیں گے اور ساری دنیا اٹھ بکھری ہوگی۔

بخاری شریف کی روایت سے مطابقت پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِعَةٌ ۝ كَمْ يَكْفُرُونَ لِقَائِ اللَّهِ ۝ يَوْمَئِذٍ يَخِرُّ مَنِ اتَّبَعَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَخِرُّ مَنِ اتَّبَعَ ۝

یومئذ قلوب واجعۃ۔ کفھول اس دن کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو محرم، منافقان اور کفار اللہ تعالیٰ کے باغی ہوں گے۔ مومنوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا يَخِرُّنَّهُمُ الْقُرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴿الانبياء: ۲۰﴾ ”نہیں غم میں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ اور ملیں گے ان سے فرشتے۔“ صرف جب تعالیٰ کی جلالت کی گھبراہٹ ہوگی، جرموں کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لَا يَخِرُّنَّهُمُ الْقُرْعُ الْأَكْبَرُ ۝ آئیکھیں ان کی جھکی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے کہ ہم انکار کرتے رہے، قیامت کا، میدان محشر کا پہلے حراط کا، تو یہ جب کچھ جب مساتے آجائے گا تو شرمندہ ہو جائیں گے اور جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا ہے۔

اور آج يَقُولُونَ یہ کافر لوگ کہتے ہیں ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف جس میں ہمارا روح اور جسم اکٹھے ہیں اور ہم چلتے پھرتے ہیں۔ مر کے جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہم موجودہ حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ۔ اگر ان کو ہاتھ لگا دو تو چورا چورا ہو جاتی ہیں قَالُوا کہتے ہیں تِلْكَ اِذَا كُرْتُهُ خَاسِرَةٌ یہ لوٹ کر آنا تو نقصان دہ ہوگا۔ یہ استہزاء کرتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے خاک میں رمل جائیں گے پھر ہم موجودہ حالت میں انسان بنا دیئے جائیں گے پھر تو بڑا نقصان ہوگا۔ یہ مذاق اڑاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس بے شک وہ جھڑک ہوگی ایک ہی۔ حضرت اسرافیل جب بگل پھونکیں گے سارے انسان جہاں بھی ہوں گے میدان میں آ جائیں گے۔ چاہے درندوں نے کھائے ہیں یا مچھلیوں نے ہڑپ کیے ہیں یا پرندوں نے نوچے ہیں، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں رہے گا فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پس اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ سَهَرًا کا معنی ہے میدان۔

قریش مکہ کی اس ضد پر کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا کوئی قیامت نہیں ہے اور توحید کے انکار کرنے سے آنحضرت ﷺ کو بڑا افسوس ہوتا تھا، بڑا صدمہ ہوتا تھا اور طبعی طور پر ہونا بھی چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بڑی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی۔ جو فرماتے تھے سارے سمجھ جاتے تھے۔ پیغمبر کی پاک زبان ہو، قوم کی بولی میں سمجھائے، پھر معاوضے کا مطالبہ بھی کوئی نہ ہو اور یہ کہیں کہ **اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ** ”میری مزدوری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔“ پھر بھی

نہ مانیں تو کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ پھر فائدہ بھی ان کا اور الٹا کہیں کہ جادو گر ہے، جھوٹا ہے۔ کاہن اور مفتری کہیں تو طبعی طور پر ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اگر آج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔

واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام :

فرمایا هَلْ اَسْأَلُكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ جس وقت پکارا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے بِالْوَادِ مِيدَانٍ مِّنَ الْمُقَدَّسِ جو پاکیزہ ہے طَوًى اس کا نام طوی ہے۔ طور پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طوی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آرہے تھے آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ حضرت صفورا علیہا السلام اور بعض روایتوں میں ہے کہ خادم بھی ساتھ تھا۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، راستہ بھول گئے۔ ادھر ادھر دیکھا کہ ایک طرف آگ نظر آئی تو فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارَ الْعَلِيِّ اتَّيَكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَعًا عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿طہ: ۱۰﴾ ”پس کہا اپنے گھر والوں کو تم ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ سگا کر یا پاؤں میں آگ پر کوئی راہ بتانے والا۔“ وہاں ایک درخت تھا بعض کہتے ہیں کہ عناب کا درخت تھا۔

بعض کہتے ہیں آکاس ہیل جو کیکر وغیرہ درختوں پر پیلے رنگ کی چڑھی ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو علیق کہتے ہیں۔ اس میں روشنی تھی جیسے ٹوب جل رہی ہو۔ وہ ظاہری

اگ نہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا۔ وہاں جس وقت پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنِّیْ اَنَارْتُکَ ”میں آپ کا رب ہوں“ میں تجھے نبوت دوں گا۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور عصا مبارک والا معجزہ اور ید بیضا والا معجزہ بھی ملا۔

اور فرمایا اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی جادو فرعون کی طرف بے شک اس نے سرکشی کی ہے فَقُلْ پس آپ کہیں هَلْ لَّکَ اِلٰی اَنْ تَزٰیجَ کیا تجھے رغبت ہے اس بات کی طرف کہ تو پاک ہو جائے شرک سے، کفر سے، ظلم و جبر سے اے ظالم! تیرے حکم سے بارہ ہزار بچے اس لیے قتل ہوئے کہ تیرا اقتدار خطرے میں ہے وَ اَهْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ اور میں تیری راہ نمائی کروں تیرے رب کی طرف فَتَخَشٰی پس تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ تو نہ بندوں کا حق مارے اور نہ اللہ تعالیٰ کا۔

چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ اثر دہا بن گیا فَارٰہُ الْاٰیۃَ الْکُبْرٰی پس دکھائی اس کو بڑی نشانی فَکَذَّبَ وَعَصٰی پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ اَذْبَرَ پھر اس نے پشت پھیری یَسْعٰی دوڑا، کوشش کی جادوگروں کو لانے کی فَحَشَرَ پس اس نے جمع کیا جادوگروں کو فَتَادٰی پس اس نے پکارا یعنی میدان میں آ کر لگا را فَقَالَ پس کہا لوگوں سے اَنَارْتُکُمْ الْاَعْلٰی میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں فَآخَذَہٗ بِلِیْطِہٖ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے نَسَّالَ الْاٰخِرَۃَ آخرت کی سزا میں وَالْاٰوَّلٰی اور دنیا کی سزا میں کہ بحر قلزم میں ڈبویا اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَعِبْرَۃً بے شک اس میں عبرت ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہے لَمَنْ یَّخْشٰی اس کے لیے جو ڈرا۔ ڈرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔



ءَاَنْتُمْ

اَشَدُّ خَلْقًا اِمَّ السَّمَاءِ بِنُهَا ۙ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ۙ وَ
 اَغَطَّشَ لَيْلَهَا ۙ وَاَخْرَجَ صُحَّهَا ۙ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَا ۙ
 اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ۙ وَالْجِبَالَ اَرْسَهَا ۙ مَتَاعًا لَكُمْ
 وَاِلَنْعَامِكُمْ ۙ فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۙ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ
 الْاِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۙ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَىٰ ۙ فَاَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۙ
 وَاثَرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْاٰوَىٰ ۙ وَاَمَّا مَنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۙ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ
 هِيَ الْاٰوَىٰ ۙ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِهَا ۙ فَيَوْمَ اَنْتَ
 مِنْ ذِكْرِهَا ۙ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ۙ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يُخَشِهَا ۙ
 كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحًى ۙ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں اِمَّ السَّمَاءِ
 یا آسمان بنیہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو رَفَعَ سَمَكَهَا بلند کی اللہ
 تعالیٰ نے اس کی چھت فسویہا پس اس کو ہموار کیا وَاَغَطَّشَ لَيْلَهَا اور
 تاریک بنایا اس کی رات کو وَاَخْرَجَ صُحَّهَا اور نکالا اس کی روشنی کو وَ
 الْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَهَا اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا
 مَاءَهَا نکالا زمین سے اس کا پانی وَمَرْعَهَا اور چارا وَالْجِبَالَ اَرْسَهَا
 اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا مَتَاعًا لَكُمْ یہ تمہارے فائدے کے لیے

ہے وَلَا نَعَامِكُمْ اور تمہارے مویشیوں کے لیے فَاِذَا جَاءَتِ الظَّامَةُ
الْكُبْرَى پس جب آئے گا بڑا حادثہ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ جس
دن یاد کرے گا انسان مَا سَعَى جو اس نے کوشش کی ہے وَبُرِزَتِ
الْجَحِيْمُ اور ظاہر کر دی جائے گی نعلہ مارنے والی آگ لِمَنْ يَّرَى
اس کے لیے جو دیکھے فَأَا طغى بہر حال وہ شخص جس نے سرکشی کی
وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوِى
پس بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانا ہے وَآمَامَنْ خَافَ اور
بہر حال جو ڈرا مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَاوِى پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں اَيَّانَ مَرْسُهَا کب
ہوگا اس کا قائم کرنا فَيَمَّا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا تجھے کیا ضرورت ہے قیامت کے
ذکر کے بارے میں اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا آپ کے رب کی طرف ہے اس کی
انتهاء اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَّخْشٰهَا پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں
اس شخص کو جو قیامت سے خوف کھاتا ہے كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا گویا کہ وہ
جس دن دیکھیں گے قیامت کو لَمْ يَلْبَثُوْا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں
اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ صُحْبًا مَّ مگر دن کا پچھلا پہر یا پہلا پہر۔

اثباتِ قیامت :

اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اثبات تھا۔ اس رکوع میں بھی قیامت کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قیامت کے منکرو! **ءَأَنْتُمْ أَشْدُّ خَلْقًا** کیا تم زیادہ سخت ہو خلقت اور پیدائش میں **أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا** یا آسمان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ کیا تمہارا چھوٹا سا وجود بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اتنا بڑا وجود بنانا مشکل ہے؟ پھر ایک آسمان نہیں سات آسمان ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے **رَفَعَ سَمَكَمَهَا** بلند کی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت۔ نیچے نہ کوئی کھمبا، نہ ستون، نہ کوئی دیوار، اس رب کے لیے تمہاری پیدائش کیا مشکل ہے **فَسَوَّيْهَا** پس اس کو ہموار کیا۔ ایسا لیول، برابر کہ اس میں رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ آج مستری اپنا پورا زور لگا کر مکان بناتے ہیں، چھتیں ڈالتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: **وَإِغْطِشَ لَيْلَهَا** اور تاریک کیا اس کی رات کو۔ رب تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا اور تاریک بنا یا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟

تیسری دلیل: **وَأَخْرَجَ صُحُفَهَا** اور نکالا اس کی روشنی کو۔ دن پیدا کیا، دن بنانا مشکل ہے، رات بنانا مشکل ہے، آسمان بنانا مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟

اور دلیل: **وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا** اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ بنا کر پیڑا بنا کر رکھ دیا پھر سات آسمان بنائے اس کے بعد زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جس طرح پہلے آٹے کا پیڑا بنایا جاتا ہے پھر اس کی پھیلا کر

روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے زمین کا پیڑا بنا کر مکہ مکرمہ کے مقام پر رکھ دیا پھر شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً، اس کو بچھا دیا۔ تو یہ مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

اور دلیل سنو! أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا۔ اسی پانی سے مخلوق پیدا فرمائی، کیا حیوانات، کیا نباتات۔ عالم اسباب میں ان کی بود و باش اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ وَمَرَعَهَا اور چارازمین میں پیدا کیا۔ یہ جانوروں کے لیے چارازمین سے کس نے نکالا، تمہارے لیے سبزیاں کس نے پیدا فرمائیں؟ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جمادیا۔ زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی تو اس میں رب تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں تاکہ حرکت نہ کرے۔ اگر زمین حرکت کرتی رہتی تو لوگ نہ مکان بنا سکتے اور نہ آرام کے ساتھ رہ سکتے۔ آج معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر یہی رب تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا فَإِذَا جَاءَتِ الظَّامَةُ الْكُبْرَى پس جب آئے گا بڑا حادثہ۔

قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی دہشت والی چیز ہے۔ پہلے نفخہ اولیٰ ہوگا حضرت اسرافیل عليه السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بگل پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہو جائے

گی یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے۔ جان نکالنے والوں کا انچارج فرشتہ بھی نہیں رہے گا ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (العنکبوت: ۵۷) ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿سورة الرحمن: پارہ، ۲۷﴾ ”جو کچھ بھی زمین پر ہے سب نے فنا ہو جانا ہے باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔“
 حی و فیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی ہر شے کے لیے موت ہے۔ چاہے
 : اروں سال کوئی زندہ رہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً دو ہزار سال ہو گئے ہیں آسمانوں پر زندہ ہیں قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، یہود و نصاریٰ کا صفایا کریں گے، دجال لعین کو قتل کریں گے، چالیس سال حکمرانی کریں گے ﴿ثُمَّ يَمُوتُ وَيُصَلِّيٰ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ﴾ ”پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔“ شیطان کی عمر بڑی لمبی ہے۔
 حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیا اور ابھی تک وہ زندہ ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ قبروں سے اٹھنے تک ﴿اَنْظِرْنِيْ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿الاعراف: ۱۴﴾ گویا کہ وہ موت سے بچنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿الحجر: ۳۸﴾ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا کے لیے بگل پھونکیں گے اس وقت تک تجھے مہلت ہے تو موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو ابلیس پر بھی موت آئے گی۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَىٰ جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی

ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حافظہ اتنا تیز کر دیں گے کہ ہر چیز یاد آجائے گی وَمَنْ تَدَجَّدُ كُلُّ
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَصَّرًا ”جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا نیکی کا
سامنے۔“ ﴿آل عمران: ۳۰﴾ نیکی، بدی سب سامنے آجائے گی۔ تو فرمایا اس دن یاد
کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہے وَيُؤَذِّبُ الْجَحِيمَ لِمَنْ يَّرَىٰ اور ظاہر
کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جو دیکھے۔ جحیم کا معنی ہے
بھڑکنے والی آگ، شعلہ مارنے والی آگ۔

اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں تشریف فرما ہوں گے جو ان کی شان کے لائق ہے۔
نیک و بد ساری مخلوق موجود ہوگی اور دوزخ ان کو نظر آئے گی۔ اور سورت تنویر میں ہے
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ﴿۱۵﴾ ”اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔“ ابھی جنت، دوزخ میں
کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا
مَنْ طَغَىٰ بہر حال وہ شخص جس نے سرکشی کی۔ پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی
کتابوں کو نہ مانا، حق بیان کرنے والوں کی مخالفت کی وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ترجیح دی
دنیا کی زندگی کو آخرت پر کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو بھلا دیا۔

ایک ہے دنیا میں رہ کر دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے
دولت کمانا۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ ہاں! اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا ہی کو سب
کچھ سمجھ لے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، جائز و ناجائز کی پروا نہ کرے، حق و باطل میں
فرق نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل اکثر یہی طریقہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام سے پچنا بڑا مشکل ہوگا اور
کچھ نہ ہو تو حرام کا دھواں ہی ناک میں پہنچے گا۔

دیکھو! جو لوگ اپنی رقم محض حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھتے ہیں اور سود نہیں لیتے مگر بینک والے تو اس مال کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ان کی رقم کو بینک میں تو بند کر کے نہیں رکھ دیتے (تو سودی کاروبار میں تعاون تو ہو گیا۔) لہذا مسئلہ سمجھ لو۔ اگر بینک سے سود ملے تو لے لو بینک میں نہ چھوڑو۔ ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو دے دو ورنہ بینک والے بابو کھا جائیں گے، ان کا حق نہیں ہے۔

بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سود کی رقم لے کر سڑک بنوادیتے ہیں، بعض گلی بنادیتے ہیں، بعض بیت الخلاء بنادیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ ان چیزوں کو غریب بھی استعمال کرتے ہیں اور امیر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس رقم کے امیر مستحق نہیں ہیں۔

توفر مایا اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى پس بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور بہر حال جو ڈر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں میں کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف اس کے دل میں ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور روکا اپنے نفس کو ان خواہشات سے جو خلاف شرع ہیں۔ اور جو طبعی خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کھانے پینے کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، جنسی جائز خواہشات ہیں جو خلاف شرع نہ ہوں۔ تو جس نے خلاف شرع خواہشات سے اپنے آپ کو روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

مشرکین مکہ کو جب بُرے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت برپا ہوگی، نیکی اور

بڑی کا حساب ہوگا تو پھر پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا **يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ** **أَيَّانَ تَأْتِي سَاعَتُهَا** یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا قائم کرنا کب لانی ہے قیامت؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، **فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا**۔ آپ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں۔ قیامت کا علم صرف رب تعالیٰ جانتا ہے **إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا** آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہاء۔ قیامت کا جو صحیح وقت ہے اس کو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ رب تعالیٰ کے پاس راز ہے۔

احادیث میں اتنا آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، دس محرم کی تاریخ ہوگی۔ لیکن وہ جمعہ کس سال کا ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، کون سی صدی کا ہوگا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جس روایت میں دس محرم کا ذکر ہے وہ نہایت ہی کمزور روایت ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح روایت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا، جمعہ والے دن جنت سے نکالا اور جمعہ والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔

فرمایا **إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا** پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ قیامت کا علم آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ آج تو یہ قیامت کا وقت پوچھتے ہیں مگر جب وہ برپا ہو جائے گی **كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ أَعْرَابٌ** گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے قیامت کو تو ایسے محسوس کریں گے **لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا** کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر۔ یعنی ایسے محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں تھوڑا عرصہ رہے ہیں۔ کوئی کہے گا **سَاعَةٌ مِّن**

التَّهَارِ ایک گھنڈہ رہے ہیں دنیا میں۔ کوئی ایک دن کہے گا۔ مختلف تعبیریں ہوں گی مگر اتنی بات قطعی اور یقینی ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہ سب تعبیریں قلت پر دال ہوں گی۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو نتیجہ سامنے آجائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ عَبَسَ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. These include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of which to use depends on the specific requirements of the study.

The third section provides a detailed overview of the results obtained from the data analysis. It highlights several key findings that have significant implications for the field. For example, the study found that there is a strong correlation between the variables being measured, which was not previously established.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the findings in different contexts. The author also expresses confidence in the reliability of the data and the validity of the conclusions drawn.

آیتها ۲۲ ۱۰. سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ ۲۲ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى ۳
 اَوْ يَدَّكُرُ فِتْنَعَهُ الذِّكْرٰى ۴ اَمَّا مَنْ اسْتَعْنٰى ۵ فَاَنْتَ لَهٗ
 تَصَدِّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا يَزْكٰى ۷ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۸
 وَهُوَ يَخْشٰى ۹ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ۱۰ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱ فَمَنْ
 شَاءَ ذَكَرْهُ ۱۲ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۱۳ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴ بِاَيْدِى
 سَفَرَةٍ ۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۱۷ مِنْ اٰمِى
 شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸ مِنْ نُّطْفَةٍ ۱۹ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۲۰ ثُمَّ السَّبِيْلَ
 يَسِّرَهُ ۲۱ ثُمَّ اَمَاتَهُ ۲۲ فَاَقْبَرَهُ ۲۳ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرَهُ ۲۴

عَبَسَ تیوری چڑھائی وَتَوَلَّى اور اعراض کیا اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى
 اس واسطے کہ آیا ان کے پاس نابینا وَمَا يُدْرِيكَ اور آپ کو کس نے بتلایا
 لَعَلَّهٗ يَزْكٰى شاید کہ وہ پاک ہو جائے اَوْ يَدَّكُرُ یا وہ نصیحت حاصل کرے
 فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى پس اس کو نفع دیتی نصیحت اَمَّا مَنْ اسْتَعْنٰى
 بہر حال جس شخص نے بے پروائی اختیار کی فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّى پس آپ
 اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا يَزْكٰى حالانکہ آپ کے

ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور
 بہر حال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا بھی ہے
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ پس آپ اس سے غفلت برتتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
 خبر داریہ آیات نصیحت ہیں فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ پس جو شخص چاہے اس
 نصیحت کو قبول کرے فِي صُحُفٍ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے مُكْرَمَةٌ
 جو عزت والے ہیں مَرْفُوعَةٍ بلند ہیں مُطَهَّرَةٍ پاک ہیں بِأَيْدِي
 سَفَرَةٍ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں كِرَامٍ جو بڑے بزرگ
 بَرَرَةٍ شریف ہیں (نیک ہیں) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا رَا جَاءَ انْصَانَ مَا
 أَكْفَرَهُ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا ہے مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ
 کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مِنْ نُطْفَةٍ نطفے سے خَلَقَهُ
 پیدا کیا اس کو فَقَدَرَهُ پھر اندازہ رکھا اس کا ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ پھر
 راستہ آسان کیا اس کے لیے ثُمَّ أَمَاتَهُ پھر اس کو موت دی فَأَقْبَرَهُ
 پھر اس کو قبر میں ڈال دیا ثُمَّ إِذَا شَاءَ پھر جب چاہے گا أَنْشُرَهُ اٹھا
 دے گا اس کو۔

نام اور کوائف :

اس سورۃ کا نام ہے سورت عبس۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی عبس ہے۔ یہ
 سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے تیس (۲۳) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔

نزول کے اعتبار سے اس کا چوبیسواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیالیس ﴿۴۲﴾ آیتیں ہیں۔ یہ پہلی سورت ہے جس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد جتنی سورتیں ہیں، ایک رکوع والی ہیں۔

ایک تو عمومی تبلیغ تھی جو آپ ﷺ امیر، غریب، اعلیٰ، ادنیٰ، سب کو کرتے تھے۔ ایک خصوصی تبلیغ تھی کہ سرداروں اور بڑے لوگوں کو جا کر سمجھاتے تھے، توحید و رسالت کی دعوت دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ان کی اولاد مسلمان ہو جائے، ان کے دوست احباب مسلمان ہو جائیں۔ ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو بھی اسلام لانے کی توفیق ہو جائے گی۔ مگر وہ لوگ بات کو قبول نہ کرتے تھے۔ کوئی تو ایسے بے رُخی کرتا کہ جب آپ ﷺ تشریف لے جاتے تو اٹھ کر چلا جاتا کہ مجھے کام ہے، کوئی منہ پھٹ ہوتا، کہتا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بعضے بڑے بڑے شریف بھی ہوتے تھے جو کہتے کہ دیکھو! ہم آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے پاس اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ الغرض جیسے جیسے جس کا مزاج ہوتا تھا اسی طرح کا برتاؤ کرتا تھا۔

شان نزول :

اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن تقریباً سارے سردار اکٹھے ہو کر آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھیڑ خانی کے واسطے آئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں چند صحابی موجود تھے۔ آپ ﷺ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا یہ قابو نہیں آتے تھے آج یہ خود آگئے ہیں میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں ان کے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے بڑی توجہ اور اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے توحید و رسالت پیش کی، رسالت پیش کی، قیامت کا مسئلہ پیش کیا، قرآن پاک کی حقانیت سمجھائی۔ گفتگو کے

دوران میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آگئے۔ گفتگو ہو رہی تھی وہ سنتے رہے۔ درمیان میں وقفہ ہوا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی نہ انہوں نے کوئی سوال کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ہے، نابینا تھے اندازہ نہ لگا سکے اور اپنا سوال شروع کر دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناراضی کی وجہ سے شکن (بل) پڑ گئے۔ عَبَسَ کا معنی ہے پیشانی پر بل پڑ جانا اور چہرے کا کچھ اُداس ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہو رہی ہے اور اس نے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا نہیں لیکن ان کے سوال کو پسند نہ کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔

سرداروں کے ساتھ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب عبد اللہ بن عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ میری غلطی ہے میں درمیان میں بول پڑا۔ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی۔

فرمایا عَبَسَ اس کی ضمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ معنی ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، ترش روئی کا اظہار کیا وَتَوَلَّىٰ اور اعراض کیا اِن اس واسطے کہ جَاءَهُ الْاَعْلَىٰ آیا ان کے پاس نابینا وَمَا يَذْرِيكَ اور آپ کو کس نے بتلایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لَعَلَّه يَزَيِّتِي شاید کہ وہ نابینا پاک ہو جائے، صفائی حاصل کرتا۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی تھا آپ اس کے سوال کا جواب دیتے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی اَوْ يَذَّكَّرُ یا وہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ اس کے سوال کا جواب دے دیتے اس کو نصیحت حاصل ہوتی فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی پس نفع دیتی اس کو

نصیحت۔ خود بھی عمل کرتے دوسرے لوگوں کو بھی بتلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اَقَامِنِ اسْتَعْنِي بہر حال جس شخص نے بے پروائی اختیار کی اسلام سے فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى پس آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے چھیڑ خانی اور شرارت کے لیے آئے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَ اَلَا يَرْبِّيْ حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ ان کا ایمان لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔

ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے :

ہدایت دینا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر ۵۶ میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَخْبَتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ” بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ کو محبت ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“

اگر ہدایت پیغمبروں کے اختیار میں ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو نافرمان نہ ہونے دیتے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دے دیتے جس نے ساری زندگی اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکا لگا کے رکھا آخر دم تک ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی و اعلیٰ کو ہدایت دے دیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے جو آخر تک مخالف ہی رہی ہے۔ بیٹیاں تھیں بیٹا کوئی نہیں تھا بیٹیوں نے بھی کہا اماں جی! ابا جی کا کلمہ پڑھ لو۔ بیٹیوں کو گھورتی تھی کہ میرے سامنے کلمے کا نام نہ لو۔ ہدایت اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو ہدایت دے دیتے۔ اگر بس میں ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے اپنے مہربان چچا عبد مناف ابو طالب کو ہدایت دے دیتے۔

ایک روایت کے مطابق آٹھ سال کی عمر مبارک میں ان کی تحویل میں گئے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق آپ ﷺ کی عمر مبارک اس وقت بارہ سال تھی۔ تو بارہ سال سے لے کر پچاس سال کی عمر مبارک تک اس چچے نے آپ ﷺ کی خدمت کی، لوگوں کا مقابلہ کیا، لوگوں سے ناراض ہوئے اور بہت کچھ ہوا مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ اقرار کرنے کے باوجود کہ آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے۔ ایک موقع پر کہا:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

”تحقیق میں جانتا ہوں محمد (ﷺ) کا دین دنیا کے تمام ادیان سے اچھا ہے۔“ مگر میں نے دھڑا نہیں چھوڑنا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

فرمایا کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے۔ یہ سردار لوگ نہیں سنورتے تو نہ سنوریں ان کا سنورنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿المائدہ: ۶۷﴾ ”اے رسول ﷺ! آپ پہنچادیں وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے۔“ جو احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچادیں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَقَامُنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور بہر حال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ پس آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ نابینا بے چارہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ سردار جو بے پروا ہیں محض چھیڑ خانی کے لیے آئے ہیں نہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی انھوں نے

اسلام قبول کرنا ہے آپ اُن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ نے وہ صحابہ جو مجلس میں تھے ان سے فرمایا کہ فوراً مابینے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب آپ ﷺ کے قاصدان کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے غلطی کی تھی کہ گفتگو کے دوران میں خواہ مخواہ اپنی بات شروع کر دی شاید آپ مجھے سزا دیں۔

بہر حال بے چارہ کانپتا ہوا آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا۔ آپ ﷺ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو آپ ﷺ کندھے پر رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھو۔ کہنے لگا حضرت! میں آپ ﷺ کی چادر پر کس طرح بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں تو نے میری چادر پر بیٹھنا ہے۔ حکم تھا، بیٹھ گئے۔ سردار اس وقت چلے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ آپ ﷺ نے یہ سورت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن مکتوم کو سنائی اور فرمایا کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے گو میری نیت غلط نہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ میرے قابو نہیں آتے تھے آج خود آگئے ہیں تو میں ان کو دین اچھی طرح سمجھا دوں۔ تیری بے قدری مقصود نہیں تھی آپ تو پھر بھی پوچھ لیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے دو دفعہ اپنی عدم موجودگی میں ان کو مدینہ طیبہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ جب آپ ﷺ جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی ذہانت
بھری چال :

قادسیہ کی لڑائی جو بڑی سخت اور مشہور جنگ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی

ہے۔ یہ کہنے لگے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت! آپ حافظ قرآن ہیں اور قرآن میں موجود ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ نابینا اگر جہاد نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے مگر میرے جانے میں گناہ بھی تو نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کریں گے کیا؟ فرمایا اور کچھ نہیں تو میں اذانیں دوں گا تمہیں نمازیں پڑھاؤں گا۔

ایک دن صبح سویرے نماز سے فارغ ہوئے جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ کہنے لگے دشمن ہم سے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ایک فرلانگ یا دو فرلانگ کے فاصلے پر ہے، مثال کے طور پر۔ کہنے لگے درمیان میں زمین ہموار ہے یا اونچ نیچ ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ہموار ہے۔ کہنے لگے جھنڈا مجھے دو۔ اس وقت جھنڈا امیر لشکر کے پاس ہوتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت! آپ جھنڈے کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے جھنڈے کو ہاتھ لگانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ جھنڈا لے کر دشمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ بزرگ صحابی ہیں، نابینا ہیں، وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ ان کی جان بچانے کے لیے ساتھی ان کے پیچھے دوڑے۔ دشمن کھانے پینے میں مصروف تھے انھوں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے، وہ اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا علاقہ بھی صحابہ کے قبضے میں آ گیا اور اسلحہ بھی۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ نے یہ عجیب کام کیا ہے۔ کہنے لگے میرا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کے ناشتے کا وقت ہے بے خبر ہیں جب ان کی طرف دوڑوں گا چونکہ میں نابینا ہوں میرے ساتھی میری مدد کے لیے آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا علاقہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا اور اسلحہ بھی۔

یہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 بہر حال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اس سے غفلت
 برتتے ہیں کَلَّا خَبِرَارًا اِنَّهَا تَذَكَّرَةٌ خبَر داریہ قرآن پاک کی آیات نصیحت
 ہیں فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ پس جو شخص چاہے اس نصیحت کو قبول کرے۔ ہم جبر نہیں
 کرتے رب تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کرے۔ اس نے اختیار دیا ہے
 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴿الکہف: ۲۹﴾ ”پس جس کا جی چاہے ایمان
 قبول کرے اپنی مرضی سے اور جو چاہے کفر اختیار کرنے اپنی مرضی سے، کوئی جبر نہیں
 ہے۔“

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ عِزَّتِ وَالِي صَحِيفٍ فِي لَكْهِي هُوَ كِي هِي صُحُفٍ
 صحیفہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کاپی۔ لوح محفوظ میں قرآن کریم کی سورتوں کی الگ
 الگ کاپیاں ہیں مَرْفُوعَةٍ جو بلند ہیں۔ یعنی بلند مقام میں ہیں مَطْهَرَةٍ پاک
 ہیں۔ وہ صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں جن میں قرآن کریم ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ - سَفَرَةٍ
 سَافِرٍ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے لکھنے والا۔ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کون
 ہیں كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ کرام کریم کی جمع ہے۔ معنی ہے بزرگ۔ اور بَرَرَةٍ بَارٍ
 کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے نیک صالح۔ اس کے لکھنے والے بڑے بزرگ، نیک اور
 صالح ہیں قَتِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ مارا جائے انسان کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا
 ہے۔

کافر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ کافر انسان غارت ہو جائے اس کو علم نہیں ہے
 مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تجھے اگر شرم آئے تو ہم بتا

دیتے ہیں مِنْ نُطْفَةٍ نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اے انسان! تو رب تعالیٰ کے ساتھ
متکا (ضد) لگاتا ہے اور اپنی اصل کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حقیر نطفے سے پیدا کیا
ہے خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ پس پیدا کیا اس کو پھر اندازہ رکھا اس کا کہ کتنے فٹ لمبا ہوگا، کتنا
موٹا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا، غبی ہوگا۔ ساری تقدیریں رب تعالیٰ نے فرمائی
ہیں ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ پھر راستہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ ماں کے
پیٹ سے اچھا خاصا نومند بچہ کس طرح باہر نکلتا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر
بود و باش کے راستے کس نے آسان کیے؟ رب تعالیٰ نے کیے ثُمَّ آمَنَّاہُ پھر اس کو
رب تعالیٰ نے موت دی فَأَقْبَرَهُ پھر اس کو قبر میں ڈال دیا۔ یعنی حکم دیا کہ اس کو قبر
میں ڈال دو۔

جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے ان علاقوں میں مردوں کو دفن کرتے تھے۔
مشرکین بھی اور یہودی اور عیسائی بھی، جلاتے نہیں تھے۔ تو ان کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ پھر جب چاہے گا اس کو اٹھادے گا اور وہ رب تعالیٰ کی عدالت میں
پیش ہوگا۔



كَلَّا لَنَا

يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۖ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ أَنَّا صَبَبْنَا
 الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ
 وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ وَفَاكِهَةً
 وَأَبًّا ۗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۗ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۗ
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۗ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَ
 بَنِيهِ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ وَوَجُوهٌ
 يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوَجُوهٌ
 يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۗ أُولَئِكَ هُمُ
 الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ۗ

کلا خبردار تمایقض ابھی تک پورا نہیں کیا (انسان نے) مَا
 اَمَرَهُ وہ جس کا اس کو حکم دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے انسان
 اِلَى طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک
 ہم نے برسایا پانی کو برسانا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر پھاڑا ہم نے زمین
 کو پھاڑنا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اگایا ہم نے اس میں اناج وَعِنَبًا
 اور انگور وَقَضْبًا اور ترکاریاں وَزَيْتُونًا اور زیتون وَنَخْلًا
 اور کھجوریں وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور باغات گھنے وَفَاكِهَةً اور

پھل وَّ اَبًا اور چارا مَتَاعًا لَكُمْ تمہارے فائدے کے لیے وَ
 لِاَنْعَامِكُمْ اور تمہارے مویشیوں کے لیے فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ
 پس جب آئے گی چیخ (کانوں کو پھوڑنے والی) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ
 بھاگے گا آدمی مِنْ اَخِيهِ اپنے بھائی سے وَ اُمِّهِ اور اپنی ماں سے
 وَ اَبِيهِ اور اپنے باپ سے وَ صَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے وَ بَنِيهِ
 اور اپنی اولاد سے لِكُلِّ اَمْرٍ مِّنْهُمْ ہر آدمی کے لیے ان میں سے
 يَوْمَئِذٍ اُس دن شَانْ حال ہوگا يُغْنِيهِ جو بے پروا کر دے گا اس
 کو (دوسروں سے) وَ جُوهٌ يَوْمَئِذٍ کچھ چہرے اس دن مُسْفِرَةٌ روشن
 ہوں گے صَاحِكَةٌ ہنسنے والے مُسْتَبْشِرَةٌ خوشیاں منانے والے
 وَ وُجُوهُ اور کچھ چہرے يَوْمَئِذٍ اس دن عَلِيَهَا غَبَرَةٌ ان پر گرد و
 غبار ہوگا تَرْتَفِقُهَا قَتَرَةٌ چھا جائے گی ان کے چہروں پر تار کول (سیاہی)
 اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ یہی لوگ ہیں کفر کرنے والے فسق و فجور
 کرنے والے۔

ربط آیات :

ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا رَجَا
 انسان مَا اَكْفَرَهُ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا ہے۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے
 اس کو پیدا کیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر
 آنے کے لیے راستہ آسان فرمایا، پھر اس کو موت دی اور حکم دیا اس کو قبر میں ڈالنے کا، پھر

قبر سے اٹھائے گا اور اس سے دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔

مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے ابھی تک نہیں

کیا۔ گلا۔ یہ لفظ قرآن کریم میں تین معانی میں استعمال ہوا ہے۔

① ایک حَقًّا کے معنی میں، یعنی پکی بات ہے۔

② دوسرا ہرگز نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

③ تیسرا خبردار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

تینوں معنی صحیح ہیں۔ گَلًّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ پکی بات ہے، ہرگز نہیں، خبردار! ابھی

تک پورا نہیں کیا انسان نے وہ جس کا اس کو حکم دیا۔ رب تعالیٰ نے انسان کو جو حکم دیا مجموعی

طور پر انسان نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ انسان نے وہ بات

پوری نہیں کی جس کا اس کو حکم دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان! میری نعمتوں کو دیکھ اور ان سے میری قدرت کو

سمجھ کہ جو نعمتیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ جس ذات نے یہ سب

کچھ کیا ہے وہی قیامت قائم کر کے حساب کتاب بھی لے گا۔

فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے

کھانے کی طرف کہ کتنی قوتیں اس کے تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ قوتیں کس نے پیدا

کی ہیں۔ کھانے کے تیار کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت دیکھ۔ فرمایا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ

صَبًّا بے شک برسایا ہم نے پانی آسمان کی طرف سے برسانا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ

شَقًّا پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا۔ ہم اگر نہ پھاڑتے تو اتنا نرم و نازک پودا زمین

سے باہر کس طرح آسکتا تھا۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ زمین کو پھاڑ کر فصلیں

اگانے والا کون ہے؟ انگوری سے لے کر پھل تک پہنچانے والا کون ہے؟ جب زمین سے نکلتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔

ہر گیا ہے کہ از زمیں روید

وحدہ لا شریک بہ گوید

وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے پانی برسایا پھر زمین کو پھاڑا فَأَبْتَثْنَا فِيهَا حَبًّا پھرا گیا ہم نے اس میں اناج، دانے اگانے، فصلیں اگائیں وَوَعَبْنَا اور انگور اگانے وَقَضَبًا اور ترکاریاں اگائیں۔ ساگ، پالک، مولیٰ، گاجر، آلو، گوبھی وغیرہ رب تعالیٰ کے سوا کون اگانے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں

زیتون کی خوبیاں :

وَزَيْتُونًا اور زیتون اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے ہم خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ مالش اور چراغ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ گھی جو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے طبی اعتبار سے زیتون اس سے زیادہ فائدے مند ہے۔ گائے، بھینس کا گھی ان لوگوں کے لیے تو مفید ہے جو بدن سے مشقت کا کام لیتے ہیں۔ اور جو لوگ بدنی مشقت کا کام نہیں کرتے ان کے اعصاب کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ اعصاب میں ایسا مواد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر ضعف آ جاتا ہے۔ اور زیتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اعصاب کے اندر جو نالیاں ہیں ان کو صاف رکھتا ہے۔ جیسے اصل سرمہ آنکھوں کے پیچھے جو نالیاں ہیں اور دماغ کے ساتھ

ملتی ہیں ان کو صاف رکھتا ہے۔ خصوصاً اٹھ سرمہ۔ ورنہ نالیوں میں سوداوی، بلغمی، مواد جمع ہو جاتا ہے جو بینائی پر اثر انداز ہوتا ہے اور روشنی کی ٹیو میں ختم ہو جاتی ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا عَلَيكُمْ بِالْإِثْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ "اٹھ سرے کا استعمال کرو وہ آنکھوں کی بینائی کو بڑھاتا ہے۔" اٹھ سرمہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور جدہ سے ملتا ہے۔ (یہ ڈلی کی شکل میں لینا چاہیے اور خود پینا چاہیے وہاں سے جو پسا ہوا ملتا ہے اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔ مرتب) ہر مقام میں آج کل دھوکا بازی ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔

وہ مذہب جس میں نری صداقت اور دیانت تھی آج اس مذہب کے ماننے والے برائیوں کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں۔ یہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے آج ان چیزوں کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے!

عرب چاول اور خسروٹ سے آشنا تھے :

فرمایا وَنَخْلًا اور کھجوریں پیدا کیں۔ کھجوریں عرب کی خوراک تھیں۔ آج تو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں اور ہر چیز وہاں پہنچنے لگ گئی ہے ورنہ ایک وقت تھا کہ چاول وغیرہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر دبن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جب مصر فتح کیا تو وہاں سے چاولوں کی بوریاں ملیں تو انھوں نے ان کو استعمال نہ کیا کہ نہ معلوم یہ کیا چیز ہے۔ جانوروں کی خوراک ہے یاد شمنوں نے ہمارے لیے زہر ڈال رکھا ہے۔

پھر کہنے لگے ایسا کرو کہ ان کو گھوڑوں کے آگے ڈالو دیکھو! کیا اثر کرتے ہیں؟ کوئی مرتا ہے یا نہیں۔ ایک دن چاول ڈالے، دوسرے دن چاول ڈالے، گھوڑے پہلے سے

زیادہ موٹے تازے ہو گئے۔ پھر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری خوراکیوں میں سے بہترین خوراک ہے اور پکانے کا طریقہ بتایا۔

ترکی کے علاقے میں دو اخروٹ ملے، گول مول۔ بالکل علم نہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ وہاں کے چرواہوں نے ایک دانہ توڑ کر دکھایا، اس میں سے گری نکال کر دکھائی۔ جب عرب مجاہدوں نے اخروٹ توڑ کر مغز نکال کر کھایا تو کہنے لگے **سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ بِالْأَلْحَجَارِ** ”پاک ہے وہ ذات جس نے پتھروں میں روزی پیدا کی ہے۔“ تو ان کو چاولوں کا علم نہ تھا، اخروٹ کا علم نہ تھا، کھجور ستو وغیرہ ان کی خوراک تھی۔

فرمایا **وَحَدَّ آيَقُ**۔ یہ حدیقہ کی جمع ہے اور حدیقہ کا معنی ہے باغ۔ مگر ایسا باغ کہ جس کے ارد گرد دیوار ہو۔ پتھروں کی ہو چاہے اینٹوں کی ہو، مٹی کی ہو یا درختوں کی ہو۔ معنی ہوگا اور باغات پیدا کیے **غُلْبًا** گھنے۔ **غُلْبًا** غلبنی کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کی گردن موٹی ہو گی اس کی رگیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو مراد ہے ایسے باغ جن کی ٹہنیاں ٹہنیوں میں گھسی ہوئی ہوں کوئی تمیز نہ ہو کہ یہ کس درخت کی ٹہنی ہے اور یہ کس درخت کی ٹہنی ہے؟ معنی ہوگا گھنے باغ **وَفَاكِهَةٌ** اور پھل۔ رب تعالیٰ نے پیدا کیے **وَأَبْنَا** اور چار اپیدا کیا ہے **مَتَاعًا لَّكُمْ** فائدہ ہے تمہارے لیے **وَلِأَنْعَامِكُمْ** اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ یاد رکھو! جس رب نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی قیامت قائم کرے گا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔

فرمایا **فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ** پس جس وقت آئے گی چیخ جو کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ حضرت اسرار اللیل **عليه السلام** جس وقت صور پھونکیں گے اس کو دور والے بھی ایسے

ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے۔ ایسی سخت آواز ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ آج بھی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اطباء لکھتے ہیں کہ جس وقت بجلی چمکے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بجلی کی طرف دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔

میدانِ محشر میں لوگوں کا حشر :

وہ ایسا دن ہوگا یَوْمَ يَفْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے بھاگے گا وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا وَبَيْنِهِ اور اپنی اولاد سے دوڑے گا۔

روایت تم پہلے سن چکے ہو کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو تو جنت میں چلے جائیں اور بدیوں کا پلہ بھاری ہو تو دوزخ میں۔ اب ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔ مثلاً: نیکیاں بھی پچاس ہیں اور بدیاں بھی پچاس ہیں۔ رب تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی میں آسانی کے ساتھ تلاش کر لوں گا۔ اپنے بھائی کے پاس جائے گا۔ جو دنیا میں اس کا دست و بازو تھا۔ کہے گا بھائی جان! میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گا یہ بات نہ کرنا۔ پریشان ہو کر دوست کے پاس جائے گا جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا۔ کہے گا یار! ایک نیکی کی کمی ہے مجھے دے دو تاکہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ بھی انکار کر دے گا۔ پھر خاوند ہے تو بیوی کے پاس جائے گا، بیوی ہے تو خاوند کے پاس جائے

گی۔ وہ بھی انکار کر دے گا۔ پھر والد کے پاس جائے گا وہ بھی کہے گا جا اپنا کام کر میں تجھے نیکی دے کر خود کہاں جاؤں گا۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا۔ کہے گا اَتَعْرِفُنِي ”کیا مجھے پہچانتی ہے۔“ وہ کہے گی ہاں! تجھے پہچانتی ہوں تو میرا بیٹا ہے۔ میں نے تجھے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا، پھر تجھے جنا، پھر تجھے دودھ پلایا، پھر تجھے پالا کہ تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ کہے گا امی! مجھے ایک نیکی دے دو تا کہ میرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ ماں کہے گی پیچھے ہٹ جا تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی۔


میدان محشر میں ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ آج دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، ماں کے لیے جان دے دیتا ہے، بیوی کی عزت بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے، یاروں دوستوں کے لیے جان دے دیتا ہے لیکن وہاں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ ہر آدمی کے لیے ان میں سے یَوْمَئِذٍ شَانٌ اُس دن حال ہوگا يُغْنِيهِ جو بے پروا کر دے گا اس کو دوسروں سے۔ ہر ایک کو اپنی جان کی مصیبت پڑی ہوگی کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ کوئی دوست عزیز، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اَلَّا تَنْزُرُوْا زِرَّةً وَّ اَنْزُرُوْا اٰخِرٰی ﴿النجم: ۳۸﴾ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

آج دنیا میں یاری دوستی نبھانے کے لیے قتل تک کے بوجھ اٹھالیتے ہیں یاری کی جان بچانے کے لیے۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا وُجُوْهُ تَوَّمِيْذٍ مُّسْفِرَةٍ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ یہ مومن ہوں گے نیک عمل کرنے والے جنہوں نے توحید و سنت پر چل کر رب تعالیٰ کو راضی کیا اور بدعات اور خرافات سے بچے ضاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

ہنسنے والے خوشیاں منانے والے ہوں گے وَوَجُوهُ يَوْمَئِذٍ اور کچھ چہرے اس دن
 عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ ان پر گرد و غبار ہوگا تَرَهَقَهَا قَتْرَةٌ چھا جائے گی ان کے چہروں پر
 تارکول۔ یہ جو سڑکوں پر لگ ڈالی جاتی ہے وہ ان کے چہروں پر ملی جائے گی۔ یہ علامت
 ہوگی مشرکوں اور بدعتیوں کی۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وُتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ ”اس دن کئی چہرے
 سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے۔“ ﴿آل عمران: ۱۰۶﴾

اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں
 گے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کرتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفٰجِرَةُ۔
 کفرۃ کافر کی جمع ہے اور فجرۃ فاجر کی جمع ہے۔ یہی لوگ ہیں کفر کرنے
 والے، فسق و فجور کرنے والے۔ عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں گے، عمل کے لحاظ سے
 فاجر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ پہلوں میں سے کرے۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

آیتها ۲۹ ۸۱ سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ ۷ رُكُوْعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْجِبَالُ
سُوِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۴ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُوِّشَتْ ۝۵ وَاِذَا
الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝۷ وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ
سُيِّلَتْ ۝۸ بِآيٍ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۰ وَاِذَا
السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَاِذَا الْجَبِيْمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝۱۳
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝۱۴

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جس وقت سورج کولپیٹ دیا جائے گا وَاِذَا
النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ اور جس وقت ستارے گر پڑیں گے وَاِذَا الْجِبَالُ
سُوِّرَتْ اور جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
اور جس وقت (دس ماہ کی) گا بھن اُونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی وَاِذَا الْوُحُوْشُ
حُوِّشَتْ اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کر دیئے جائیں گے وَاِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ اور جس وقت سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی وَاِذَا النُّفُوْسُ
زُوِّجَتْ اور جس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ
اور جس وقت زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِآيٍ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جس وقت
 صحیفے کھول دیئے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جس وقت آسمان کا
 چھلکا اتار دیا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جس وقت دوزخ کو
 بھڑکا دیا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ اور جس وقت جنت کو قریب کر دیا
 جائے گا عَلِمْتَ نَفْسَ مَا أَخْضَرَتْ جان لے گا ہر نفس جو اس نے
 حاضر کیا ہے۔

نام و کوالف :

اس سورت کا نام تکویر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں كُوِّرَتْ کا لفظ موجود
 ہے۔ جس سے سورت کا نام تکویر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک
 رکوع اور آیتیں ۲۹۰ آیتیں ہیں۔ تکویر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو غلاف میں لپیٹ دینا۔
 ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی کو سلب کر لیں گے۔ جیسے کسی چیز کو
 غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح سورج کو تہہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔

آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں چوتھے آسمان
 پر ہے۔ اور اس کی روشنی اور تپش بالکل ظاہر ہے۔ ظاہر چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت
 نہیں ہوتی۔ یہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔

موضوع سورت :

اس سورت میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ کچھ نفلہ اولیٰ سے پہلے کی ہیں اور
 کچھ نفلہ ثانیہ کے بعد کی ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب بگل پھونکیں گے دنیا کی تباہی و

بربادی کے لیے، اس کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ کی پھونک۔ پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بگل پھونکیں گے، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔

نفخہ اولیٰ کی نشانیاں :

یہ پہلے نفخے کی نشانی ہے إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔

دوسری علامت: وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جس وقت ستارے گر پڑیں گے تو کیا حال ہوگا کہ ایک ایک ستارہ زمین سے بڑا ہے۔

آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے شوشہ چھوڑا تھا ممکن ہے صحیح ہو کہ ایک ستارے کا تھوڑا سا حصہ الگ ہو کر گرنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ امریکہ والے کہہ رہے تھے کہ ہم پر گراتا تو ہم مر جائیں گے، برطانیہ والوں نے کہا کہ ہم پر گراتا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، فرانس، چین والے سب پریشان تھے۔ پھر سارے سائنس دانوں نے اتفاق کیا کہ وہ ان کی طرف نہیں آئے گا دوسری طرف جائے گا۔ (پاکستانیوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ کیوں کہ یہ حالات کے پہلے ہی مارے ہوئے ہیں۔ مرتب)

تو ایک ہتارہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین میں کچھ بھی نہ رہے۔ تو فرمایا جب ستارے گر پڑیں گے آسمان سے نیچے زمین پر۔ نجوم نجوم کی جمع ہے اور نجوم کا معنی ہے ستارہ۔

تیسری علامت: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جِبَالُ جَبَلٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے پہاڑ۔ اور جس وقت یہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر

گردوغبار ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ کوہ ہمالیہ جیسے جو دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہے۔ یہ ریزہ ریزہ ہو کر گردوغبار کی طرح اڑیں گے **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ - عِشَارُ عَشْرَاءٍ** کی جمع ہے۔ **عُشْرَاءُ** اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دس ماہ کی گاہن (حاملہ) ہو۔ جب اونٹنی کو گاہن ہوئے دس ماہ ہو جائیں تو اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کیوں کہ اب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ اونٹنی اگر کھڑے کھڑے بچہ دے دے تو بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر بیٹھ کر دے تو بچے کے ضایع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اونٹنی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ایسی افراتفری ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ معنی ہوگا اور جس وقت گاہن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔

دیکھو! **۶۵** اور **۱۷۱** کی دوڑائیاں تمہارے سامنے ہیں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو بارڈر کے لوگوں نے دوڑ کر اپنی جانیں بچائیں۔ مال، ڈنگر کی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار جانور ہندو، سکھ، ڈوگر، مرہٹے لے گئے۔ آدمی خود امن میں ہو تو جانوروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اپنی جان مصیبت میں ہو تو جانوروں کو کون پوچھتا ہے؟ **وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ** اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ بھیڑیے، شیر، چیتے، ہرن وغیرہ اس افراتفری میں ڈر کے مارے دوڑ کر شہروں کی طرف جمع ہو جائیں گے اور ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں چھیڑے گا **وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ** اور جس وقت سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ جس طرح آج پیٹروں کو آگ لگتی ہے اس طرح سمندروں کو آگ لگ جائے گی اور وہ جل شر جائیں گے۔

جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سو حصوں میں سے اکہتر (۱۷) حصوں پر پانی ہے اور اٹیس (۲۹) حصوں پر دنیا کی بادشاہی ہے۔ یہ جو اٹیس حصے خشک ہیں اس میں امریکہ، برطانیہ، افریقہ، چین، جاپان، انڈیا، پاکستان وغیرہ دنیا کے سارے ممالک ہیں۔ باقی حصوں پر پانی ہے۔ تو بحر محیط کو آگ لگ جائے گی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ نشانیاں نفعی اولیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد سات نشانیاں نفعی ثانیہ کی ہیں۔

نفعی ثانیہ کی سات نشانیاں :

دوسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بگل پھونکیں گے تو **وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ** اور جس وقت جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کو ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کو سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ، نافرمانوں کو نافرمانوں کے ساتھ اور فرماں برداروں کو فرماں برداروں کے ساتھ۔ یہ ان کی اصولی قسمیں ہوں گی۔ اصحاب الیمین وہ خوش نصیب جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اصحاب الشمال وہ بد قسمت جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ایک طبقہ ہوگا السابقون السابقون کا جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جس طرح اس وقت ہماری روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اور ہم نقل و حرکت کرتے ہیں اور ہماری نقل و حرکت کو دوسرے بھی دیکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے لیکن الگ کرنے کے باوجود روح اور جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ وہ تعلق دوسروں کو

محسوس نہیں ہوتا۔ قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے مرنے والے کو ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی ادراک و شعور کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو سمجھتا اور جواب دیتا ہے **مَنْ رَبُّكَ مَنْ نَبِيُّكَ مَا دِيْنُكَ** یہ جواب دے گا "میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔"

سوالات میں کامیابی کے بعد جنت کی خوشبوؤں کا احساس ہوگا اور بُرے کو عذاب محسوس ہوگا۔ لیکن یہ زندگی دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی۔ علم کلام والے کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹے سکتے کا مریض ہوتا ہے۔ سکتے کا مریض نہ سانس لیتا ہے اور نہ ہی اس کی نبض چلتی ہے۔ حالانکہ روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے ہی قبر میں، برزخ میں، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر مرنے والا راحت و آرام محسوس کرتا ہے لیکن ہمارے شعور میں نہیں آسکتا۔ عالم برزخ کی زندگی غیر شعوری ہے۔ اگر کسی کی قبر کو اکھیڑا جائے اور اس کی باڈی صحیح سالم پڑی ہو تو اس کی نقل و حرکت ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن قیامت والے دن روح کو جسم کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے گا کہ اس کی نقل و حرکت کو دوسرے بھی سمجھیں گے۔

تو فرمایا جس وقت جانوں کو جوڑا جائے گا نیکیوں کو نیکیوں کے ساتھ اور بدوں کو بدوں کے ساتھ۔ ہر ایک طبقے کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا **وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُبِلَتْ** اور جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ عرب کے کچھ خاندانوں میں یہ رسم بدھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مارتے نہیں تھے۔ کہتے تھے مرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بھائی! سوال یہ ہے کہ قبر میں کتنی دیر زندہ رہے گی؟ تازہ ہوانہ ملے تو پانچ، دس منٹ کے بعد مر جائے گی۔ ایسا وہ اس واسطے کرتے تھے کہ اس کی شادی

کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے یہ حرکت کرتے تھے۔
 تو فرمایا جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا یا بچی ذنب قتلت
 کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی۔ تیرا کیا گناہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچی بچے سے اگر
 کوئی گناہ ہو جائے تو شریعت ان کو سزا نہیں دیتی، گناہ گار تصور نہیں کرتی کہ معصوم ہیں، غیر
 مکلف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحت اور آب و ہوا کے ماحول کی بنا پر کوئی جلدی بالغ ہو
 جاتا ہے اور کوئی دیر سے ہوتا ہے۔ جلدی بلوغت کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ فلمیں
 دیکھنے والے ہو سکتا ہے دس بارہ سال میں بالغ ہو جائیں اور پہاڑی لوگ ہو سکتا ہے پندرہ
 سال میں بھی بالغ نہ ہوں۔

فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پندرہ سال کا لڑکا لڑکی ہر صورت بالغ ہوتا ہے۔ لیکن
 اس سے پہلے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ چودہ (۱۴) سال کی عمر میں بالغ ہو جائے،
 تیرہ (۱۳) سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، بارہ (۱۲) سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، ہو سکتا
 ہے۔

حسن بن صالح بن حمیہ بڑے چونی کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ
 ہمارے پڑوس میں ایک بچی اکیس (۲۱) سال کی عمر میں دادی بن گئی۔ دس سال کی عمر
 میں بالغ ہوئی، نکاح ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا۔ اکیس (۲۱) سال کی
 عمر میں دادی بن گئی۔

فقہائے کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ چوبیس (۲۴) سال کا آدمی دادا ہو سکتا ہے۔
 اس زمانے میں لوگ بالغ ہوتے ہی بچی، بچے کی شادی کر دیتے تھے۔ آج کل دیر کرتے
 ہیں اسی لیے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان کا ایک مزاج اور طبیعت بنائی

ہے۔ بچیوں کی شادی دیر سے ہو تو طبی نقطہ نظر سے عورت کے رحم میں جو خاص قسم کی ٹیوبیں ہوتی ہیں وہ سڑ جاتی ہیں اور اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ پھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ بروقت شادی ہو جائے تو پھر نظام قدرت ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خاص انتظام رکھا ہے۔

فرمایا **وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ**۔ صحیفہ صحیفۃ کی جمع ہے۔ صحیفہ کا معنی ہوتا ہے کاپی، کتاب، نامہ عمل۔ معنی ہوگا اور جس وقت صحیفے کھول دیئے جائیں گے۔ میرا میرے سامنے آجائے گا، آپ کا آپ کے سامنے آجائے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ **وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ** اور جس وقت آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کھال اتار دی جائے گی۔ آج جو آسمان ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے، بزرگ نظر آتا ہے ایک وقت آئے گا **فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ** ﴿سورۃ الرحمن﴾ ”پس ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح یا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے۔“

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جس وقت دوزخ کی آگ بھڑکادی جائے گی۔ میدان محشر میں دوزخ کی آگ کے شعلے نظر آرہے ہوں گے۔ دیکھ کر بندے تو بہ توبہ کریں گے مگر اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ **وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ** اور جس وقت جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ میدان محشر ہی میں جنت کی خوشبوؤں کو، راحتوں کو، جنت کے باغوں کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہر ایک کی قلبی خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے اس میں داخل ہو جاؤں۔ جس وقت یہ نشانیاں واضح ہو جائیں گی **عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرَتْ** جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہے۔ جس نے جو نیکی بدی کی ہے سامنے آجائے گی۔ رتی برابر بھی کسی چیز کا خفا نہیں رہے گا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ

الْكُنُوسِ ۝۱۶ وَالْيَلِ إِذَا عَسَّسَ ۝۱۷ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ
لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝۲۳ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ
بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۲۵ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۷ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

فَلَا أُقْسِمُ پس میں قسم اٹھاتا ہوں بِالْخُنُوسِ چھپے ہوئے جانے
والے (ستاروں) کی الْجَوَارِ تیزی سے چلنے والے کی الْكُنُوسِ
چھپ جانے والوں کی وَالْيَلِ إِذَا عَسَّسَ اور قسم ہے رات کی جب وہ
آنے لگے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن عزت والے قاصد کا قول
ہے ذِي قُوَّةٍ بڑی طاقت والا ہے عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرش
والے کے پاس عزت پانے والا ہے مُطَاعٍ اس کی اطاعت کی جاتی ہے
ثَمَّ أَمِينٍ وہاں بڑا امین ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ اور تمہارا ساتھی
دیوانہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو

بِأَفْقِ الْمُنْبِئِينَ رُشْنَ كِنَارِے پر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور نہیں
 ہے وہ غیب کی بات پر بخل کرنے والا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ اور
 نہیں ہے یہ قول شیطان رجم کا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو
 إِنَّ كُتُوبًا لَا نَهِيں ہے یہ قرآن مگر ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ نصیحت تمام جہانوں
 کے لیے لِسَنِّ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اس کے لیے جو چاہے تم
 میں کہ وہ قائم رہے وَمَا تَشَاءُونَ اور تم نہیں چاہتے إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
 مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شے کے متعلق دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے پر
 گواہ پیش کرے گا تو دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ جس کے
 خلاف دعویٰ کیا گیا ہے قسم دے گا کہ مدعی نے میرے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور معاملہ
 رفع دفع ہو جائے گا۔ تو گو یا قسم گواہی کا بدلہ ہے، اس کے قائم مقام ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یعنی
 ان چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے، کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔
 وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ ہم مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور
 صفات کے بغیر کسی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ خَلَفَ
 بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ”جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔“ کعبہ
 کی قسم اٹھانا، نبی کی قسم اٹھانا، پیغمبر کی قسم، پتر کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم
 کسی بزرگ کی قسم اٹھانا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 سوا کسی چیز کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ہم قانون کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قانون بنانے والا ہے اور

نمذ کرنے والا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ع بی کا یہ ضابطہ بھی سمجھ لیں کہ قسم ہو یا حرف قسم ہو اور اس پر حرف لا داخل ہو تو وہ زایدہ ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لہذا قَلَّا أَقْسِمُ کا معنی ہوگا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اگر لَا کا معنی کریں تو معنی ہوگا میں قسم نہیں اٹھاتا۔ تو ضابطے کے مطابق لَا کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ معنی ہوگا میں قسم اٹھاتا ہوں بِالْخُنَّسِ۔ خُنَّسٌ خُنَّسًا کی جمع ہے (اور خُنَّسٌ أَخْنَسٌ کی جمع بھی آتی ہے)۔ اس کا معنی ہے پیچھے ہونا۔ اور كُنَّسٌ كُنَّسًا کی جمع ہے (اور اَكْنَسٌ کی جمع بھی آتی ہے) اس کا معنی ہے چھپ جانا۔

ستاروں کی تفصیل :

ستارے دو قسم کے ہیں۔ ثوابت: جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور سیارات: حرکت والے، چلنے والے۔ کوئی مغرب کی طرف چلتا ہے، کوئی مشرق کی طرف چلتا ہے، کوئی شمال کی طرف چلتا ہے، کوئی جنوب کی طرف چلتا ہے۔ جو ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں انہی سے متعلق ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿النحل: ۱۶﴾ اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعے لوگ راہ نمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کو دیکھ کر کرتے تھے کہ ہم اس طرف سے آئے ہیں اور اس طرف کو جانا ہے۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا مگر صفت ان کی بیان فرمائی ہے۔ یہ پانچ ستارے ہیں۔

۱..... زحل، ۲..... مشتری، ۳..... مریخ،

۴..... زہرہ، ۵..... عطارد۔

ان کو ریاضی والے اَکْمَسَهُ مُتَحَيِّرًا کہتے ہیں۔ یعنی پانچ حیران کن سیارے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے رب تعالیٰ کے حکم سے واپس ہو جاتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ان آیتوں میں ان پانچ ستاروں کا ذکر ہے۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بِالْخُنُوسِ پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی الْجَوَارِ تیزی سے چلنے والے ہیں الْكُنُوسِ چھپ جانے والوں کی۔ بڑی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان ستاروں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ان ستاروں کی حقیقت تم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اسی طرح یہ قرآن پاک حق اور سچ ہے لیکن تم اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ستاروں کو نہ سمجھنے کے باوجود مانتے ہو اسی طرح قرآن کریم کو بھی مانو۔

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اور قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے۔ عَسْعَسَ اضداد میں سے ہے۔ اس کا معنی آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے یعنی روشن ہو جائے۔ یہ رات اور دن رب تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو ہر آدمی سمجھتا اور دیکھتا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رات اس کو کہتے ہیں اور دن اس کو کہتے ہیں۔ ان کی قسم اٹھا کر فرمایا:

حضرت جبرئیل علیہ السلام کی صفات :

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن بولا ہوا ہے بڑی عزت والے

قاصد کا۔ رسول کریم سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ کہ ان کے ذریعے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا ہے۔

پہلے پڑھ چکے ہو **وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾** اور بے شک یہ قرآن اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جبرئیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، معزز ہیں، وہ لے کر آئے ہیں **ذِي قُوَّةٍ** بڑی طاقت والا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوط کی بستیوں کو اٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا تو پورے کا پورا علاقہ ایسے سمجھو جیسے لاہور سے وزیر آباد تک کا علاقہ ہے۔ اتنا بڑا علاقہ۔ پر مارا جیسے کسی یا بیلچہ مارو تو زمین میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح پر مارا اور زمین کو پر پر اٹھا کر بندی پر لے جا کر اٹا کر کے پھینک دیا۔ تو رب تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو بڑی قوت دی ہے **عِنْدَ ذِي الْعَرْشِينَ مَكِينٍ** عرش والے کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں **مُطَاعٍ** اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تمام فرشتے اس کے مطیع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیتے ہیں تمام فرشتے بلا قیل و قال اس کو بجالاتے ہیں **ثُمَّ آمِينَ** وہاں بڑا امین ہے۔ روح الامین، روح القدس، یہ جبرئیل علیہ السلام کے لقب ہیں۔

مشرک، کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی تھے باقی ساری قوم ایک طرف تھی۔ پھر یہ لفظ اتنا مشہور کیا ہوا تھا کہ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ یہ دیوانہ ہے۔ اور در دراز تک پھیلا یا ہوا تھا۔

حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ** اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں

ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ از دشنوه قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام ضناد تھا۔ یہ پاگلوں کا دم کے ذریعے علاج کرتا تھا اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔ یہ از دشنوه بستی سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ پتا پوچھتے پوچھتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا حضرت! آپ نے سنا ہوگا کہ از دشنوه قبیلے کا ایک آدمی دیوانوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا اگرچہ فیس میری کافی زیادہ ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ میں آپ کی تشریف آوری کی قدر کرتا ہوں، آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہوں۔ کہنے لگا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی زبانوں پر تو میرا کنٹرول نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد سورہ والسماء والطارق پڑھی۔ وہ چونکہ عربی تھا اور شاعر اور خطیب بھی تھا۔ وہ عربی زبان کی خوبیوں کو جانتا تھا۔ ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے اس لیے اس کی خوبیوں کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طارق پڑھی تو کہنے لگا یہ مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر واپس چلا گیا۔

مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابولہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابو جہل اور ابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن

تردید کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور ایک دن تو نے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام میں حج ۹ھ میں فرض ہوا ہے۔ لیکن لوگ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج کرتے تھے۔ عرفات، منیٰ میں بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جب عرفات میں تقریر کرے گا تو میں تردید کروں گا اور جب منیٰ میں کرے گا تو تو نے تردید کرنی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ لوگ اکٹھے ہیں اور لوگوں کو توحید و رسالت کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ سمجھاتے۔ لوگ بڑے اطمینان سے سنتے۔ ابو جہل بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہوتا تو یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو! میرا نام عمرو بن ہشام ہے۔ بڑا مشہور آدمی تھا کیوں کہ مکہ مکرمہ کا ابو الحکم تھا، چیئر مین۔ یہ جس کی تقریر تم نے سنی ہے یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ پاگل ہے اس کی بات نہ ماننا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تقریر کرتے تھے یہ دو جملوں میں اس پر پانی پھیر دیتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں تقریر کرتے مسجد خیف کے پاس۔ جب بیان ختم ہوتا تو ابولہب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا اَيُّهَا النَّاسُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اس کا نام محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے والد کا نام عبد اللہ ہے۔ عبد اللہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں اس کا تایا ہوں۔ یہ صابی ہے، کاذب ہے، پاگل ہے، اس کے پھندے میں نہ آنا (معاذ اللہ تعالیٰ)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹہ دو گھنٹہ بیان فرماتے یہ اٹھ کر اس پر پانی پھیر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ وَلَقَدْ رَاَهُ اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس رسول کریم کو یعنی جبرئیل علیہ السلام کو بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ روشن کنارے پر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام

کو اصل شکل میں دو دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ زمین پر لَه سِتْمَائِهَ اَجْنَحَتِهَ ” اس کے چھ سو پر تھے۔“ جب آپ ﷺ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی جبل نور پر مکہ مکرمہ میں۔ اور دوسری مرتبہ معراج کی رات عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی جبرئیل ﷺ آئے ہیں کبھی وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں اور کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں۔ اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھی نے اس رسول کریم کو دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ اور نہیں ہے وہ تمہارا ساتھی عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ غیب کی بات پر بخل کرنے والا۔ آنحضرت ﷺ کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی تھی تو آپ ﷺ اس کو ظاہر کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے بلکہ ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ دوزخ کیا ہے؟ میدان محشر کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ پل صراط کیا ہے؟ سارا قرآن کریم غیب سے آیا ہے۔ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو آپ ﷺ نے بتلائی ہیں۔ آپ ﷺ نے اس پر بخل نہیں کیا۔

اہل بدعت اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سارا غیب جانتے تھے آپ ﷺ اس میں بخل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی نادانی ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت ساتویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اس کے بعد ایک سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو سارا غیب معلوم ہو گیا تھا تو ایک سورتوں کے بعد میں نازل ہونے کا کیا معنی ہے۔ اگر اس غیب سے سارا غیب مراد ہے تو پھر یہ آیت کریمہ قرآن کی آخری آیت ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کے بعد بڑی بڑی سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں غیب کی خبریں مراد ہیں۔

فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ اور نہیں ہے یہ کہا ہوا شیطان مردود کا۔

چند دن وحی نہ آئی تو آپ ﷺ کی چچی ابولہب کی بیوی جس کا نام عوراء اور کنیت ام جمیل تھی اور ابوسفیان کی سگی بہن تھی۔ یہ خاندان طبعی طور پر سخت، کرخت مزاج والا تھا۔ آکر کہنے لگی **قَدْ تَرَكْتُكَ شَيْطَانُكَ** ”تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے جو وحی لے کر تیرے پاس آتا تھا۔“ یعنی جبریل ﷺ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے **فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ** پھر تم کدھر جا رہے ہو **إِنْ هُوَ** نہیں ہے یہ قرآن **إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے **لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ** اس کے لیے کہ جو چاہے کہ وہ قائم رہے۔ جو مانے نصیحت اس کے لیے ہے۔ جو نہیں مانتا اس کے لیے کیا ہے۔ دیکھو! کھانا اللہ تعالیٰ نے بھوک ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر بھوک پیاس اسی کی بجھے گی جو کھائے گا، پیے گا۔ ویسے اگر زبانی طور پر سارا دن کہتا رہے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب نصیحت ہے مگر اس کے لیے جو چاہے گا **وَمَا تَسْأَلُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ **رَبُّ الْعَالَمِينَ** جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک رب تعالیٰ نہ کرے۔ بندے کو ایمان لانے کا، کفر اختیار کرنے کا، نیکی بدی کرنے کا اختیار اور قدرت ہے۔ مگر یہ قدرت تو رب نے دی ہے اس کے استعمال کرنے میں تم مختار ہو۔

مثال کے طور پر دیکھو! یہ ٹیوہیں ہیں، بلب ہیں، پنکھے ہیں، ہم بٹن دبا کر چلا سکتے ہیں مگر کب؟ جب کہ بجلی ہو۔ اگر بجلی پیچھے سے بند ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بندے کو اتنا ہی اختیار ہے۔ اگر پیچھے سے رب تعالیٰ کی طرف سے بجلی بند ہو جائے تو پھر کوئی کچھ

بھی نہیں کر سکتا۔ تم نہیں چاہ سکتے مگر جو رب چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۱۹ ﴿۱۹﴾ سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ ۸۲ ﴿۸۲﴾ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۙ ﴿۱﴾ وَاِذَا الْكُوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ ۙ ﴿۲﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۙ ﴿۳﴾ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ ﴿۴﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَا
اٰخَرَتْ ۙ ﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ ﴿۶﴾ الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ۙ ﴿۷﴾ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۙ ﴿۸﴾
كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُوْنَ بِالْاٰدِیْنَ ۙ ﴿۹﴾ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۙ ﴿۱۰﴾ كِرٰمًا
كَاتِبِیْنَ ۙ ﴿۱۱﴾ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ ﴿۱۲﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۙ ﴿۱۳﴾ وَا
اِنَّ الْفٰجِرَ لَفِیْ جَحِیْمٍ ۙ ﴿۱۴﴾ یَصْلُوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۙ ﴿۱۵﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا
بِغٰیِبِیْنَ ۙ ﴿۱۶﴾ وَمَا اَدْرٰكَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۙ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ مَا اَدْرٰكَ مَا یَوْمُ
الدِّیْنِ ۙ ﴿۱۸﴾ یَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا وَاَلْاَمْرُ یَوْمَیْذٍ لِلّٰهِ ۙ ﴿۱۹﴾

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا وَاِذَا
الْكُوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ اور جس وقت ستارے اِنْتَثَرَتْ بکھر جائیں گے
وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جس وقت سمندر چلائے جائیں گے وَاِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ اور جس وقت قبریں اُبھیر دی جائیں گی عَلِمْتَ نَفْسٌ جَان
لے گا ہر نفس مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخَرَتْ جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے

چھوڑا ہے يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اے انسان مَا غَرَّكَ کس چیز نے
 تجھے دھوکا دیا بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ رب کریم کے بارے میں الَّذِي خَلَقَكَ
 وہ جس نے تجھے پیدا کیا فَسَوِّكَ پھر تجھے درست کیا فَعَدَلَكَ پھر
 تجھے برابر کیا فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ جس صورت میں چاہا رَبَّكَ
 تجھے جوڑ دیا كَلَّا خبردار بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ بلکہ تم جھٹلاتے
 ہو بدلے کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تمہارے
 اوپر البتہ نگران ہیں كِرَامًا كَاتِبِينَ وہ بڑے شریف لکھنے والے ہیں
 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو إِنَّ الْأَبْرَارَ بے
 شک نیک لوگ لَفِي نَعِيمٍ البتہ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ
 اور بے شک نافرمان لَفِي جَحِيمٍ شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے
 يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن وَمَا هُمْ
 عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غیر حاضر وَمَا أَدْرَاكَ
 آپ کو کس نے بتلایا مَا يَوْمَ الدِّينِ کیا ہے بدلے کا دن ثُمَّ مَا
 أَدْرَاكَ پھر آپ کو کس نے بتلایا مَا يَوْمَ الدِّينِ کیا ہے بدلے کا دن
 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ جس دن مالک نہیں ہوگا کوئی نفس لِنَفْسٍ شَيْئًا
 کسی نفس کے لیے کسی شے کا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اور حکم اور معاملہ اللہ تعالیٰ
 کے لیے ہوگا۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں انفطرت کا لفظ موجود ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اکیاسی سورتیں ۸۱۰ * اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بیاسیواں نمبر ۸۲ * ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس ۱۹ * آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں جن مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے اور قیامت کا مسئلہ ہے۔ اور توحید کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک شرک کا علم نہ ہو۔ اس لیے شرک کی بھی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کی بڑے زوردار الفاظ میں تردید کرتے تھے۔ اس لیے زوردار الفاظ میں قیامت کا اثبات کیا گیا ہے کئی سورتوں میں۔ کسی کا نام الحاقہ ہے، کسی کا نام القارعہ ہے۔ یہ سب قیامت کے متعلق ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں انھی مسائل پر زور دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ** جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ پھٹنے کے بعد اکٹھا ہو جائے گا۔ جس طرح ساہبان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح بستے میں کتابوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ** ﴿الانبياء: ۱۰۴﴾ "جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو مثل لپیٹ دینے طومار کے کتابوں کو۔" ستاروں آسمانوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا **وَإِذَا النُّجُومُ انشَثَرَتْ** اور جس وقت ستارے بکھر جائیں گے۔ کواکب کو کب کی جمع ہے اور کواکب کا معنی ہے

ستارہ۔ جس وقت یہ تارے بکھر کر زمین پر گر جائیں گے۔ آسمان کو جب حرکت دی جائے گی تو ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر بکھر جائیں گے اِنْكَدَرَتْ زَمِينَ پُرْغَرَّ جَانِيسِ گے۔ وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ بحار بحر کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے سمندر۔ اور جس وقت سمندر چلائے جائیں گے۔ سات سمندر (بِحَرًّا وَاَجْدًا) ایک سمندر ہو جائیں گے۔ یہ نیچے اولیٰ کے وقت ہوگا۔ پھر نیچے ثانیہ کے بعد کیا ہوگا وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جس وقت قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔

حضرت اسرائیل علیہ السلام جب دوبارہ بگل پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ جن و جلایا گیا یا پرندے، درندے کھا گئے، سب آ جائیں گے۔ یہ قبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عرب کے باشندے: مشرکین، یہودی، عیسائی، مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ قبروں والے تو آ جائیں گے اور باقیوں کو چھٹی مل جائے گی۔ بلکہ سب آئیں گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے سے مراد وہ نیکیاں جو اس نے زندگی میں کی ہیں وہ آخرت میں جمع ہو گئیں۔ اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا۔ مسجد بنوائی، دینی مدرسہ بنوایا، یتیم خانہ کھول گیا، نلکا لگا گیا، رفاہ عام کا کوئی بھی کام کر گیا۔ جب تک یہ چیزیں رہیں گی بدستور اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔

اسی طرح جس نے برے کام کیے وہ بھی آگے پہنچ چکے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے ہیں مثلاً: سینما گھر بنایا ہے، شراب خانہ کھولا ہے، بُری اولاد چھوڑی ہے، سب جان لے گا اور اس کا وبال بھگتے گا۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ! مَا عَزَّكَ - غَزَّيْغُرُ كَا مَعْنَى هَبْ دَهْوَا دِينَا -
 کس چیز نے تجھے دھوکا دیا ہے پرَبَّتْ الْكَرِيمِ اپنے رب کے بارے میں جو کریم
 ہے، مہربان ہے۔ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، کیوں
 غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ الَّذِي خَلَقَكَ جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا خالق ہے
 فَسَوِّتْ پس اس نے تجھے درست کیا۔ ساری مخلوق سے تیری شکل و صورت اچھی بنائی
 أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ میں تجھے پیدا کیا فَعَدَلَكْ پھر اس نے تجھے برابر کیا خاص
 اعتدال کے ساتھ۔ ایک ٹانگ اتنی ہی رہتی اور دوسری نصف میل جتنی لمبی ہوتی تو بندہ
 کیسے چلتا؟ ایک بازو اتنا ہی ہوتا اور دوسرا دس فٹ لمبا ہوتا تو کیسی شکل بنتی؟ (ایک کان
 ہمارا اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان جتنا ہوتا، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کی
 ٹانگ جتنا ہوتا، ایک لات اتنی ہی ہوتی اور دوسری گدھے کی ٹانگ کی طرح کر دیتا، ایک
 آنکھ اتنی ہی ہوتی اور دوسری اتنی بڑی ہوتی جیسے سر ہے۔ لیکن اس نے اعتدال کے ساتھ
 سب کچھ بنایا ہے۔ اب اگر ہماری آنکھیں رب تعالیٰ منحنوں میں لگا دیتا تو پھر جو ہوتا
 ہمارے ساتھ وہ عیاں ہے۔ عیاں راچہ بیاں۔ ہر چیز کو رب نے اپنے اپنے مقام پر
 رکھا۔)

وہ ایسا کر سکتا تھا مگر اس نے ہر چیز برابر لگائی ہے، اعتدال کے ساتھ رکھی ہے۔
 جس طرح اس نے بنا دیا ہے اس سے بہتر صورت نہیں ہو سکتی تھی فِي آيِ صُورَةٍ مَّا شَاءَ
 رَبُّكَ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مردوں کی شکلیں جدا، عورتوں کی شکلیں جدا۔
 کروڑوں انسان دیکھیں ایک کی شکل کا دوسرا ہے ہی نہیں۔ جس ذات کی یہ کاری کر لیا
 ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہو كَلَّا خَبِرَدَارِ بَلَى تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ بَلَكْتُمْ مَحْسَبَاتٍ

ہو بدلتے کے دن کو، حساب کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ زور دار الفاظ میں کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی۔ یقین رکھو! قیامت آئے گی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں كِرَامًا۔ کریم کی جمع ہے، بڑے شریف ہیں كَاتِبِينَ لکھنے والے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے :

سورت ق میں تفصیلاً تم پڑھ چکے ہو عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہے اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ نہیں بولتا انسان کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔

لیکن اس میں تفصیل ہے... دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں لکھنے والا ہے۔ اور بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ احادیث میں تفصیل اس طرح آتی ہے کہ آدمی جب زبان سے کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اگر زبان سے بڑی بات نکلے تو بائیں کندھے والا لکھنا چاہتا ہے مگر دائیں والا اس کو روک دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ کچھ دیر تک انتظار کرتا ہے۔ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اُكْتُبْ "لکھ لو۔"

مجلسوں میں وہی تباہی باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں آدمی سننا رہتا ہے۔

اسی لیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدمی جس وقت مجلس سے کھڑا ہو تو یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 جو گناہ مجلس میں ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر مجلس میں صرف نیکیاں ہوئی ہیں
 تو ان پر مہر لگ جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا امت کی تعلیم کے لیے۔
 تو فرمایا جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے
 نیکی، بدی کا، وہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق کافی تفصیل ہے۔ علمائے کرام کا
 ایک گروہ کہتا ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں اور برائی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں۔ اس پر پھر یہ
 سوال ہوتا ہے کہ علیم بذاتہ۔ بدور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دلوں کے راز تو رب تعالیٰ
 جانتا ہے فرشتوں کو دل و بات کیسے پتا چلتا ہے۔ انسان جو کرتا ہے وہ فعل ہے۔ فعل کو
 فرشتہ دیکھتا ہے۔ اور جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ قول ہے اس کو فرشتہ سنتا ہے۔ لیکن دل
 کے ارادے کا اس کو کیسے علم ہوتا ہے؟

اس بات کا علمائے کرام جواب دیتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو
 رائحة طيبة اچھی خوشبودل سے باہر نکلتی ہے اور بُرا ارادہ کرتا ہے تو رائحة کوبیہة
 بدبودل سے باہر نکلتی ہے جس سے یہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی علم تو
 فرشتوں کو نہیں ہوتا کہ اچھا بُرا کیا ارادہ کیا؟ بس اجمالی طور پر وہ لکھتے ہیں کہ اس نے بُرا
 ارادہ کیا یا اچھا ارادہ کیا ہے۔ قول، فعل کا لکھنا قرآن سے ثابت ہے اور ارادے کا لکھنا
 روایتوں سے ثابت ہے۔

تو یہ لکھنے والے فرشتے دو دن کے لیے مقرر ہیں اور دو رات کے لیے۔ دن والوں
 کی ڈیوٹی صبح کی نماز کے وقت شروع ہوتی ہے۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی جس وقت
 میں نے کہا اللہ اکبر! تو رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور دن والے آگئے۔ اس

مسجد کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے سارے محلے والوں کی ڈیوٹی بدل گئی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا امام اللہ اکبر! کہے گا تو دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتے چارج سنبھال لیں گے۔ اس محکمے کا نام ہے کراما کاتبین۔ یہ کسی وقت بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتے سوائے دو وقتوں کے۔ ایک قضاے حاجت کے وقت اور دوسرا جس وقت خاوند بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ لیکن نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے بندے کے قول و فعل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاتھ روم میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ گارہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے۔


یہ تمام زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے اور قیامت والے دن گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا **اقْرَأْ كِتَابَكَ** ”یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ۔“ ایک دو صفحے پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا یہ جو تیرا اعمال نامہ لکھا ہے **هَلْ ظَلَمْتَك كَتَبْتَنِي** ”کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے۔“ کوئی بات اپنی طرف سے تیرے ذمہ لگادی ہو؟ بندہ کہے گا نہیں پروردگار! جو میں نے کیا ہے وہی درج ہے۔ چند صفحے اور پڑھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا بندے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے؟ کہے گا نہیں پروردگار! کوئی زیادتی نہیں کی میں نے جو کہا اور کیا ہے وہی درج ہے۔

تو آدمی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا ہر آدمی کی فائل جدا جدا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ** بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ابزار کا مفرد **بَرٌّ** بھی آتا ہے اور **بَارٌّ** بھی آتا ہے۔ آج ہم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے **وَإِنَّ الْفُجَّارَ**۔ یہ فاجر کی جمع ہے، نافرمان۔ اور بے شک رب تعالیٰ

کے نافرمان، باغی لَفِي جَحِيمٍ البتہ جحیم ہوں گے۔ جحیم کا معنی ہے شعلے مارنے والی آگ۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے بہتر گنا تیز ہوگی۔ آج دنیا کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو اس آگ سے بچائے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن۔ جس دن حساب کتاب ہوگا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ نہیں ہوں گے اس آگ سے غیر حاضر۔ مشرک کو ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد نکالنا نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آدمی ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے۔ وہ وہیں رہیں گے۔ البتہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں گناہ گار مسلمان ہوں گے۔ اہل توحید جو گناہوں میں مبتلا رہے۔ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے اور یہ سارا طبقہ خالی ہو جائے گا۔

فرمایا وَمَا أَذْرَبْتَ مَا يَوْمَ الدِّينِ اور اے مخاطب! تجھے کس نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَذْرَبْتَ مَا يَوْمَ الدِّينِ پھر تجھے کس نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ سن لو! يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وہ دن ہے جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا۔ پہلے پڑھ چکے ہو کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اور حکم اور معاملہ سارا اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کہتے ہیں میری حکومت، میری شاہی۔ یہ میری تیری کہنے والوں نے قوم کا ستیا ناس کر دیا ہے۔ وہاں کوئی بولے گا بھی نہیں سب حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور وہ نافذ کرے گا اور کوئی ٹال نہیں سکے گا۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْمَظْفِقِينَ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

مكتبة

3

آیتها ۲۲ ﴿۸۲﴾ سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ ۸۲ رُكُوعًا ۱ ﴿۸۱﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ۝۴ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝۷ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝۸
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝۹ وَيْلٌ لِّلْمُكْذِبِينَ ۝۱۰ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ
بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۱۱ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝۱۲ إِذَا
تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۳ كَلَّا بَلْ عَرَّانًا
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَأَكَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۴ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَّجُوبُونَ ۝۱۵ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝۱۶ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝۱۷

وَيْلٌ بربادی ہے لِلْمُطَفِّفِينَ کی کرنے والوں کے لیے
الَّذِينَ وہ لوگ إِذَا أَكْتَالُوا جب ماپ کر لیتے ہیں عَلَى النَّاسِ
لوگوں سے يَسْتَوْفُونَ پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ماپ کر
دیتے ہیں ان کو أَوْ وَزَنُوهُمْ یا ان کو تول کر دیتے ہیں يُخْسِرُونَ

کی کرتے ہیں اَلَا يَظُنُّ اَوْلٰٓئِكَ كَيَا يَه يَقِيْنُ نِهِيْس كِرْتِي اَنَّهُمْ
 مَبْعُوْتُوْنَ كِه بِي شِك وِه كُھڑے كِيے جَايِيں كِي لِيَوْمِ عَظِيْمٍ
 بڑے دن ميں يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ جِس دن كُھڑے هُوں كِي لُوگ
 لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رِب الْعٰلَمِيْنَ كِي سَا مَنِي كَلَّا كِي بَات هِي اِن كَسِبَ
 الْفَجَارِ بِي شِك نَا فَرْمَانُوں كَا دَفْتَر لَفِي سَجِيْنِ سَجِيْنِ ميں هِي وَ مَا
 اَذْرَبْتَ مَا سَجِيْنِ اُو رَا پ كُو كَس نِي بَتَا يَا كِه سَجِيْنِ كِيَا هِي كَسِبَ
 مَرْقُوْمٍ يِه اِيك دَفْتَر هِي لَكْهَا هُوَا وَيَلَّ يَوْمَ يَذِيْلُ الْمَكْذِبِيْنَ بَر بَادِي هِي
 اِس دن جَهْلَانِي وَالُوں كِي لِي لِّلَّذِيْنَ وِه لُوگ يَكْذِبُوْنَ جُو
 جَهْلَاتِي هِي يَوْمِ الدِّيْنِ بَدَلِي كِي دن كُو وَ مَا يَكْذِبُ بِهِي اُو رِهِي
 جَهْلَاتَا اِس كُو اِلَّا كَلُّ مَعْتَدٍ مَگَر هِر زِيَادَتِي كَرْنِي وَالَا اَشِيْمُ كِنَاهَا ر
 اِذَا تَلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا جِب پڑْهِي جَاتِي هِي اِس كِي سَا مَنِي هَمَارِي آيْتِي
 قَال كِه تَا هِي اَسَا طِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ پِهْلِي لُوگوں كِي قِصِي كِهَانِيَا هِي
 كَلَّا كِي بَات هِي بَلَّ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بَلَكِه زَنگ چڑْه كِيَا هِي اِن
 كِي دِلُوں پَر مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اِس كَمَائِي كِي وَجِه سِي جُو وِه كِرْتِي هِي كَلَّا
 خَبْر دَار اَنَّهُمْ بِي شِك وِه عَن رَّبِّهِمْ اِنِي رِب سِي يَوْمَ يَذِيْلُ اِس
 دن لَمَّ خَجُوْتُوْنَ پَر دِي ميں رَكْهِي جَايِيں كِي ثُمَّ اَنَّهُمْ پُھَر بِي شِك
 يِه لُوگ لَصَالُوْا النَّجِيْمِ اَلْبَتِه دَاخِل هُوں كِي شَعْلِي مَارْنِي وَالِي آگ ميں

ثُمَّ يُقَالُ پھر کہا جائے گا هَذَا الَّذِي یہ ہے وہ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورت المطففين ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں مطففين کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مطففين کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پچاسی * ۸۵ * سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ (یہ چھیاسویں * ۸۶ * نمبر پر نازل ہوئی)۔ اس کا ایک رکوع اور * ۳۶ * چھتیس آیتیں ہیں۔

وَيْلٌ - وویل کا لفظی معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور وویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ تو وویل کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِّلْمُطَفِّفِينَ کمی کرنے والوں کے لیے ہے تول میں اور ناپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمادی الَّذِينَ وَه لَوْك هِي اِذَا كُنَّا لَوْ اَعْلَى النَّاسِ جب ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے يَسْتَوْفُونَ پورا پورا لیتے ہیں۔ اپنا حق پورا وصول کرنا اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خرابی اگلی بات میں ہے وَاِذَا كَانُوا لَوْ هُمْ اور جب ماپ کر دیتے ہیں ان کو اَوْ وَزَنُوهُمْ يَان كُو تُول كَر دیتے ہیں يُخْسِرُونَ کمی کرتے ہیں۔ اپنا حق پورا لیتے ہیں دوسروں کو پورا حق نہیں دیتے۔

خرید و فروخت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً: ایک آدمی دکان دار سے کہتا ہے کہ ایک کلو گھی دے دے یا فروٹ دے دے یا دال دے دے، کوئی چیز بھی ہے۔ دکان دار کہتا ہے کہ میں سو روپے کی دوں گا، مثال کے طور پر اور خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک

ہے تول دے۔ یہ سودا ہو گیا۔ اگر دکان دار اس میں سے ایک دانے کی بھی کمی کرے گا تو قیامت والے دن اس کو دینا پڑے گا۔ کیوں کہ قیمت اس نے ایک کلو کی لی ہے۔ اس میں جو اس نے کمی کی ہے یہ اس کا حق مارا ہے۔

حقوق العباد اور غنیۃ الطالبین کے دو واقعات :

یاد رکھنا! حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بڑے نیک آدمی تھے، فوت ہو گئے۔ اپنے ساتھی کو خواب میں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہوں لیکن جنت کے دروازے سے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ فرشتے کہتے ہیں اِسْتَعْرَتْ اِبْرَةَ مِّنَ الْجَارِ فَلَمْ تَرُدَّهَا ”تو نے اپنے پڑوسی سے سوئی مانگ کر لی تھی وہ تو نے واپس نہیں کی، آپ کے وارث وہ سوئی واپس کریں گے تو داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔“ صرف ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہیں۔ یہاں تو لوگ کارخانے غائب کر جاتے ہیں، مشینیں کھا جاتے ہیں۔

ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک آدمی دعوت کھا کر باہر نکلا تو کسی کے کھیت سے پودا توڑ کر اس سے خلال کیا، دانتوں سے بوٹی نکالی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ اس نے بغیر اجازت کے تڑکا توڑ کر خلال کیا تھا۔ جب تک اس کے وارث اس کا نقصان نہیں بھریں گے۔ معاف رکھنا! یہاں تو قربانی کے بکرے چھترے لوگوں کی فصلیں چرتے ہیں۔ ہم نے حقوق العباد کو کچھ نہیں سمجھا حالانکہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ کسی قسم کی ہیرا پھیری سنگین جرم ہے۔

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مختلف اجناس کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گندم، جو، باجرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک بڑا ڈھیر دیکھا کہ ماشاء اللہ بڑا ڈھیر ہے۔ جبرئیل تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت! اس ڈھیر کو اوپر سے نہ دیکھیں ہاتھ ڈال کر اندر سے دیکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اندر ڈالا تو دانے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے! یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت! أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ "بارش کی وجہ سے بھیگ گئے ہیں۔" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش ہو گئی تھی تو تیرا فرض تھا اس کو خشک کرنا۔ یہ تو دھوکا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا "جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی۔ چینی، نمک، تیک جیسی سستی چیز بھی اگر دیانت دار پیس کر نہ دے تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ! ہم مسلمان کہلانے والے ہیں۔

یاد رکھنا! گاہک کے ساتھ جو طے کیا ہے وہی اس کو دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب بتلانا ضروری ہے۔ اگر بغیر عیب بتلائے بیچ دی تو اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عیب چھپاتے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروباری معاملات میں احتیاط کا ایک واقعہ :

امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کی کمائی

محدثین، فقہائے کرام، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرتے تھے۔ بہت بڑی دکان تھی۔ کسی کام جانا تھا تو شاگرد کو کہا بیٹا! مجھے کام پیش آ گیا ہے تھانوں کی قیمت سمجھ لے۔ اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے۔ مگر اس میں عیب ہے جب بیچنا ہے تو عیب بتلا کر بیچنا ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو شاگرد سے پوچھا کہ کون کون سا تھان بکا ہے، کتنی رقم ملی ہے۔ شاگرد نے بتلایا کہ فلاں فلاں تھان بک گئے ہیں اور وہ گرم تھان جس میں عیب تھا وہ بھی بک گیا ہے۔ فرمایا گا بک کو عیب بتلایا تھا؟ شاگرد نے کہا کہ مجھے بتلانا یاد نہیں رہا۔ امام صاحب نے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ** **وَإِنَّا لِيَهْرَاجِعُونَ** میری کمائی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا جنھوں نے خریدا ہے وہ قافلہ کس طرف گیا ہے؟ شاگرد نے بتلایا۔

اصطبل خانے پہنچے جس طرح آج کل یہاں ٹیکسیوں کے اڈے ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، اس زمانے میں شہر سے باہر اصطبل ہوتے تھے۔ گھوڑے، گدھے، اونٹ کرایہ پر ملتے تھے۔ اصطبل والے سے کہا بھائی! جو تیرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے وہ مجھے دے۔ گھوڑا لیا اور قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ خریدار کا حلیہ پوچھ کر گئے تھے اس کو پہچان لیا۔ اس سے فرمایا کہ آپ نے کونے کی فلاں دکان سے ایک گرم تھان خریدا ہے؟ اس نے کہا ہاں! خریدا ہے، پیسے دے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس تھان میں عیب ہے میرے شاگرد کو بتلانا یاد نہیں رہا میں وہ عیب بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ تھان ہے اتنے ہی پیسوں کا۔

آج ایسے آدمی کہاں ملیں گے؟ آج کل تو عیب چھپاتے ہیں۔ یقین جانو! ان چیزوں نے ہمیں اسلام کی خوبیوں سے محروم کر دیا ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ حرام کا ایک

لقمہ کھانے سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے تو پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ اگر کسی نے دس روپے کا کرتہ خریدا اس میں ایک روپیہ حرام کا ہے جب تک وہ کرتہ جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج تو ہمارا دور ہی ہیرا پھیری کا ہے۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں قرآن و حدیث کے، ان کو یاد کر لو۔
تو فرمایا لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں **اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ - ظن** کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں اور گمان کے بھی آتے ہیں۔ یہاں یقین کے معنی ہیں۔ کیا وہ یقین نہیں کرتے **اَنَّهُمْ مَّبْعُوۡنُوۡنَ** کہ بے شک وہ کھڑے کیے جائیں گے مرنے کے بعد۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور کھڑے کیے جائیں گے **لِيَوْمِ عَظِيۡمٍ** بڑے دن میں جو پچاس ہزار سال کا لہا دن ہوگا **يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا** ﴿سورۃ المزمل﴾ ”جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔“

يَوْمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ **لِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ** رب العالمین کے سامنے۔ اور رب العالمین ایک ایک رتی کا حساب لیں گے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** ”پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا دیکھ لے گا **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** اور جس نے ذرہ برابر بھی بُرائی کا کام کیا ہوگا دیکھ لے گا۔“
فرمایا **كَلَّا**۔ یہاں **كَلَّا** کا معنی **حَقًّا** ہے، کئی بات ہے **اِنَّ كَيْسَبَ الْفَجَّارِ لَنِفٍ** **سَيِّئِيۡنَ** بے شک نافرمانوں کا دفتر سچین میں ہے۔ سچین سات زمینوں کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے جو کافروں اور نافرمانوں کی ارواح کا ٹھکانا ہے۔ اگلی آیات میں **عَلْتِيۡنَ** کا لفظ

آتا ہے وہ سات آسمانوں کے اوپر ایک مقام کا نام ہے جو نیک لوگوں کی ارواح کا مقام ہے۔ لیکن سجن اور علیین میں روحوں کے ہونے کے باوجود قبروں میں جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک قسم کی حیات مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من ربك من نبيك ما دينك سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر راحت و آرام نصیب ہوتا اس کو محسوس کرتا ہے سزا اور تکلیف ہوتا اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اتنی حیات ہر نیک و بد کو قبر میں قطعی طور پر حاصل ہے۔ اس کا انکار بے دینی اور الحاد ہے۔

وَمَا آذْرٰتِكَ مَا سَجِيْنٌ اور آپ کو کس نے بتایا کہ سجن کیا ہے كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ وہ ایک دفتر ہے جس میں مجرموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت کوئی مرتا ہے تو باقاعدہ وہاں اس کا نام درج ہے کہ آج یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّمُكْذِبِيْنَ بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الَّذِيْنَ يَكْذِبُوْنَ يَوْمَ الدِّيْنِ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے اور حساب کتاب کے دن کو۔ عرب کے مشرکوں کی اکثریت بڑے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتی تھی۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو کہتے هِيَهَاتَ هِيَهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿المومنون: ۳۶﴾ ”بعید ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔“ اور کہتے تھے ؕ اِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ﴿ق: ۳﴾ ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔“ اور کبھی کہتے مَنْ يُبْحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿يسين: ۷۸﴾ ”کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔“

تو فرمایا وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو وَمَا يَكْذِبُ بِهٖ اِلَّا كَلِمٌ مَّعْتَدٍ

اَشِيُوْ اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہرزیا دتی کرنے والا، تجاوز کرنے والا گناہ گزار۔ جو اپنے رب کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں قَالَ کہتا ہے۔ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اساطیرِ اسْطُوْرَةً کی جمع ہے۔ اس کا معنی قصہ، کہانی۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت آدم ؑ کا قصہ، حضرت نوح ؑ کا قصہ، حضرت ابراہیم ؑ کا قصہ، حضرت ہود ؑ کا قصہ، قارون، فرعون اور ہامان کا قصہ۔ حالانکہ یہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں عبرت اور سبق ہیں۔ نیک لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور بُرے لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کا حشر دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر بُرے کاموں سے بچو۔ اور کافر یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے تھے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔

فرمایا کَلَّا۔ کئی بات ہے بَلْ۔ بلکہ اِنَّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ زَنْجٌ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ لوہے پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی پہلے والی ویلیو (حیثیت) نہیں رہتی، بے کار سما ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نَكِثَتْ عَلٰی قَلْبِهِ نَكِثَةٌ سَوْدَاءٌ ”جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبہ پڑ جاتا ہے، کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے۔“ دوسرا گناہ کیا دوسرا دھبہ پڑ گیا، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ لگ گیا، چوتھا گناہ کیا چوتھا دھبہ لگ گیا (مرد کا دل تقریباً ایک پاؤ ہوتا ہے عورت کا دل ہلکا ہوتا ہے تقریباً تین چھنا تک ہوتا ہے۔) کالے نقاط سے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے اس کو رین کہتے ہیں۔ یہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ جب دل پر زنگ چڑھ جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے۔ یہ حالت انتہائی بُری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حالت سے بچائے۔ پھر دیکھو بعض دھبے کچے ہوتے ہیں پانی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض پانی سے نہیں صابن سے جاتے ہیں اور بعض کے لیے رنگ کاٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اسی طرح آپ گناہوں کو سمجھیں کہ صغیرہ گناہ نیکیوں کی برکت سے خود بخود دھل جاتے ہیں۔ نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، وضو کی برکت سے، مسجد کی طرف آنے کی برکت سے۔ بعض کے لیے صابن درکار ہے کہ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کرو گے تو یہ دھبے نہیں اتریں گے۔ اور بعض کے لیے رنگ کاٹ کی ضرورت ہے کہ توبہ استغفار گناہوں کا رنگ کاٹ ہے۔ لیکن محض زبانی توبہ توبہ کرنے سے نہیں۔ مثلاً: چوری کی ہے تو اس میں رب تعالیٰ کا بھی حق توڑا ہے اور بندے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور بندے کا حق اس کو دے۔ نہیں دے سکتا تو اس سے معاف کرائے۔ اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی سے بدتمیزی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ رنگ کاٹ ہے مگر شرائط کے ساتھ کہ حق ادا کرے۔ محض منہ سے توبہ توبہ کہنا دھوکا ہے۔

توفرمایا کلاً خبردار! اِنَّهُمْ عَنْ ذُّبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْبُرُوْنَ بے شک یہ مجرم لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے۔ (اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب سے روکے جائیں گے جب کہ دوسری آیات یہ بتلاتی ہیں کہ رب کے سامنے ہوں گے رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو محبوب کا یہ معنی ہے کہ جس

پیار، شفقت، محبت اور رحمت سے مومن دیکھے گے اس شفقت سے یہ محروم ہوں گے۔
 رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا حجاب ہوگا **ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ** پھر بے شک
 وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جحیم کا معنی ہے شعلے مارنے والی آگ **ثُمَّ يُقَالُ** پھر کہا
 جائے گا **هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ** یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے
 قیامت کوئی نہیں ہے، میدان محشر کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے
 ہمیں دنیا ہی میں ان چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ بروقت تیاری کر لو۔



كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيَيْنِ ۝۱۸ وَ

مَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُونَ ۝۱۹ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ۝۲۰ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝۲۱

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۲۲ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ۝۲۳ تَعْرِفُ فِي

وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝۲۴ يُسْقُونَ مِنْ رَاحِقٍ مُتَّوِّمٍ ۝۲۵ خِيَمَةٌ

مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَاتٌ مِمَّا هُنَّ مَنَافِسُ ۝۲۶ وَمِزَاجُهُمْ مِنْ

تَسْنِيمٍ ۝۲۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝۲۸ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝۲۹ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝۳۰

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝۳۱ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝۳۲ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝۳۳ فَالْيَوْمَ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝۳۴ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ۝۳۵

هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۳۶

کَلَّا کئی بات ہے اِنّ کِتَابَ الْاَبْرَارِ بے شک نیوں کا دفتر

لَفِي عَلَيَيْنِ عَلَیّین میں ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ اور آپ کو

کس نے بتلایا کہ عَلَیّین کیا ہے کِتَابٌ مَرْقُومٌ ایک دفتر ہے لکھا ہوا

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے اِنّ الْاَبْرَارِ

بے شک نیک لوگ لَفِي نَعِيمٍ البتہ نعمتوں میں ہوں گے عَلَي الْاَرَآئِكِ

آرام دہ کرسیوں پر يَنْظُرُونَ دیکھیں گے تَعْرِفُ (اے مخاطب)

تو پہچانے گا فِي وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں پر نَضْرَةَ التَّعْنِيمِ نعمتوں
 کی تروتازگی يُسْقَوْنَ پلائے جائیں گے مِنْ رَجِيْقٍ خالص شراب
 مَخْتُوْمٍ مہر لگی ہوئی خِتْمُهُ مِنْكَ اس کی مہر کستوری کی ہوگی وَ فِي
 ذٰلِكَ اور اس میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ چاہیے کہ رغبت کریں
 رغبت کرنے والے وَمِرَاجَةٌ اور ملاوٹ اس شراب کی مِنْ تَسْنِيمٍ
 تسنیم سے ہوگی عَيْنًا وہ ایک چشمہ ہے يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ پئیں
 گے اس سے مقرب بندے اِنَّ الَّذِيْنَ بے شک وہ لوگ اَجْرَمُوْا
 جنہوں نے جرم کیا کَانُوْا تھے وہ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰضَحٰكُوْنَ ان لوگوں
 سے جو ایمان لائے ہتے تھے وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ اور جب وہ گزرتے تھے
 ان کے پاس سے يَتَّعَمِرُوْنَ آپس میں اشارے کرتے تھے وَاِذَا
 اِنْقَلَبُوْا اور جب وہ لوٹتے تھے اِلٰى اٰهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف
 اِنْقَلَبُوْا فِكٰهِنٍ لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے وَاِذَا رَاوْهُمُ اور
 جس وقت وہ دیکھتے تھے ان کو قَالُوْا کہتے تھے اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضٰلُّوْنَ
 بے شک یہ البتہ گمراہ ہیں وَمَا اَرْسَلُوْا عَلَيْهِمْ اور حالانکہ نہیں بھیجے گئے
 ان پر حٰفِظِيْنَ نگران فَاَلْيَوْمِ الَّذِيْنَ پس آج کے دن وہ لوگ اٰمَنُوْا
 جو ایمان لائے مِنَ الْكٰفِرِ يٰضَحٰكُوْنَ کافروں پر نہیں گے عَلٰى
 الْاَرَآءِ لِكُرْسِيِّں پر بیٹھ کر يَنْظُرُوْنَ دیکھ رہے ہوں گے هَلْ

لُؤَبَ الْكُفَّارِ تحقیق بدلہ دیا جائے گا کافروں کو مَا اس کا کَانُوايَفْعَلُونَ جو وہ کرتے تھے۔

اس سے پہلے بدوں کے انجام کا ذکر تھا۔ اب نیکوں کے انجام کا ذکر ہے۔ جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں جن کی تعداد اٹھارہ آتی ہے۔ ان سے وصول کر کے آسمانوں کی طرف لے جانے والے فرشتے اور ہیں۔ بد آدمی کی روح کو نکال کر جب پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں تو لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ ”نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔“ پھر فرشتے اس کو ساتویں زمین کے نیچے جہنم کے مقام پر جو دفتر ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر ہے۔

فرمایا كَلَّا يه حَقًّا کے معنی میں ہے، پکی بات ہے اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ -

آبرار کا مفرد بار ہے اور بَرٌّ بھی آتا ہے۔ بے شک نیک لوگوں کا دفتر اِنْفِ عِلِّيِّينَ عِلِّيِّينَ میں ہے وَمَا اَذْرَبْتُمْ مَا عِلِّيُّونَ اور (اے مخاطب) تجھے کس نے بتلایا کہ عِلِّيِّينَ کیا ہے؟ كِتَابٌ دفتر ہے مَرْقُومٌ لکھا ہوا۔ اس میں نیک لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے۔

ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق :

میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام عِلِّيُّونَ ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام جہنم ہے لیکن اس کے باوجود قبر میں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔ اس وقت ہم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ سکتے مگر احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق

ہے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتنا تعلق ہے کہ جس سے جسم میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ نیک آدمی ہوتو اس کے لیے قبر میں راحتیں اور خوشیاں ہوتی ہیں اور بد ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے **الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حِجْرِ النَّيِّرَانِ** ”قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔“ یہ سوال و جواب روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ اور جزا، سزا بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق مسئلہ ہے اس میں کسی قسم کی قبل و قال کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جسد مثالی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اسی دنیا والے بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے اور اسی بدن کو روح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔

فرمایا **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ** بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے جسم بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور روح بھی **عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ** - **أَرَأَيْتُمْ أَكْرِمِكُمْ** کی جمع ہے۔ **أَرَأَيْتُمْ** کا معنی ہے آرام دہ کرسی۔ وہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے **تَعْرِفُ** اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھے گا **فِي وَجْهِهِمْ** ان کے چہروں میں **نَضْرَةٌ تَلْعِينٍ** نعمتوں کی تروتازگی۔ نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے چہرے ہشاش بشاش ہوں گے۔ آج بھی خوش حال آدمی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں اور بھوکے آدمی کے چہرے پر بھی

آثار نمایاں ہوتے ہیں۔

جنت کی شراب :

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - رحیق کا معنی ہے خالص شراب اور مختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی۔ پلائے جائیں گے خالص شراب مہر لگی ہوئی خِثْمُهُ مِسْكٌ مہر اس کی کستوری کی ہوگی۔ آج بھی قیمتی اور اعلیٰ چیزوں پر کمپنی کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اس شراب کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿صفت: ۴۷﴾ ”نہ اس میں سرگردانی ہوگی نہ پیٹ مروڑ۔“ اور نہ اس کی وجہ سے وہ بدمست ہوں گے۔ یہ شرابی لوگ جانتے ہیں کہ پینے کے بعد سردرد ہوتا ہے یا نہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے یا نہیں؟ بدحواس ہونا تو سارے جانتے ہیں۔

آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے گا ان دَخَلَ الْجَنَّةَ ”اگر جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔“ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا عرصہ پی لے گا؟ دس سال، بیس سال، تیس سال، چالیس سال، پچاس سال؟ اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب طہور سے محروم ہو گیا۔ اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی زنا، شراب میں روز بہ روز اضافہ ہوگا کیوں کہ نیک لوگ کم رہ جائیں گے، مغلوب ہوں گے۔ غنڈوں اور بدمعاشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کا غلبہ ہوگا۔ حکومت میں بھی یہی لوگ ہوں گے۔

تو فرمایا مہر اس کی کستوری کی ہوگی۔ آج کستوری سونے سے بھی مہنگی ہے وَفِي

ذٰلِكَ اور اس کے لیے فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے وَمِرَاجُهُ اور اس شراب کی ملاوٹ مِنْ تَسْنِيمٍ تَسْنِيم سے ہوگی۔ تَسْنِيم کیا ہے؟ عَيْنًا وہ چشمہ ہے يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ پئیں گے اس چشمے سے مقرب بندے۔ جنت کے چشموں میں سلسبیل کا بھی ذکر آتا ہے، کوثر کا بھی ذکر آتا ہے، کافور کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے صرف وہی پئیں گے۔ دوسروں کو اس کے ساتھ (پانی) ملا کر پلایا جائے گا۔

یہ مومنوں کا ذکر تھا آگے مجرموں کے متعلق فرمایا جو کافر ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْهَا يَسْتَنَكِبُونَ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنتے تھے۔ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نُنْذِرُكَ مَذَاقُ أُذَاتِهِ ہیں، ڈاڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، شلوار، لُحْنُخُونَ سے اوپر ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض جاہل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جویں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے بسترے جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا! ان چیزوں سے حق تو نہیں رک سکتا۔ حق پر چلنے والے ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رہیں گے۔

تو فرمایا مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں وَإِذَا مَرَّ وَابَهُمْ يَتَغَامَرُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں کہ اس کی ڈاڑھی کو دیکھو، اس کی لنگی کو دیکھو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب مجرم لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف انْقَلَبُوا فَكَيْمِينَ لوٹتے ہیں دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں آج میں نے فلاں آدمی کا اس طرح مذاق اڑایا، فلاں کے ساتھ اس طرح استہزاء کیا ہے۔ یعنی گھر کے

افراد کا بھی ذہن بگاڑتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا مَوْجِنًا قَاتَلُوا اور جس وقت مجرم لوگ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَإِضَّالُّونَ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔

کئی صدیوں تک عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کا سچا مذہب عرب میں رائج رہا ہے۔ پہلا بد بخت جس نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو بدلا اور بت پرستی شروع کی وہ عمرو بن لُحی تھا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اڑھائی سو سال پہلے ہوا ہے۔


جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت کعبۃ اللہ کی بیرونی دیواروں پر تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہابیل رضی اللہ عنہما کا بت بھی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، توحید کا سبق دیا، شرک کی جڑیں اکھاڑیں۔

میں با وضو ہوں الحمد للہ! شرک و بدعت کی جتنی تردید فقہ حنفی میں ہے اتنی اور کسی فقہ میں نہیں ہے۔ مگر آج تیجہ، ساتاں، دسواں، چالیسواں جیسی بدعات کرنے والے اور عرس اور میلاد منانے والے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اور توحید و سنت کا پرچار کرنے والوں اور شرک و بدعت کی تردید کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔

تو فرمایا مجرم مومنوں کو گمراہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ حالانکہ نہیں بھیجے گئے ان پر نگران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجرم ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کی نگرانی کریں اور ان کو نمبر دیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے مِنَ الْكٰفِرِ يَصْحٰكُوْنَ کافروں سے ہنسیں

گے۔ یہ دنیا میں کیے جانے والے مذاق کا جواب ہوگا عَلَى الْأَرْآهِكَ يَنْظُرُونَ -
 آرَائِكَ اَرِيكَتَ كِي جَمْعِ هِے، آرَامِ دِه كَرِي - آرَامِ دِه كَرِيوِيں پَر بِيٹْهِي هُوَ دِي كِر هِے
 هُوِيں گَ هَلْ تُؤَبَ الْكُفَارُ تَحْقِيقِ بَدَلِه دِيَا جَاَے گَا كَا فَرُوں كُو مَا كَانُوَا يَفْعَلُوْنَ
 اِس كَا جَوَه كَرْتِے تْهِي - هَلْ قَدْ كَے مَعْنِي مِيں هِے - جِيسَ سُوْرَة اَلْدَهْر مِيں هِے هَلْ
 اَتِي عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنَ مِّنَ الدَّهْرِ "تَحْقِيقِ آيَا اِنْسَانِ پَر اِيكِ وَقْتِ زَمَانِے مِيں
 سَے كِه يِه كُجْ بْهِي نِهِيں تْهَا -"






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْأَنْشِقَاقِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



ایتها ۲۵ ۱۳ سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ۱۳ رُكُوْعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ
مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝
يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمُلِقِيْهِ ۝ فَاَمَّا مَنْ
اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۝ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝ وَيُنْقَلِبُ
اِلَىٰ اٰهْلِيْهِ مَسْرُوْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وِرَآءَ ظَهْرِهِ ۝ فَسَوْفَ
يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝ اِنَّهٗ كَانَ فِيْ اٰهْلِيْهِ مَسْرُوْرًا ۝
اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝ بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِصِيْرٍ ۝
فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمْرِ اِذَا اَتَقَ ۝
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يُسْجِدُوْنَ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

اِذَا السَّمَاءُ جس وقت آسمان اَنْشَقَّتْ پھٹ جائے گا وَاذِنْتَ
لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کی بات سنے گا وَحُقَّتْ اور ثابت کیا گیا ہے

اس کے لیے یہی وَإِذَا الْأَرْضُ اور جس وقت زمین مُدَّت پھیلا دی
 جائے گی وَالْقَتْمَ مَاقِيهَا اور نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے وَتَخَلَّتْ
 اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور زمین سنے گی اپنے رب کے حکم کو
 وَحُقَّتْ اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اے انسان
 إِنَّكَ كَادِحٌ بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے إِلَىٰ رَبِّكَ كَذْحًا
 اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا فَمَلَقِيهِ پس ملنے والا ہے اس سے فَأَمَّا
 مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ پس بہر حال جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بِيَمِينِهِ
 اس کے دائیں ہاتھ میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا پس عن قریب اس
 سے حساب لیا جائے گا آسان حساب وَيُنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ اور
 بہر حال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ وَرَاءَ ظَهْرِهِ پشت کے پیچھے
 سے فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا پس عن قریب وہ مانگے گا ہلاکت وَيَصْلِي
 سَعِيرًا اور داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں إِنَّهُ كَانَ فِي
 أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خوش إِنَّهُ ظَنَّ
 بے شک وہ خیال کرتا تھا أَنْ لَنْ يَحْزُونَ کہ وہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا اپنے
 رب کی طرف بَلَىٰ کیوں نہیں إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بے شک اس کا
 رب اس کو دیکھنے والا ہے فَلَا أَفْسِسُ بِالشَّقِيقِ پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق

کی وَاللَّيْلِ اور رات کی وَمَا وَسَقَ اور جو وہ سمیٹتی ہے وَالْقَمَرِ اور قسم اٹھاتا ہوں چاند کی إِذَا انشَقَّ جب وہ پورا ہو جائے لَتَرَ كَبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ البتہ تم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر فَمَا لَهُمْ پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ اور جس وقت پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے سامنے لَا يَسْجُدُونَ سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جو نافر ہیں يَكْذِبُونَ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس آپ خوش خبری سنا دیں ان کو دردناک عذاب کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے اچھے لَهُمْ أَجْرٌ ان کے لیے اجر ہے غَيْرَ مَمْنُونٍ نہ ختم ہونے والا۔

نام و کوائف :-

اس سورت کا نام ہے سورۃ الانشقاق۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں انشَقَّتْ کا لفظ موجود ہے جس سے یہ لیا گیا ہے۔ انشقاق مصدر ہے اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے بیاسی ﴿۸۲﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ (یہ تراسیویں ﴿۸۳﴾ نمبر پر نازل ہوئی۔) اس کا ایک رکوع اور پچیس ﴿۲۵﴾ آیات ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جس وقت آسمان پھٹ

جائے گا۔ آج ہمیں آسمان نیلا نیلا صاف نظر آتا ہے جس میں نہ کوئی سوراخ اور نہ دراڑ ہے مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد کنارے کے ساتھ لگ جائے گا۔ آسمان اوپر سے پھٹنے شروع ہوں گے۔ پہلے ساتواں پھر چھٹا پھر پانچواں، آخر میں پہلا۔ **وَ اذِنت لربہا** اور سن لے گا اپنے رب کے حکم کو۔ اذن کا معنی ہے کان۔ اور کان سے آدمی سنتا ہے۔ آسمان کے کان نہیں ہیں مگر جیسے کانوں والی مخلوق سنتی ہے ایسے سنے گا اور اپنے رب کی بات مانتے ہوئے پھٹ جائے گا **وَ حَقَّتْ** اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کہ رب کے حکم کو سننے۔ کانوں سے سننے والی چیزیں بے شمار ہیں لیکن سانپ کے کان نہیں ہوتے مگر اُسے چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی شان ہے جانوروں میں سونگھنے والی قوت انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ جہاں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہوگی انسان کو اس کی خوش بو یا بد بو آئے یا نہ آئے حیوانوں کو آجاتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نظام قدرت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی۔ یہ زمین محشر کے لیے بڑکی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ پہاڑ، سید، عمارتیں وغیرہ سب برابر کر دیئے جائیں گے **وَ اَلْقَتْ مَا فِيهَا** اور نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے۔ خزانے، مردوں کے اجزاء، اُگل کر باہر پھینک دے گی **وَ تَخَلَّتْ** اور خالی ہو جائے گی۔ یہ نکالنا نفخہ اولیٰ سے پہلے بھی ہے اور نفخہ ثانیہ سے بعد میں بھی ہے۔ نفخہ اولیٰ سے پہلے کا مطلب مفسرین کرام **نفس** فرماتے ہیں کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت سے پہلے نکل آئیں گی۔

مثال کے طور پر گیس ہے۔ یہ زمین کے اندر تھی۔ آج سے پچاس سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ گیس بھی کوئی چیز ہے لیکن زمین نے اُگل دی۔ اسی طرح سونا، چاندی،

تانبہ، لوہا، پٹرول وغیرہ ساری چیزیں زمین نکال دے گی۔ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام بڑھاتا جائے گا۔ یہ اقتصادیات والے پاگل بلاوجہ پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج سے پچاس سال بعد اتنی مخلوق ہو جائے گی کہاں سے کھائے گی؟ پاکستان کی آبادی پچپن کروڑ ہو جائے گی کہاں سے کھائے گی، یہ تمہارا کھائے گی۔ بھائی! تمہیں کیا فکر ہے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴿٦٠﴾ ”اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کی روزی۔“

آج سے پچاس سال پہلے مخلوق تھوڑی تھی اس کے لیے پیداوار کے اسباب بھی تھوڑے تھے۔ آج مخلوق زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیداوار بڑھادی ہے۔ بہت ساری زمینیں جو پہلے زیر کاشت نہیں تھیں اب زیر کاشت ہیں۔ فصلیں بڑھ گئی ہیں۔ لہذا تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔

اور نفعِ ثانیہ کے بعد یہ ہوگا کہ زمین میں جتنے مردے دفن ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب نکال دے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین سنے گی اپنے رب کے حکم کو اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کہ اپنے رب کے حکموں کو سننے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اے انسان إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا فَمَلِّقْنِيہ پس اس سے ملنے والا ہے۔ تکلیفوں کے بعد تجھے رب تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ ظاہر بات ہے دنیا میں نیک لوگ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں (بلکہ دوسروں کی نسبت زیادہ اٹھاتے ہیں۔) گرمی، سردی میں وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں

ہے۔ نماز پڑھنی اور روزے رکھنے بھی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا بھی مشکل کام ہے، جہاد کرنا بھی مشکل کام ہے، زکوٰۃ دینی بھی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی بھوکا، کبھی سیر، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خوف، کبھی کچھ، کبھی کچھ، یہ دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور لغوی ہیں۔ انھوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ عزیزوں میرا ایک شعر لکھ لو:

عِشُّ مُوسِرًا اِنْ شِدَّتْ اَوْ مُعْسِرًا

لَا بُدَّ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْهَمِّ

”تو امیز ہو کر زندگی بسر کر یا غریب ہو کر، راحت میں یا تکلیف میں، دنیا میں پریشانیاں ضرور آئیں گی۔“ دنیا میں کوئی آدمی پریشانی سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں فیکٹریوں اور کارخانوں والے۔ ان کے متعلق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے راحت و آرام میں ہیں حاشا وکلا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ان کے حالات سنو، ان سے گفتگو کرو تو تمہیں علم ہو کہ یہ تو اتنے پریشان ہیں کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ ان کے تو طوطے اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے ہم زیادہ راحت و آرام میں ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مال داروں کے گھر میں رات کو بلی داخل ہو جائے تو ڈرتے ہیں کہ ڈاکو تو نہیں آگئے؟ چوہا حرکت کرے تو سمجھتے ہیں چور آ گیا ہے اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں۔ ہم سے کسی نے کیا لے کر جانا ہے۔

تو فرمایا اے انسان تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا

پس ملنے والا ہے اس سے فَاَقَامَنَّ اَوْتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پس بہر حال جس شخص کو دیا گیا

اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ مومن موحّد کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سامنے سے

آکر بڑے ادب و احترام کے ساتھ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑائیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا پس عن قریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان۔ سرسری حساب ہوگا وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ لوٹے گا اپنے اہل والوں کی طرف خوش خوش۔ میدان محشر میں جہاں اس کے گھر کے افراد ہوں گے وہاں بڑا خوش ہو کر جائے گا۔ جیسے دنیا میں جو بچے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اچھلتے کودتے اور لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور بہر حال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے ہے۔

روایات میں آتا ہے فرشتے کافر و مشرک کی، بد کردار کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اعمال نامہ تو اس کو پکڑانا ہے۔ تو پشت کی طرف سے آکر اس کو پکڑائیں گے۔ اس کی منحوس شکل سے نفرت کا اظہار ہوگا فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا پس عن قریب وہ مانگیں گے ہلاکت۔ کہے گا يَلَيْتَنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابِيَةَ ۗ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ ۗ ”کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے يَلَيْتَمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۗ كَاشَ كَمَا يَلَيْتَنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابِيَةَ ۗ“ ﴿سورة الحاقة: پارہ ۲۹﴾

”کاش کہ میں مٹی ہوتا اور جو تکلیفیں نظر آرہی ہیں نظر نہ آتیں۔“

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور داخل ہوگا جہنم میں، شعلے مارنے والی آگ میں إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خوش۔ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف۔ حَارَ يَحُورُ کا معنی ہے لوٹنا۔ کئی دفعہ یہ بات سن چکے ہو

کہ قیامت کے منکر بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿المومنون: ۳۷﴾

”نہیں ہے یہ مگر ہماری صرف دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اس میں اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔“ اور کہتے تھے

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكْ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿سورة ق: ۳﴾

”کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔“ اور یہ بھی کہتے تھے

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿المومنون: ۳۶﴾

”بعید ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی۔“

تو فرمایا کہ بے شک وہ خیال کرتا تھا کہ ہرگز اپنے رب کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا بلی کیوں نہیں لوٹے گا؟ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس کی نیکی، بدی سب رب کے سامنے ہے۔ اس کا بدن اس کے اعضاء رب کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے لوٹنا کیا مشکل ہے؟ فَلَا أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ قسم سے پہلے جو ”لا“ آتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے۔

اختلاف شفق :

شفق کے بارے میں اختلاف ہے کہ سرخی مراد ہے یا سفیدی۔ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جو سرخی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ ان کے نزدیک سرخی ختم ہو جانے کے بعد نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ اس سفیدی کے ختم ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہوگا۔

تو فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی وَاَلَّیْلِ اور قسم اٹھاتا ہوں رات کی وَمَا اور اس چیز کی وَسَقَى جو وہ سمیٹتی ہے۔ حیوان، انسان، پرندے وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں جو رات کو ساکن ہو جاتی ہیں اور دن کو نقل و حرکت کرتی ہیں وَالْقَمَرِ اور چاند کی قسم اٹھاتا ہوں إِذَا اشَّقَّ جب وہ پورا ہو جائے۔ تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں رات کا چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تین دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ان تین دنوں کے روزے رکھے گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ کیوں کہ ضابطہ ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلَهَا ”جس نے ایک نیکی کی اس کو دس گنا اجر ملے گا۔“ ایک روزہ رکھا تو دس روزوں کا ثواب مل گیا۔ تین رکھے تو تیس دن کا ثواب مل گیا۔ فرمایا ان چیزوں کی قسم لَتَرَ كِبْنَ طَبَقًا عَنِ طَبَقٍ البتہ تم ضرور چڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر، (عَنْ) یہاں بَعْدُ کے معنی میں ہے یعنی ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد) ایک حالت سے دوسری حالت پر۔

مثلاً: پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر انسانی شکل بنی، پھر اس میں جان پڑی، پھر تم بچے ہوئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر مر جاؤ گے، پھر قیامت برپا ہوگی۔ اسی طرح دنیا میں کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ مختلف حالات طے کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جس وقت ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا

ہے سجدہ نہیں کرتے رب تعالیٰ کو۔

یہ آیت سجدہ ہے جن مرد عورتوں نے یہ آیت سنی ہے اُن پر سجدہ لازم ہو گیا ہے۔ پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ اور سجدے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ واجب ہے۔ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ فرض ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ فرض کفایہ ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر! کہنا ہے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ایک ہی سجدہ کرنا ہے اور اس میں تسبیحات بھی پڑھنی ہیں اور کم از کم تین مرتبہ پڑھے۔ اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے سلام نہیں پھیرنا۔ بس یہ سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔


تو فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلَكُمْ وَهَلْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، حق کو، قرآن کو، توحید کو، نبوت کو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

وعا کا معنی ہے برتن۔ پہلے زمانے میں لوگ سکے برتنوں میں ڈال دیتے تھے۔ اب اس کا لازمی معنی ہو گا دولت جمع کرنا۔ تو ایسے مجرم جو ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس آپ ان کو خوش خبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ طنزاً فرمایا اور نہ عذاب کی کیا خوش خبری ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی،

همیشه همیشه کاراحت و آرام پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے۔

[امین]






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْبُرُوجِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۲۲ ﴿۲۲﴾ ۸۵ سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ ۲۷ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۳
 قَتِيلٍ أَضْحَبِ الْأُخْدُودِ ۴ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا
 يُعُودُونَ ۶ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۷ وَمَا
 نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۸ الَّذِي
 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۹ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰
 إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
 عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۱۱ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۱۲ ذَلِكَ
 الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۱۳ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۱۴ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَ
 يُعِيدُ ۱۵ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۱۶ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۱۷ فَتَعَالَى
 لَهَا يُرِيدُ ۱۸ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۹ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۲۰
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۲۱ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۲۲
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۲۳ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۲۴

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی وَالْيَوْمِ

الْمَوْعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وَشَاهِدٍ اور قسم
 ہے حاضر ہونے والے (دن) کی وَ مَشْهُودٍ قسم ہے (اس دن کی) جس
 میں حاضری دی جاتی ہے قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ مارے گئے خندقوں
 والے النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ایندھن والی آگ تھی اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
 جب وہ آگ کے قریب بیٹھے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور وہ اس
 کارروائی پر جو وہ کر رہے تھے بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے ساتھ
 شُهُودٌ دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور انہوں نے نہیں عیب پایا
 ایمان والوں میں اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ مگر یہ کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ
 تعالیٰ پر الْعَزِيزِ الْجَوَّالِ ہے الْحَمِيدِ قابل تعریف ہے الَّذِي لَهُ
 مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وہی اللہ تعالیٰ کہ اسی کا ہے ملک آسمانوں کا اور
 زَمِيْنٍ كَا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ
 الَّذِيْنَ بے شک وہ لوگ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنھوں نے
 فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا پھر توبہ نہ کی
 فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَ لَهُمْ عَذَابٌ
 الْحَرِيْقِ اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور عمل کیے اچھے
 لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں

ان کے نیچے نہریں۔ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہ ہے بڑی کامیابی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک آپ کے رب کی پکڑ البتہ (بڑی) سخت ہے اِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ بے شک وہی ابتدا میں پیدا کرتا ہے وَيُعِيدُ اور وہی لوٹائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ اور وہی بخشنے والا ہے الْوَدُودُ اور بڑی محبت کرنے والا ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ عرش کا مالک ہے بڑی بزرگی والا ہے فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ کرتا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے هَلْ اَتٰكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ فرعون اور قوم ثمود کی بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں فِي تَكْذِيبٍ جھٹلانے میں (لگے ہوئے) ہیں وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآيِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے مُحِيطٌ گھیرنے والا ہے بَلْ هُوَ قَرِيبٌ مَّجِيدٌ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی بزرگی والا فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ لوح محفوظ میں ہے۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں بروج کا لفظ موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ چھبیس * ۲۶ * سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ستائیسواں * ۲۷ * نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بائیس * ۲۲ * آیات ہیں۔

بروج بروج کی جمع ہے۔ برج کا معنی ہے قلعہ۔ یہ چاند اور سورج کی منزلیں ہیں۔

اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کراچی سے گاڑی چلتی ہے پشاور کے لیے تو وہ سندھ طے کرے گی، صوبہ پنجاب طے کرے گی، پھر سرحد پہنچے گی۔ یا ضلعوں کو لے لو۔ مثلاً: لاہور سے چلی، تھوڑا سا شیخوپورہ عبور کیا، پھر گوجرانوالا، پھر گجرات، پھر جہلم، پھر راولپنڈی پہنچی۔ تو یہ جو راستے والے اسٹیشن ہیں یہ منزلیں سمجھیں۔ اسی طرح آسمان میں منزلیں ہیں جن کو سورج، چاند طے کرتے ہیں۔ ان کو برج کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور وعدے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی وَشَاهِدٍ اور حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے جمعہ کا دن مراد ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے وَ مَشْهُودٍ اور اس دن کی قسم ہے جس دن حاضری دی جاتی ہے۔ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ نویں ذوالحجہ کو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اہم دن ہیں۔

آگے جواب قسم ہے قَتِيلَ اصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خَدُّ کی جمع ہے۔ اور بعض اس کو مفرد بناتے ہیں اور اس کی جمع آخادید ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائیوں والے۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا مارے گئے کھائی والے النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ایندھن والی آگ تھی۔ ایسی آگ جس کا ایندھن بہت زیادہ تھا اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُوعُوْدٌ۔ قُوعُوْدٌ قَاعِد کی جمع ہے۔ قاعد کا معنی بیٹھنے والا۔ جب وہ آگ کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ آگ جلانے والے آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور وہ اس کارروائی پر جو وہ کر رہے تھے بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے ساتھ شَهُوْدٌ دیکھ رہے تھے۔

اصحاب الاخدود کا واقعہ :

یہ خندقوں والے کون ہیں؟ اس کے متعلق مسلم شریف، جس کا بخاری شریف کے بعد درجہ ہے، اس میں روایت ہے اور ترمذی شریف اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ (آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے ستر (۷۰) سال پہلے کا واقعہ ہے) یمن کا ایک بڑا ظالم و جابر، بے لحاظ بادشاہ تھا۔ اس کا نام یوسف اور لقب ذونو اس تھا۔ بڑا کافر، مشرک اور منہ پھٹ آدمی تھا۔ اُس زمانے میں اکثر حکومتوں کے بادشاہ جادو گروں اور نجومیوں کے مشوروں پر چلتے تھے۔ تو یمن کے علاقے میں ایک بڑا جادو گر تھا۔ تاریخ کی کتاب میں اس کا نام بسطیح لکھا ہے۔ یہ جادو گروں کا امام تھا۔ یہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے جادو کے کرتب کسی کو سکھا دوں۔ لہذا مجھے کوئی ذہین بچہ مہیا کرو تا کہ میں جادو کا علم، فن اور جتنے کرتب مجھے آتے ہیں میں اس کو سکھا دوں۔

بادشاہ نے اس وقت کے سکول، کالجوں کے پرنسپلوں سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک ذہین بچہ چاہیے۔ انھوں نے ایک بڑا ذہین خوب صورت بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، یہ اتنا ذہین تھا کہ ہوا سے بات کو اخذ کر لیتا تھا۔ جب کوئی بات شروع کرتا تھا تو یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادو گر کے حوالے کر دیا کہ اس کو اپنا فن سکھا دو۔ یہ بچہ روزانہ آنے جانے لگا اور جادو گر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔

راستے میں ایک راہب تھا جو اس وقت حضرت عیسیٰ ﷺ کے صحیح مذہب حق پر تھا۔ اصل مقصد تو اس کا تبلیغ تھا مگر ظالم، جابر بادشاہ کی وجہ سے کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مسواکیں، ٹوپیاں، سرمہ جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بہانے کے ساتھ وہ تبلیغ کرتا

تھا۔ یہ راہب اس بچے کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر کہا بر خوردار! میں روزانہ تجھے دیکھتا ہوں کہاں آتے جاتے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے مجھے والدین اور حکومت وقت نے اس سے جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ راہب نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو توحید سنائی اور رسالت اور قیامت کا سبق دیا۔ چونکہ بچے کا ذہن صاف تھا راہب کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ بادل نخواستہ جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا کیوں کہ مجبور تھا مگر زیادہ وقت راہب کے پاس گزارتا تھا۔ کافی دین سیکھ لیا اور پختہ ذہن کا ہو گیا۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی موذی جانور شیر یا اژدہا نے راستہ روک رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا محال تھا لوگ پریشان تھے اور اس جانور کو مار نہ سکے۔ اس لڑکے نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ موذی جانور ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ اس کے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا اور اس کرامت کی وجہ سے وہ لڑکا بڑا مشہور ہو گیا۔ اس کے پارہا ایک نابینا آدمی آیا اور درخواست کی کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے کہا تو بہ تو بہ آنکھیں دینا رب کا کام ہے میرا نہیں ہے۔ راہب کے پاس گئے اس نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں تم بھی دعا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں واپس کر دیں۔ کیوں کہ وہ پہلے بینا تھا بعد میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، وہ بینا ہو گیا۔ اب اس کا اور زیادہ چرچا ہوا۔

ظالم بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو اس نے تینوں کو طلب کر لیا اور ان کو خاصا ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ہم صرف رب کی

ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور وقت کے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے راہب اور جو اس کی دعا سے بیٹا ہو گیا تھا دونوں کو قتل کر دیا اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ جب اس کو چوٹی سے نیچے گرانے لگے تو رب تعالیٰ کے فرشتوں نے ان سب کو پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ وہ سارے ختم ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔

بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ لڑکا تو نہیں مرا پبلک کافی مر گئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا رنج ہوا اور اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے گہرے پانی میں لے جا کر ڈبو دو۔ اس کو سمندر میں گرا کر کشتی واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے عبد اللہ کو محفوظ رکھا اور جو ڈوبنے کے لیے گئے تھے ان کو فرشتوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ بچے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں خود اس کی تدبیر بتلاتا ہوں۔ مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والا زبان سے یہ الفاظ کہے بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلّٰمِ یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلّٰمِ کہہ کر تیر چلایا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ لفظ سن کر پبلک نے جب الفاظ سنے اور یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اَمَنَّا بِرَبِّ الْغُلّٰمِ ”اس نوجوان کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔“ یہ دیکھ کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اس نے خند قیں کھدوا کر ان میں آگ جلائی اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر زندہ جلا دیا۔ وہ لوگ آگ میں جل گئے مگر کلمہ کسی نے نہ چھوڑا۔

ایک ایمان دار عورت لائی گئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ آگ کے شعلوں کو دیکھ کر وہ عورت گھبرائی۔ اس بچے نے بول کر کہا **يَا أُهْمِي اِصْبِرِي اِنَّكَ عَلَي الْحَقِّ** ”اے ماں! صبر کرنا تم حق پر ہو گھبرانا نہیں۔ اگرچہ بہ ظاہر یہ آگ ہے مگر حقیقت میں یہ جنت ہے۔“ بادشاہ نے جب لوگوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے اسی آگ کو پھیلا کر سب کو بھسم کر دیا اور سارے ظالم ختم ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ** اور انھوں نے نہیں عیب پایا ایمان والوں میں **اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ** مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر **الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ** جو غالب ہے قابل تعریف ہے۔ بس یہ جرم تھا ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ العزیز الحمید پر ایمان لائے **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** وہی اللہ تعالیٰ کہ جس کا ملک ہے آسمانوں کا اور زمین کا **وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ **اِنَّ الَّذِيْنَ بَدَّ شَكَّوْهُ لَوُكَّ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ** جنھوں نے فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں کو **وَالْمُؤْمِنٰتِ** اور مومن عورتوں کو **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا** پھر توبہ نہ کی انھوں نے **فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ** پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے **وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلْحَرِيْقِ** اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔ مرنے کے بعد تو جو عذاب ہو گا سو ہو گا دنیا میں بھی اسی آگ نے ان کو جلا کر رکھ کر دیا جو انھوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے عمل کیے ایسے **لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ** ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں **ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ** یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان

مرد عورت کو نصیب فرمائے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ظالم چاہے جتنا ظلم کر لے کتنا عرصہ کر لے گا؟ یقیناً ایک دن رب تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا پھر اس کی جان نہیں چھوٹے گی اِنَّهُ هُوَ يُبْدِيْ وَيُعِيْدُ بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہی ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو۔ اَبْدًا يُبْدِيْ اِبْدَاءً پیداکرنا۔ وَيُعِيْدُ اور وہی لوٹائے گا قیامت والے دن۔ جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ اور وہی بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے ذُو الْعَرْشِ عرش والا ہے۔

جو غیر جان دار مخلوق ہے اس میں سے عرش سب سے بڑا ہے۔ سات آسمانوں اور سات زمینوں پر حاوی ہے الْمَجِيْدُ بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے فَعَالٍ لِّمَا يَرِيْدُ کرتا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی نال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو تم نے سن لیا کہ ظالموں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑہ غرق کر دیا۔ اور سنو!

فرمایا هَلْ اَشْكُ حَدِيْثَ الْجُنُوْدِ کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ فرعون کی خبر آئی ہے یا نہیں، قوم ثمود کی خبر آئی ہے یا نہیں؟ فرعونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا؟ جو رب ان قوموں کو سزا دے سکتا ہے وہ آج بھی نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ بلکہ کافر لوگ تکذیب میں مبتلا ہیں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ توحید اور رسالت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کمر بستہ ہو کر حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وَ اِنَّهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ اور اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے علم کے لحاظ سے،

قدرت کے لحاظ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم اور قدرت میں ہیں۔ فرمایا اس کا انکار نہ کرو **بَلْ هُوَ قَدْرَانٌ مَّجِيدٌ** بلکہ یہ قرآن ہے بڑی بزرگی والا۔ یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے بڑی بزرگی والا ہے۔

آج آسمانی کتابوں میں یہی کتاب ہے الحمد للہ! جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے کہ اس میں زیر زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ بے شک تورات، انجیل، زبور برحق تھیں اور آسمانی صحیفے بھی تھے لیکن اس وقت دنیا میں تورات کا ایک نسخہ بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ نہ انجیل اصل شکل میں موجود ہے اور نہ زبور اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور خود پادری صاحبان اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جس طرح لوح محفوظ میں تھا اور جس طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا اسی طرح آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔

فرمایا **فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ** لوح محفوظ میں ہے۔ وہاں سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی وساطت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الطَّارِقِ

(تكميل)

جلد ————— ۲۱

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

آیتها ۱۷ سورۃ الطارق مکیہ ۲۶ رکوعها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝
 إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلَیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ خَلْقٍ
 خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝
 إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ
 لَأَنصَارٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ ۝
 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ یَكِيدُونَ كَيْدًا ۝
 وَآكِيدُ كِيدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِیْنَ أَجْمَعَهُمْ رُؤِیدًا ۝

وَالسَّمَاءِ قسم ہے آسمان کی وَالطَّارِقِ اور رات کو آنے والے کی
 وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ کو کس نے بتلایا مَا الطَّارِقُ طارق کیا ہے
 النَّجْمُ الثَّاقِبُ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ نہیں ہے کوئی نفس
 لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ مگر اس پر نگران ہے فَلَیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ پس چاہیے
 کہ دیکھے انسان مِنْ خَلْقٍ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ پیدا
 کیا گیا ہے مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ اچھلنے والے پانی سے یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ
 الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے إِنَّهُ عَلَى

رَجِعِهِ لِقَادِرٍ بے شک وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے یَوْمَ تُبْلَى
 السَّرَآپِرُ جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ پس
 نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت وَلَا نَاصِرٍ اور نہ کوئی مددگار ہوگا
 وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی وَالْأَرْضُ ذَاتِ
 الصَّدْعِ اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضَّلَ بے شک یہ
 قرآن کریم البتہ فیصلہ کرنے والی بات ہے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اور نہیں ہے
 یہ قرآن ہنسی مذاق کی بات إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا بے شک یہ لوگ
 تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا وَآكِيدُ كَيْدًا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر
 کرنا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ پس آپ مہلت دیں کافروں کو آمِهْلَهُمْ
 رُوَيْدًا مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔

نام اور کوالف

اس سورت کا نام طارق ہے۔ پہلی آیت لریمہ میں طارق کا لفظ موجود ہے۔ یہ
 سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پینتیس * ۳۵ * سورتیں نازل ہو چکی
 تھیں۔ اس کا چھتیسواں * ۳۶ * نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور سترہ * ۱۷ * آیتیں ہیں۔

طارق کیا ہے اور انجسم الشاقب کی مختلف تفسیریں :

وَالسَّمَاءُ میں واو قسمیہ ہے۔ معنی ہوگا قسم ہے آسمان کی وَالطَّارِقِ اور قسم
 ہے رات کو آنے والے کی۔ طارق کا لفظی معنی ہے رات کو آنے والا۔ لیکن یہاں خود شرح
 کردی کہ طارق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الطَّارِقِ اور آپ کو کس نے

بتلایا کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں النَّجْمُ الثَّاقِبُ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ النَّجْمُ الثَّاقِبُ سے مراد چاند ہے کہ اس کی روشنی باقی تمام ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے زحل ستارہ مراد ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ثریا یعنی کہکشاں مراد ہے۔ ان ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیات رکھی ہیں۔ ہم سے چونکہ بہت دور ہیں اس لیے ہم ان کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قسم ہے اور آگے جواب قسم ہے إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ بعض حضرات ان کو نافیہ قرار دیتے ہیں اور لَمَّا إِلَّا کے معنی میں ہے۔ معنی ہوگا نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگران ہے۔

حَافِظٌ كِي مَسْرَاد :

”نگران کون ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿یوسف: ۶۲﴾ ”پس اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔“ تو سب سے بڑا محافظ رب العالمین ہے اور ہر وقت نگران ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کرانا کاتبین مراد ہیں۔ کہ وہ اعمال کے نگران ہیں۔ سورۃ الانفطار پارہ ۳۰ میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿يَكْرُمًا كَاتِبِينَ﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ”بے شک تمہارے اوپر البتہ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“ جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں اور جو فعل سرزد ہوتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ دو فرشتے دن کے ہوتے ہیں اور دو

رات کے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات والے فجر کی نماز کے لیے امام اللہ اکبر! کہتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے وقت امام محلہ کہتا ہے اللہ اکبر! تو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔

تیسری تفسیر یہ ہے کہ حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جن کا ذکر پارہ ۱۳ سورۃ الرعد آیت نمبر ۱۱ میں ہے **لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَہُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ** ”اس کے لیے آگے پیچھے آئے والے ہیں اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔“

تفسیر ابن جریر طبری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس فرشتے انسان کے بدن کی دن کو حفاظت کرتے ہیں اور دس رات کو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی منظور ہوتی ہے اور جب اس کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں اور وہی کچھ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے۔

تو فرمایا ہر نفس پر نگران مقرر ہے **رَلَيْسَ نَظَرِ الْإِنْسَانِ وَمَعَ خَلْقٍ** پس چاہیے کہ دیکھے انسان، غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جب جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے مال و دولت والا ہوتا ہے تو بگڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ انسان کو اپنی خلقت دیکھنی چاہیے۔ اگر اسے خود شرم آتی ہے بیان نہیں کر سکتا تو ہم بتا دیتے ہیں **خَلِقٌ مِّنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ** پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے جو اچھل کر رحم میں پڑتا ہے شہوت کے ساتھ۔ **مَاءٍ مَّهِينٍ** حقیر پانی کہ جب وہ

شہوت کے ساتھ بدن سے نکلتا ہے تو بدن پلید ہو جاتا ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے۔ اس نجس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کاش کہ آج انسان اپنی اصلیت کو دیکھتا **يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ**۔ **تَرَائِبٌ تَرِيْبَةٌ** کی جمع ہے کا معنی ہے چھاتی۔ چھاتی ہے تو مفرد مگر اس پر جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ معنی ہوگا جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے۔ مرد کا نطفہ کمر سے اور عورت کا چھاتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور چھاتی دل کے قریب ہوتی ہے اس وجہ سے ماں میں بچوں کے لیے شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور کمر چونکہ دل سے ذرا دور ہوتی ہے اس لیے باپ میں شفقت بہ نسبت ماں کے تھوڑی ہوتی ہے۔

فرمایا اے انسان سن لے! جس رب نے تجھے حقیر چیز سے پیدا کیا ہے **إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَائِدٌ** بے شک وہ رب تعالیٰ انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا اور بعث بعد الموت کا اقرار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر آنکھیں بند کر لے اور ضد سے کام لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ **يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ**۔ **سَرَائِرٌ** جمع ہے **سَرِيْرَةٌ** کی اور **سَرِيْرَةٌ** کا معنی ہے راز۔ معنی ہوگا جس دن امتحان لیا جائے گا رازوں کا۔ چاہے دل کے راز ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں سب کا امتحان ہوگا کہ وہ باتیں جائز تھیں یا ناجائز تھیں۔ چھوٹی بڑی ہر شے سامنے آئے گی اور انسان حیران ہوگا اور کہے گا **مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴿۴۹﴾** ”کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو مگر اس نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔“ وہ چیزیں جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تھا ان کا بھی سوال ہوگا۔

مقرب بندوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے جائیں گے :

بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو قریب کر کے اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ پھر اس سے سوال کریں گے "آتذکر ذنبتکذا" "کیا فلاں گناہ تجھے آیا، کیا فلاں گناہ تجھے یاد ہے۔" ان چیزوں کا ذکر فرمائیں گے جن کو بندہ گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ مثلاً: رب تعالیٰ فرمائیں گے بندے! تجھے یاد ہے مسجد سے نکلتے ہوئے تو نے سبزھیوں پر تھوکا تھا، تو نے کیلا، آم کھا کر چھلکے راستے پر پھینک دیئے تھے۔ تیرے کمرے میں جالا لگا ہوا تھا تو نے نہیں اتارا تھا۔ تو نے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی۔ ایسی چیزوں کا ذکر ہوگا جن کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، طوطے اڑ جائیں گے کہ ان چیزوں کا سوال ہو رہا ہے جن کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے! چوں کہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں لہذا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے میں اجر دیتا ہوں۔ کیوں کہ توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں "فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ" یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ۔

جب یہ دیکھے گا تو پھر اپنے گناہ بتانے کے خود ریکارڈ توڑ دے گا۔ کہے گا میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے پہلے بولتا نہیں تھا اب خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ شروع کر دو کہ مشکل ہے کہ ہم لوگ اس مد میں آجائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں کے ساتھ بدلے لے گا۔ ہمارے لیے تو اتنی بات ہی بڑی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم اس مد کے بندے ہو جائیں ہمارے لیے یہی نعمت ہے۔

تو فرمایا جب دن رازوں کا امتحان لیا جائے گا فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ پس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت امتحان کو نالنے کی وَلَا ناصِرٍ اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ اس کو چھڑا سکے وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے لوٹنے والے آسمان کی۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لوٹنے کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ وہ دورہ کرتا ہے یعنی چکر لگاتا ہے۔ اور ذَاتِ الرَّجْعِ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ آسمان بار بار بارش برساتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، پھر لوٹ کر آیا پھر بارش ہوئی وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ اور قسم ہے زمین پھٹنے والی کی۔ پھٹنے کے بعد اس میں درخت اُگتے ہیں، فصلیں اُگتی ہیں، بڑیاں اُگتی ہیں، پودے پیدا ہوتے ہیں۔

فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ بے شک یہ قرآن کریم فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ قرآن جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ یہی سورت حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی تھی۔ جن کا تعلق قبیلہ بنو ازد شنوہ سے تھا۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ اسی قبیلے کی عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا جب وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ دو بچے پیدا ہوں گے۔ ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ موسیٰ تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے اور یہ تو رات اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے تھے۔ اور محمد اس لیے کہ نازل ہونے کے بعد چالیس سال تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کریں گے۔

حضرت ضماد رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ :

یہ ضماد یوانوں کا معالج تھا۔ اس کو علم ہوا کہ مسجد حرام کے متولیوں میں سے کسی کا بچہ جو یتیم ہے دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ انسانی ہمدردی کے جذبے کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضرت! از دشنوءہ فتیلے کے ضاد نامی آدمی کا نام سنا ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں۔ میں پاگلوں کا علاج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں آپ سے فیس نہیں یعنی اگرچہ میری فیس بہت زیادہ ہے۔ اس کی گفتگو سن کر آپ ﷺ مسکرائے کہ کافروں نے میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ سے چار پانچ دن کی مسافت پر رہتا ہے وہاں تک مشہور ہو گیا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہوں۔ ضاد نے کہا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان کی زبانیں ان کے منہ میں ہیں میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں وہ جانیں اور ان کام جانے۔

کہنے لگا آپ کتے کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے خطبہ مسنونہ پڑھا جو جمعہ میں آپ حضرات سنتے ہیں اور یہ سورت پڑھی۔ کیوں کہ وہ عربی تھا اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا تھا جیسے جیسے آپ ﷺ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے تھے۔ جب آپ ﷺ نے سورت مکمل کر لی تو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلط سمجھا تھا مجھے آپ مسلمان کر کے بیعت کر لیں۔ ضاد شکار کرنے کے لیے آیا تھا مگر آپ ﷺ کے حق کے جال میں ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آیا تھا کافر اور گیارضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر۔

توفر مایا بے شک یہ قرآن فیصلہ کرنے والی بات ہے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اور نہیں ہے یہ قرآن ہنسی مذاق کی بات۔ دل لگی کی بات نہیں ہے اَللّٰهُمَّ يَكْبِدُونَ كَيْدًا بے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا کہ کسی طرح قرآن کریم کے پروگرام کو مٹادیں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۴﴾ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں نہ سنو اس قرآن کو اور شور و غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔“

اور سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۶ میں ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے منصوبے بنائے کہ کسی طریقے سے دین ختم ہو جائے وَاكْبَدُ كَيْدًا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا۔ آپ کو بچانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی۔ سورت صف پارہ ۲۸ میں ہے وَاللَّهُ مَتِّمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ”اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ایمان کو، نور توحید کو، نور رسالت کو، نور نبوت کو، نور قرآن کو، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کریں۔“

فَمَقِيلُ الْكَافِرِينَ پس آپ مہلت دیں کافروں کو اَمِهْلُهُمْ رُوَيْدًا مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ عن قریب ان کو انجام کا پتا چل جائے گا۔ پھر بدر میں ان کی کیا گت بنی؟ پھر ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیسے ان کی دوڑیں لگیں۔ تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔



[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْأَعْلَى

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is in a state of depression, and that the government is unable to meet its obligations. The report also mentions the need for international assistance and the importance of maintaining law and order.

In the second part, the author discusses the political situation. It is stated that the government is weak and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the role of the military and the importance of a strong central government.

The third part of the report deals with the social and economic conditions. It is noted that the population is suffering from poverty and that there is a need for social reforms. The author also mentions the importance of education and the need for a more equitable distribution of resources.

Finally, the report concludes with a series of recommendations. It is suggested that the government should take steps to improve the economy, to strengthen the political system, and to address the social and economic needs of the population.

آیتها ۱۹ ﴿۸۷﴾ سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ ۸ ﴿۸۸﴾ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ وَالَّذِي
 قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَ عُنُقَهُمْ آخُوعَىٰ ۝
 سَقَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
 يَخْفَىٰ ۝ وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝ فَذَكَرْنَاكَ إِن تَفْعَلِ الذِّكْرَىٰ ۝
 سَيِّدًا كَرِيمًا ۝ يَخْشَىٰ ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝ الَّذِي يَصْلَى
 النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الضُّعْفِ
 الْأُولَىٰ ۝ ضَعْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

سَبِّحِ پاکیزگی بیان کر اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ اپنے بلند
 رب کے نام کی الَّذِي خَلَقَ وہ جس نے پیدا کیا فَسَوَّىٰ پھر
 برابر کیا وَالَّذِي قَدَّرَ اور وہ ذات جس نے تقدیر مقرر کی فَهَدَىٰ
 پھر راہ نمائی کی وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ اور وہ ذات جس نے چارا نکالا
 فَجَعَلَ عُنُقَهُمْ آخُوعَىٰ پھر کر دیا اس کو خشک آخُوعَىٰ سَقَّرَ لَكُمُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سَیَّدًا كَرِيمًا

بتا کید ہم آپ کو پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى پھر آپ نہ بھولیں گے
 إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر وہ جو رب چاہے إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ بے شک وہ
 جانتا ہے بلند آواز کو وَمَا يَخْفَى اور مخفی کو وَنُيَسِّرُكَ اور ہم
 آسان کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَى آسان چیز کو فَذَكِّرْ
 پس آپ نصیحت کریں إِنَّ تَفَعَّتِ الذِّكْرَى تحقیق نفع دے گی
 نصیحت سَيَذَكِّرْكَ عَنْ قَرِيبٍ قبول کرے گا مَنْ يَخْتَلِي جو ڈرتا
 ہے وَيَتَجَبَّبَهَا اور کنارہ کش رہے گا اس نصیحت سے الْأَشْقَى جو
 بڑا بد بخت ہے الَّذِي يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى وہ جو داخل ہوگا
 بڑی آگ میں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا پھر نہ مرے گا اس آگ میں وَلَا
 يَخْيَى اور نہ زندہ رہے گا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى تحقیق کامیاب
 ہو گیا جس نے باطن صاف کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور ذکر کیا اپنے
 رب کے نام کا فَصَلَى پس نماز پڑھی بَلْ تَوَثَّرُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
 حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پا ہے إِنَّ هَذَا بے شک یہی بات
 لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى پہلے صحیفوں میں درج ہے صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَى حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں اعلیٰ کا لفظ موجود ہے۔ اسی سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سات سات سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا آٹھواں آیت نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس آیت ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے تمام ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ اپنے رب کے نام کی جو بلند شان والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اَجْعَلُوها فِي سُجُودِكُمْ ”اپنے سجدوں میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ“ اور سورہ واقعہ کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا اَجْعَلُوها فِي رُكُوعِكُمْ ”اس کو تم اپنے رکوع میں کر لو یعنی رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم“ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین مرتبہ تسبیح ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے یعنی کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔

امام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ الاستاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ بڑے اونچے درجے کے فقیہ، محدث اور مجاہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ پانچ یا سات مرتبہ تسبیحات پڑھے۔ کیوں کہ مقتدیوں میں بعض کند ذہن ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام تین مرتبہ پڑھ کر کمر اٹھالے اور وہ نہ پڑھ سکیں۔ میرا عمل ان کے فتویٰ پر ہے۔ میں کم از کم پانچ مرتبہ

پڑھتا ہوں تاکہ مقتدی تین دفعہ آرام سے پڑھ لیں۔

الَّذِي خَلَقَ جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو۔ وہ ساری کائنات کا خالق ہے فَسَوَى پھر برابر کیا ہر چیز کو، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ایک ٹانگ اتنی ہی ہوتی اور دوسری اُونٹ کی طرح لمبی ہوتی، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا زبرے کی اگلی ٹانگ کے برابر لمبا ہوتا، ایک کان اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان کے برابر ہوتا، ایک آنکھ اتنی ہی ہوتی اور دوسری بھینس کی آنکھ کے برابر ہوتی۔ وہ ایسا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا وَالَّذِي قَدَّرَ اور وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی فَهَدَى پھر راہ نمائی کی کہ اس طرح تو نے ماں کی چھاتی سے خوراک چوسنی ہے۔ بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا کس نے سکھایا ہے کہ اس طرح چوسے گا تو دودھ نکلے گا جو تیری خوراک بنے گا۔

سورة البلد میں ہے وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ ”اور بتائی اس کو ہم نے دو گھاٹیاں۔“ دایاں پستان اور بائیاں پستان کہ ان میں تیری خوراک ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ادراک دشعور عطا فرمایا ہے۔ چھوٹے بچوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ میں خارش ہو تو انگلیاں نہیں مارتے الٹا ہاتھ ملتے ہیں۔ اگر آنکھ میں ناخن ماریں تو آنکھ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔

ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور و ادراک رکھا ہے :

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے وہ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے راجپوتانہ (علاقے کا نام ہے) جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں

ہندوؤں کا راج تھا بندر مارنے کی ممانعت تھی۔ وہاں بندر بڑا نقصان کرتے تھے برتن اور کپڑے تک اٹھا کر لے جاتے تھے اور سامنے بیٹھ کر کپڑے کو چیر پھاڑ دیتے تھے۔ روٹیاں اٹھا کر لے جاتے۔ غصہ بھی آتا مگر بے بس تھے مار بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے سٹکھیا خریدا اور آٹے میں ملا کر روٹیاں پکائیں اور چھت پر پھیلا دیں کہ سو پچاس کھا کر مریں گے کچھ تو کمی آئے گی۔ ہم دیکھنے بیٹھ گئے کہ بندر آتے جائیں گے کھاتے جائیں گے اور مرتے جائیں گے اور ہم خوش ہو جائیں گے۔

دو تین بندر آئے دیکھا روٹیاں پھیلی پڑی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کھاتے نہیں۔ دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چودہ پندرہ بندر آئے وہ بھی دیکھ کر چلے گئے۔ پھر دس پندرہ منٹ کے بعد پچاس ساٹھ بندروں کی قطار جو بڑے موٹے موٹے چودھری قسم کے تھے، آئے اور روٹیوں کو گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ مگر کھانے کے لیے آگے کوئی نہ بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا بندر آگے بڑھا۔ اس نے روٹی کو توڑ کر سونگھا، دوسرے نے توڑا اور سونگھا، تیسرے نے توڑا اور سونگھا اور کھائے بغیر سارے بھاگ گئے۔ گویا کہ وہ نتیجے پر پہنچ گئے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی مگر کوئی بیس منٹ گزرے تو سو دو سو بندروں کی ایک قطار آئی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی ٹہنی تھی۔ انھوں نے آ کر روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور روٹیوں کے ٹکڑے کھاتے اور اوپر سے پتے کھاتے اور دندانے ہوئے چلے گئے۔ نہ ان میں سے کوئی بے ہوش ہوا اور نہ کوئی مرا۔ وہ جڑی بوٹی زہر کا تریاق تھا۔

تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے اور زندہ رہنے کا انداز بتلایا ہے و

الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ وَأَرْسَلَهُ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۖ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ سَعِيدٌ ۖ

جہاں انسانوں کی خوراک کا انتظام کیا ہے وہاں حیوانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے، چار اپیدا کیا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى پھر کر دیا اس کو خشک سیاہ۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہ لوگ دودھ و دُن گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے نہ جانوروں کو نکال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کر جمع کر لیتے ہیں۔ وہ گھاس خشک ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو رب جانوروں کا انتظام کرتا ہے وہ انسانوں کا انتظام بدرجہ اولیٰ کرے گا۔ جسمانی خوراک کا بھی اور روحانی خوراک کا بھی۔

سَقِّرْ لَكَ فَلَاتَتَّنِي اے نبی کریم ﷺ! بتا کید ہم آپ کو پڑھائیں گے فَلَاتَتَّنِي پس آپ نہیں بھولیں گے اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیں گے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا اور جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جبرئیل علیہ السلام جو آپ ﷺ کو سنا تے تھے وہ آپ ﷺ کو یاد ہو جاتا تھا اور پھر آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فوراً سنا دیتے تھے اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے۔ تقریباً اٹھائیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تبین وحی تھے جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

فرمایا اِنَّهُ يَخْلَمُ الْجَهْرَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلند آواز کو وَمَا يَخْفَى اور اس کو بھی جانتا ہے جو مخفی ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان چیز کو۔ اس آسان سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت اور دین مراد ہے کہ یہ شریعت آسان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کو وہ اٹھانہ سکے۔ یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو

جائے گی۔

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یُسزبی سے مراد جنت ہے۔ جنت کو آسان کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں محنت، مشقت نہیں ہے تمام چیزیں وہاں تیار ملیں گی۔ دنیا میں تو انسان محنت مشقت کرتا ہے اور جنت میں کسی چیز کے لیے مشقت نہیں ہے۔

تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں پہچانے والے جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ نمازیں پڑھنی آسان ہوں گی، روزے رکھنے آسان ہوں گے، جہاد کرنا آسان ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے تو فرماتے تھکاوٹ ہو گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے نماز شروع کر دی ہے۔

آج بھی بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا علاج ہی نماز ہے۔ رکوع، سجود کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو بڑی تقویت پہنچتی ہے۔ باطنی طور پر جو ثواب ہے وہ تو ہے نماز ظاہری طور پر بھی صحت کا سبب ہے۔

فَذَكِّرْ پس آپ نصیحت کریں لوگوں کو اِنْ تَفَعَّتِ الذِّكْرَى تحقیق نفع دیتی ہے نصیحت۔ اِنْ یہاں قَدْ کے معنی میں ہے۔ (بعض حضرات اِنْ کو شرطیہ قرار دیتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کہ نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے۔) جس آدمی کا دل صاف ہو ضد اور تعصب اس میں نہ ہو اس کے لیے حق کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ پیغمبر بھی ضد کا علاج نہیں کر سکے۔

معجزہ شق القمر :

ستائیسویں پارے میں واقعہ گزر چکا ہے کہ چودھویں کا چاند تھا قریش مکہ نے کہا

کہ آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو اپنے رب کو کہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری تصدیق کے لیے ایسا کر دے تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے۔ یہ چوں کہ مشکل کام تھا سارے اس پر متفق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابوقبیس پر کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابوقبیس ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو زمین میں نصب کیا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا کہ اے مال دار لوگو! حج کے لیے آؤ۔ اسی آواز کے جواب میں حاجی لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ جبل ابوقبیس چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ اب حکومت نے اس کے نیچے سرنگیں بنا دی ہیں جن کے ذریعے گاڑیاں منیٰ جاتی ہیں۔

چاند کا دوسرا ٹکڑا کعبۃ اللہ سے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے جس کا نام قیقعان ہے اس پر چلا گیا۔ لیکن قریش مکہ نے سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ کہہ کر حق کو قبول نہیں کیا۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْتَلِي عَنْ قَرِيبٍ قَبُولِ كَرِّهِ كَانِصِحْتِ كَوْجُورَتَا هِيَ رَبُّ تَعَالَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْتَلِي وَتَجَنَّبَهَا الْأَشَقَىٰ اور کنارہ کش رہے گا نصیحت سے جو بڑا بد بخت ہے۔ بد بخت نامراد انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ بد بخت کہاں جائے گا؟ الَّذِي وَهُوَ يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ لوہے تک کو پگھلا دیتی

ہے۔ تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيِي پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ اگر اس میں مارنا مقصود ہو تو اس کا ایک جھونکا ہی کافی ہے لیکن وہاں تو سزا کے لیے ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد سزا کون بھگتے گا۔ پھر آگ میں جلنے والے کی کیا زندگی ہے۔ خود آگ میں جلنے والے، جہنم کے انچارج فرشتے مالک عليه السلام سے کہیں گے يُمْلِكُ يَبْقُضُ عَلَيْكَ ﴿الزخرف: ۷۷﴾ ”اے مالک عليه السلام! چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا رب۔“ پروردگار ہم کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھیں؟ کہیں گے آئے تھے مگر ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آگئی تھی۔ فرشتہ کہے گا بے شک تم رہنے والے ہو اسی مقام پر۔

فلاح پانے والوں کا تذکرہ :

آگے اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَاخَىٰ تَحْقِيقَ كَامِيَابٍ هُوَ كَمَا جَسَّ نَاطِنٍ صَافٍ كَرَلِيَا اَوْر
ظاہر بھی صاف کر لیا۔ باطن کی صفائی کلمہ طیبہ، ایمان کے ساتھ ہے۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر کی صفائی غسل اور وضو کے ساتھ ہے وَذَكَرَ اسْعَرَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا پس اس نے نماز پڑھی۔ یعنی اللہ اکبر! کہہ کر نماز شروع کی۔ پانچ نمازیں اور جمعہ فرض ہے۔ وتر واجب ہیں باقی نفل نمازیں ہیں۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نمازیں پڑھیں وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہیں تو اس طرح تزکیہ کرنا چاہیے تھا لیکن حال کیا ہے؟ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہو۔ شریعت کو دوسرا درجہ دیتے ہو۔ وقت ملا تو نماز پڑھ لی دل کیا تو روزہ رکھ لیا، حلال و حرام کی پروا نہیں کرتے۔

جائز طریقے سے دنیا کمانے کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے۔ لیکن ناجائز طریقے سے
 کمانا بڑی بات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے۔ حلال کو حلال
 سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھے اور حقوق العباد کو سمجھے وَالْآخِرَةُ
 خَيْرٌ وَأَبْطَغَىٰ اور آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پا ہے اِنَّ هٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَتَّبِعُ
 لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِیْ پہلے صحیفوں میں درج ہے۔ وہ کون سے صحیفے ہیں؟
 صُّحُفِ اِبْرٰهٖمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ وَاٰدَمَ اور موسیٰ ؑ کے صحیفے ہیں۔ ان
 میں بھی یہی مسئلہ درج تھا کہ آخرت بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ لہذا تم آخرت کو دنیا پر
 ترجیح دو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْعَاثِيَةِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

سنة ١٤٢٥

آیتها ۲۶ ۸۸ سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۸ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُوهُ تُومِئِدُ خَاشِعَةً ۝ عَامِلَةٌ
 تَأْصِبَةٌ ۝ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْيَّةٍ ۝ لَيْسَ
 لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝
 وَجُوهُ تُومِئِدُ تَلْعَمَةٌ ۝ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝
 لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِغِيَّةٍ ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ
 مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝ وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزَرَابِيُّ
 مَبْثُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ
 كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ
 كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
 بِمُضَيِّطٍ ۝ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ
 الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

ہل تحقیق آتک آچکی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیة
 ڈھانپ لینے والی چیز کی بات وجوہ تومئد کچھ چہرے اس دن
 خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے عاملة تاصبة محنت کرنے والے

تھکے ہوئے تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں
 کُفِي پلایا جائے گا نہیں مِنْ عَيْنِ اِنِّيَّة کھولتے ہوئے چشمے
 سے پانی لیس لَهْمٌ ظَعَامٌ نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا اِلَامِنْ
 ضَرْبِ نَمْرُكَانِے دار جھاڑی لَا يَسْمِنُ نہ وہ موٹا کرے گی وَلَا
 يُغْنِي مِنْ جُوعٍ اور نہ کفایت کرے گا بھوک سے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
 كَمَثَلِ چہرے اس دن نَّاجِيَةٌ تروتازہ ہوں گے لَسْعِيهَا اپنی کمائی
 پر رَاضِيَةٌ راضی ہوں گے فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ اونچی جنت میں داخل
 ہوں گے لَا تَسْمَعُ فِيهَا نہیں سنیں گے اس میں لَا غِيَةَ کوئی بے
 دودہ بات فِيهَا عَيْرٌ اس میں چشمے ہوں گے جَارِيَةٌ جاری
 فِيهَا سُرُرٌ اس میں کرسیاں ہوں گی مَرْفُوعَةٌ اونچی اونچی وَ اَكْوَابٌ
 گلاس ہوں گے مَوْضُوعَةٌ مناسب مقام پر رکھے ہوئے وَ نَمَارِقٌ
 اور گاؤتکے مَصْفُوفَةٌ صف بہ صف رکھے ہوں گے وَ زَرَاطُ
 اور قالینیں مَبْنُوثَةٌ بچھی ہوں گی اَفْلَايُنظُرُونَ کیا پس وہ
 دیکھتے نہیں ہیں اِلَى الْاِثْبَالِ اونٹوں کی طرف كَيْفَ خَلَقْتَ كَيْسے
 پیدا کیے گئے ہیں وَ اِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف كَيْفَ رَفَعْتَ
 کیسے بلند کیا گیا ہے وَ اِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف كَيْفَ نُصِبَتْ
 کیسے نصب کیے گئے ہیں وَ اِلَى الْاَرْضِ اور زمین کی طرف

كَيْفَ سَطَحَتْ كَيْسے بچھائی گئی ہے فَذَكِّرْ پس آپ نصیحت کریں
 اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں لَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ نہیں ہیں آپ ان پر داروغہ اِلَّا مَنْ تَوَلَّى مگر
 جس نے روگردانی کی وَكَفَرَ اور کفر کیا فَيُعَذِّبُ اللّٰهُ پس
 عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ الْعَذَابِ الْاَكْبَرَ بڑا عذاب اِنَّ
 اِلَيْنَا بے شک ہماری طرف اِيَّاہُمْ ان کا لوٹنا ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا
 پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے حِسَابُهُمْ ان کا حساب۔
 نام اور کو الف :

اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود
 ہے۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ بھی مکہ مکرمہ میں نازل
 ہوئی۔ اس سے پہلے سطر ۶۷ + سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور
 چھبیس آیتیں ہیں۔

جس طرح قیامت کا ایک نام قیامت ہے۔ ایک نام القارعہ ہے، ایک نام الحاقہ
 ہے، ایک نام واقعہ ہے، ایک نام آرزو ہے، ایک نام آخرتہ ہے۔ اسی طرح ایک نام غاشیہ
 بھی ہے۔ یہ سب نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

هَلْ اَشْكُ - هَلْ يِهَاں قَدْ کے معنی میں ہے۔ معنی ہوگا تحقیق آپکی
 تمہارے پاس حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ چھا جانے والی کی بات۔ قیامت سب کا احاطہ
 کرے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقہ میں برپا ہو اور دوسرے علاقہ میں نہ ہو۔ بعض

قوموں پر آئے اور بعض قوموں پر نہ آئے۔ بلکہ وہ سب پر چھا جائے گی۔ تو فرمایا اے نبی کریم ﷺ! تحقیق آپ کی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی کی بات **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ** کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے شرم اور ندامت سے **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔

بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ کافر لوگ دنیا میں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے کیوں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط: ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔

دوسری شرط: اخلاص ہے۔ یعنی نیکی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا اور دکھاوانہ ہو۔

تیسری شرط: اتباع سنت ہے۔ جو کام کرے سنت کی پیروی میں کرے۔ اگر اپنی طرف سے گھڑے گا گناہ ہوگا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی محفوظ ہوگی۔ لیکن ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، بدھ مت والے، یہودی، عیسائی اپنے اپنے طرز و طریقے پر عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں مگر ان کے یہ سارے اعمال اور تکلیفیں اٹھانا بے کار ہیں۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد وہ آپ ﷺ پر ایمان نہیں لائے۔ لہذا ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں چلیں گے تو بڑی مشکل سے چلیں گے۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں

میں بیڑیاں ہوں گی اور دور دراز سے چل کر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں پہنچیں گے تو محنت اٹھائے ہوئے تھکے ماندے ہوں گے بخلاف مومنوں کے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں مزید قوت پیدا کر دے گا۔ وہ خوشی خوشی پہنچیں گے۔ کافر تھکے ماندے ہوں گے **تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً** داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں **تُسْفَى مِنْ عَيْنِ آيَةٍ** پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی۔ جیسے ہانڈی کے نیچے تیز آگ ہو تو پانی کھولتا ہے اس طرح کا ابلتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا کہ ہونٹوں کو لگے گا تو **يَشْوِي الْوُجُوهُ** ہونٹ جل جائیں گے۔

يَتَجَرَّعُهُ ﴿سورۃ ابراہیم﴾ "ایک ایک گھونٹ کر کے نیچے اتاریں گے۔" پیٹ میں پہنچے گا تو انتڑیوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے نکال دے گا۔ پھر وہ انتڑیاں ان کے منہ میں ڈال کر پیٹ میں پہنچائی جائیں گی اور یہی قصہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا **إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ** مگر کانٹے دار جھاڑی جو بڑی کڑوی ہوتی ہے جانور اس کو سونگھ کر چھوڑ دیتے ہیں کھاتے نہیں۔ اور **شَجَرَاتُ الزُّقُوْمِ** تھوہر کا درخت بھی دوزخیوں کی خوراک ہے۔ سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے ورنہ آخرت کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے **لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ** نہ وہ موٹا کرے گا جسم کو اور نہ وہ بھوک سے کفایت کرے گا۔ خوراک آدمی اسی لیے کھاتا ہے کہ بھوک ختم ہو جائے اور جسم موٹا اور مضبوط ہو جائے۔ جہنم کی خوراک یہ دونوں کام نہیں کرے گی۔ بھوک کے غلبے کی وجہ سے مجبوراً کھائیں گے۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا اب ان کے بد مقابل فرماں برداروں کا ذکر ہے، نیکوں کا ذکر ہے **وَجُوْهُ يَوْمَ مَبِيْدًا عَمِيَّةً** کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ، ہشاش

بشاش ہوں گے، سفید ہوں گے لَسْعِيهَا رَاضِيَةً اپنی کوشش پر راضی ہوں گے کہ ایمان لائے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش ہوں گے کہ ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ اونچی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت درجے کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور حسی اعتبار سے بھی بلند ہے۔ جنت کا محل وقوع بلند ہے لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِاَغْيَةٍ نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بے ہودہ بات۔ گالی نہیں سنیں گے، جھوٹ نہیں سنیں گے، نسبت نہیں سنیں گے، کسی قسم کی دل آزاری کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت دار السلام ہے وہاں امن اور سلامتی ہے فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ جنت میں چشمے جاری ہوں گے۔ کوثر کا، سلسبیل کا، کافور کا، زنجبیل کا، صاف پانی کا۔ مختلف قسم کے چشمے جاری ہوں گے۔

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ۔ سُرُرٌ سَرِيْرٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کرسی۔ جنت میں اونچی کرسیاں ہوں گی ان پر بیٹھے ہوں گے جدھر کا ارادہ کریں گے کرسیاں اُدھر گھوم جائیں گی۔ کرسیاں ارادے کے تابع ہوں گی وَ اَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ۔ اَكْوَابٌ كُؤُبٌ کی جمع ہے۔ ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہو۔ گلاس بھی ہو سکتا ہے، پیالہ بھی ہو سکتا ہے۔ گلاس اور پیالے ہوں گے مناسب جگہ پر رکھے ہوئے۔ جب کسی کو پیاس لگے گی پیالہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہر جگہ موجود ہوں گے

وَنَمَارِقٌ مَّضْفُوفَةٌ۔ نَمَارِقٌ مَمْرُوقَةٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے گاؤ تکیہ جس کے ساتھ آدمی ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے۔ معنی ہوگا وہاں تکیے ہوں گے صف بہ صف رکھے ہوئے وَ زَرَائِبٌ مَبْنُوثَةٌ۔ یہ زَرْبِيَّةٌ کی جمع ہے۔ زربیہ کا معنی ہے قالین۔ معنی ہوگا قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی جنتی گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، کوئی کرسی

پر اور کوئی قالین پر بیٹھا ہوگا۔ ہر ایک کے دل کی مراد پوری ہوگی۔

عرب کا علاقہ ریتلا اور پہاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کے لیے اونٹ پیدا فرمایا۔ اونٹ کا پاؤں ریت میں دھنستا نہیں ہے کہ چوڑا ہوتا ہے۔ انسان کا قدم ریت میں دھنس جاتا ہے۔ اونٹ جفاکش جانور ہے اور قدم بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ وہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے تھے۔ اوپر آسمان اور نیچے زمین نظر آتی تھی۔

(فقیر وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے اس کو اس طرح بیان فرمایا تھا کہ پہلے ان کی نگاہ اونٹ پر پڑتی تھی۔ اونٹ پر بیٹھنے کے بعد نگاہ اٹھاتے تو آسمان پر پڑتی۔ آسمان سے نیچے دیکھتے تو نگاہ پہاڑوں پر پڑتی پہاڑوں سے بھتی تو زمین پر پڑتی۔ مرتب)

اللہ تعالیٰ نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَمَا
پس وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف كَيْفَ خُلِقَتْ كَيْسے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کا
قد دیکھو، ان کا بدن دیکھو، ٹانگیں دیکھو، گردن دیکھو وَالسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ
اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ پہلے سے لے کر ساتویں تک۔ جس کو
پہلے آسمان کا یقین ہے وہ باقیوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ دنیا میں منکر بھی موجود ہیں۔

فیثا غورث ایک یونانی حکیم گزرا ہے وہ آسمان کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ نیلگوں چیز
جو نظر آتی ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری حد نظر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
ایسے باطل لوگوں کا رد فرمایا ہے کہ ایک آسمان نہیں سات آسمان ہیں۔

فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا تَوَلَّىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا وَجْهًا
اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے

نصب کیے گئے ہیں۔ سورت نبا میں گزر چکا ہے **وَإِن جِبَالًا أَوْ تَأَادَا** ”پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیل بنایا ہے اور زمین میں ٹھونک دیا ہے۔“ **وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ** اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے **فَذَكِّرْ** پس آپ نصیحت کریں **إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ** بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔

دیانند سرسوتی کا اعتراض اور دیوبندی عالم کا بصیرت افروز جواب :

انگریز کا زمانہ تھا۔ آریہ سماج کا ایک منہ پھٹ لیڈر تھا دیانند سرسوتی۔ یہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بڑی تقریریں کرتا تھا۔ ایک طرف پادری اسلام کی تردید کرتے تھے اور ایک طرف یہ کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ”ستیا رتھ پرکاش“ بڑی نایاب کتاب ہے مگر میرے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھواں باب اس منحوس نے قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے وقف کیا ہے۔ اور الحمد للہ سے لے کر والناس تک اعتراضات کیے ہیں۔ یہاں اس مقام پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے نصیحت کرنے والے کے ساتھ اونٹوں کا کیا ربط ہے، آسمان کا کیا ربط ہے، زمین کا کیا جوڑ؟ کہ ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَذَكِّرْ** آپ نصیحت کریں۔ کہتا ہے کہ یہ کتاب کسی جاہل بدو نے لکھی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔

ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ دین کی بڑی سمجھ دی تھی۔ قرآن پاک کی روح کو، حدیث پاک کی روح کو اور فقہ اسلامی کی روح کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی نعیم احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ منڈی بہاؤ الدین میں مسجد کے خطیب تھے۔ پھر فیصل آباد چلے گئے تھے اور پیپلز کالونی کی بڑی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے تھے۔ وہ شاعر مزاج بھی تھے۔

ایک موقع پر انھوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور میرے مہاجر بھائیو!

زمیں بدلی زماں بدلا مکین بدلے مکاں بدلا
 نہ تو بدلا نہ میں بدلا پھر بدلا تو کیا بدلا
 حضرت کے سامنے کسی نے اسی اعتراض کا ذکر کیا کہ دیا نند سرسوتی نے یہ اعتراض کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ان چیزوں کا مذکر مبلغ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مبلغ کو جفا کشی میں اونٹ کی طرح ہونا چاہیے، اخلاق میں آسمان کی طرح بلند ہونا چاہیے، اپنے عقیدے اور نظریے میں پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونا چاہیے لوٹنے کی طرح گھومے نہ۔ اور تواضع ایسی ہو جیسے زمین بچھی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کا مذکر نصیحت کرنے والے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔

فرمایا بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ
 نہیں ہیں آپ ان پر داروغہ کہ جبراً ان سے منوائیں اِلَّا مَن تَوَلَّى وَكُفِّرَ مگر
 جس نے اعراض کیا ایمان سے اور رب تعالیٰ کے حکموں کا انکار کیا فَيُعَذِّبُهُ اللهُ
 الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ پس اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا بڑی سزا۔ اور بندو! کان لگا کر سن لو
 اِنَّ الْبِنَاءَ اِيَابَهُمْ بے شک ہماری طرف ہی ان لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے اور کوئی اور
 جگہ نہیں ہے جہاں جائیں گے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ہمارے ذمہ
 ہے ان کا حساب۔ ہم ان سے رتی رتی کا حساب لیں گے لہذا اب وقت ہے آخرت کی
 تیاری کرو۔



[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page. No specific words or phrases can be discerned.]


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْفَجْرِ

(تكميل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۳۰ ﴿۱۰﴾ سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۰ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ﴿۱﴾
 وَكَيَالٍ عَشِيرٍ ﴿۲﴾ وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿۳﴾ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرَ ﴿۴﴾
 هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ﴿۵﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿۶﴾
 إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿۷﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿۸﴾ وَثَمُودَ
 الَّذِينَ جَاءُوا الضَّمْرَةَ بِالوَادِ ﴿۹﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ
 طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۱﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿۱۲﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
 سَوْطَ عَذَابٍ ﴿۱۳﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمُرْصَادِ ﴿۱۴﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا
 ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿۱۵﴾ وَأَمَّا
 إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿۱۶﴾

وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی وَاَلْيَالٍ عَشِيرٍ اور قسم ہے دس راتوں کی
 وَالسَّفْعِ اور قسم ہے جفت کی وَالْوَتْرِ اور قسم ہے طاق کی وَالنَّيْلِ
 إِذَا يَسْرٍ اور قسم ہے رات کی جب جانے لگے هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ
 تحقیق ان چیزوں میں قسم ہے لِذِي حَجْرِ عقل والے کے لیے اَلَمْ
 تَرَ کیا آپ نے نہیں دیکھا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا کیا آپ کے
 رب نے بِعَادٍ عَاد قوم کے ساتھ إِرْمَ جوارم تھے ذَاتِ الْعِمَادِ

بڑے بڑے ستونوں والے اَلَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ وہ عباد کہ
 نہیں پیدا کیے ان جیسے شہروں میں وَثَمُودَ اور نہیں دیکھا شمود قوم کو
 الَّذِينَ وَهْ شَمُودَ قَوْمَ جَابُوا الصَّخْرَ جنھوں نے تراشا چٹانوں کو
 بِالْوَادِ وادی میں وَفِرْعَوْنَ اور فرعون کو نہیں دیکھا ذِي الْاَوْتَادِ مینجوں
 وَاللَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ جنھوں نے سرکشی کی شہروں میں
 فَكَثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ پس بہت زیادہ کیا انھوں نے ان شہروں میں فساد
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ پس پھینکا ان پر آپ کے رب نے سَوْطَ عَذَابٍ
 عذاب کا کوڑا اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب لِبِالْمُرْصَادِ گھات
 میں ہے فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس بہر حال انسان اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
 جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب فَاصْرَمَهُ پس اس کو عزت دیتا ہے
 وَنَعَّمَهُ اور اس کو نعمت دیتا ہے فَيَقُولُ تو کہتا ہے رَبِّيْ اَكْرَمٰنِ
 میرے رب نے میری عزت کی ہے وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور بہر حال جب
 اس کو آزماتا ہے فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق
 فَيَقُولُ تو کہتا ہے رَبِّيْ اَهَانٌ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔
 نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں فجر کا لفظ موجود ہے۔ اسی
 لفظ سے اس سورت کا نام فجر ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے

نو ۹۰ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا دسواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور تیس
۳۰ آیتیں ہیں۔

وَالْفَجْرِ كِتَابِ تَفْسِيرِ :

وَالْفَجْرِ میں واو قسمیہ ہے۔ معنی ہوگا قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟
مفسرین کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد چھوٹی عید کی فجر
ہے۔ چونکہ رمضان شریف کے روزے ختم ہوئے ہیں اور رمضان شریف میں بڑی
عبادت کی ہوتی ہے اس کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی
ہے۔ لہذا فجر سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ فجر سے مراد دسویں ذوالحجہ کی فجر ہے۔ بڑی عید کی فجر
مراد ہے۔ دسویں ذوالحجہ کو حاجی قربانی کرتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی لوگ قربانی
کرتے ہیں۔ یہ دن بھی بڑی برکت والا ہے لہذا اس کی فجر مراد ہے۔

تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کی فجر مراد ہے کہ نویں تاریخ کو لوگ
عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کے فرائض اور ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ لہذا
عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ ہر فجر مراد ہے کہ یہ نورانی وقت ہوتا
ہے لہذا اس وقت کی قسم ہے **وَلَيَالٍ عَشْرٍ** اور قسم ہے دس راتوں کی۔ اس سے کون سی
راتیں مراد ہیں؟

ایک تفسیر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتیں مراد ہیں جن میں لیلۃ
القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے **إِلْتِمِسُوهَا فِي عَشْرِ الْآخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ** ”رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔“

توان دس راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر دس ذوالحجہ کی دس راتیں مراد ہیں۔ ان راتوں میں حج کے احکام ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، منیٰ، عرفات، مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ گویا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں۔

تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ محرم کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں۔ کیوں کہ سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔

وَالشَّفْعِ اور قسم ہے جفت کی وَالْوَثْرِ اور قسم ہے طاق کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جفت، طاق سے نمازیں مراد ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں جفت ہیں مغرب اور وتر طاق ہیں۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں کہ مخلوق میں نزہی ہیں، مادہ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بڑے قد کے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں۔ آسمان بلندی پر ہے اور زمین پستی پر ہے، رات ہے، دن ہے۔ یہ سب جفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدۃ لا شریک لہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسِرُ اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ رات تاریک ہوتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ رات سے معراج والی رات مراد ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ”پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت۔“ وہ رات بھی بڑی برکت والی راتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد

اقصىٰ سے پہلا، دوسرا آسمان اور سدرۃ المنتہیٰ تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا بیداری کی حالت میں سیر کرائی۔ اور اسی رات پانچ نمازوں کا تحفہ بھی دیا۔

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ يٰۤهٰٓؤُنَا هَلْ قَدْ كُنَّا فِيْ سَفٰٓهٍ مِّنْ قَبْلٍ مَّا نَسْتَدْعِيْكَ بِذٰلِكَ نَحْمَدُكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْغٰٔيْبُ

میں قسم ہے لَیْذِیٰ حِجْرِ عَقْل مندوں کے لیے۔ جو اب قسم محذوف ہے۔ وہ ہے لَتُعَذِّبُنَّ يَا اَهْلَ (كُفَّار) مَكَّةَ ”تمہیں ضرور سزا دی جائے گی اے مکے والو!“ جو رب ان چیزوں کے قائم کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں اٹھا بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِیَّکَ رُویت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا اور ایک رویت ہوتی ہے دل سے دیکھنا۔

مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہاں رویت قلبی مراد ہے یعنی جاننا۔ تو اَلَمْ تَرَ اَلَمْ تَعْلَمَ کے معنی میں ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے بتلانے کے ساتھ۔ کیوں کہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔

قوم عاد :

تو فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے كَيْفَ فَعَلَتْ رَبُّكَ بِعَادٍ کیا کیا آپ کے رب نے عاد قوم کے ساتھ۔ اِرَامَ جو ارم کی نسل سے تھی، عاد بن ارم بن سام بن نوح۔ عاد نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ اس سے آگے اتنی نسل چلی کہ مستقل خاندان بنے۔ یہ بڑے قد آور اور صحت مند تھے ذَاتِ الْعِمَادِ بڑے بڑے ستونوں والے۔ ان کے قد بڑے لمبے تھے اور اپنے قد کے مطابق انھوں نے

مکان بنائے ہوئے تھے۔ مکانوں کے ستون بڑے بڑے ہوتے تھے اَلَّتِي لَمْ
يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ وہ عاقوم کہ نہیں پیدا کئے گئے ان جیسے شہروں میں۔ ایسے قدم
آور اور صحت مند لوگ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اور طاقت ور اور مضبوط
تموں والے تھے کہ کسی آدمی کی کھوپڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو بھیجا نکال دیتے تھے، اس
نی پسلیاں توڑ دیتے تھے۔

سورۃ الشعرا آیت نمبر ۳۰ میں ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ” اور
جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو گرفت کرتے ہو ظلم کے ساتھ۔“ دوسری قوموں کو لاکارتے
ہوئے کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مَثَاقِفَةً ” تم سجدہ: ۱۵“ ” کون ہے ہم سے زیادہ طاقت
والا۔“

ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے
تھے۔ جغرافیہ دان احقاف کے علاقے کی تعیین اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف نجران
اور دوسری طرف عمان ہے۔ تیسری طرف حضرموت اور چوتھی طرف بحرین ہے۔ ان
کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ احقاف ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ حقف کا
معنی ریت کا ٹیلا ہے۔ اس علاقے میں ریت کے ٹیلے تھے اس لیے اس کو احقاف کہتے
ہیں۔

ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے باقی کسی نے تسلیم نہیں
کیا۔ یہ بارانی اور خشک علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سزا دی کہ بارش روک لی
نہری علاقوں اور چشموں والے علاقوں میں بھی بارش نہ ہو تو اثر پڑتا ہے۔ اور بارانی
علاقوں میں بارش نہ ہو تو ان لوگوں کا بُرا حال ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ درخت خشک ہو

گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، پانی کی تنگی کی وجہ سے لوگ دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم پر لگاتار بارش برسائے گا تمہارے حالات سدھر جائیں گے۔ قوم نے کہا کہ اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

سورہ احقاف میں ہے کہ ان کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے **هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا** ”یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔“ ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا جب قریب آیا تو اس سے آواز آئی:

رِمَادًا لَا تَنْدُرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

”عاد قوم کو خاک کر دے ان میں سے کسی ایک کو لوند چھوڑ۔“ یہ آواز انھوں نے اپنے کانوں سے سنی مگر توبہ نہیں کی اور اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آئے۔ پھر ان بادلوں سے تند و تیز ہوا نکلی کہ ایک ہزار میل فی گھنٹہ کہو تو بھی کم ہے۔ ان بڑے بڑے قد والوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک کر مار دیا **كَأَنَّهُمْ أَنْجَازٌ مِّنْ خَاوِيَةٍ** ﴿سورۃ الحاقۃ: پارہ ۲۹﴾ ”گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکھاڑ کے پھینک دیئے گئے ہیں۔“ اور سورۃ الذاریات آیت نمبر ۲۲ پارہ ۲۷ میں ہے **مَا تَنْدُرُ مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْزَمِيمِ** ”نہیں چھوڑتی تھی وہ ہو کسی چیز کو جس پر وہ چلتی تھی مگر کر دیتی تھی اس کو چورا چورا۔“

تو فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کیا کیا آپ کے رب نے عاد قوم کے ساتھ جو ارم کی

نسل سے تھے لے لے ستونوں والے کہ نہیں پیدا کیے ان جیسے شہروں میں وَثْمُودَ اور نہیں دیکھا آپ نے قوم ثمود کو، آپ کے علم میں نہیں ہے الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ صَخْرَةً کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے چٹان۔ اور صَخْرَ کا معنی ہے چٹانیں۔ معنی ہوگا وہ ثمود قوم جنہوں نے تراشا چٹانوں کو بِالْوَادِ وادی القرئی میں۔ اس علاقے کو حجر کہتے ہیں۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے چٹانیں تراش تراش کے مکان بنائے تھے تاکہ نکلنے کی وجہ سے گریں نہ۔ بڑی بڑی چٹانیں تھیں ان میں پورا پورا مکان بن جاتا تھا۔ سونے کا کمرہ، مہمان خانہ، باورچی خانہ، ناچ گھر۔ ایک ایک مکان پر سو سو سال لگ جاتے تھے۔

ہمارے شاگرد فاضل نصرۃ العلوم مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ پرنسپل سے اجازت لے کر حجر کے علاقے میں گئے۔ قریب پہنچے تو وہاں چرواہے ملے، کچھ بوڑھے، کچھ جوان۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حجر کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لَا تَذْهَبُوا ”نہ جاؤ خدا کا عذاب آجائے گا۔“ خیر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا دو سو کے قریب چٹانوں میں کمرے بنے ہوئے تھے مگر بننے والا کوئی نہیں تھا۔ قوم ثمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ مسلط کی جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور ختم ہو گئے مگر صالح ؑ کی بات نہیں مانی۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ - أَوْتَادٍ کی جمع ہے۔ وتد کے معنی ہیں میخ۔ معنی ہوگا فرعون کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ جب سزا دیتا تھا تو ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ آدمی مل نہ سکے۔ لوگوں میں مشہور تھا وہ بادشاہ جو بدن میں میخیں ٹھونک دیتا ہے۔

اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ اس کے خیموں کی میخیں سونے کی ہوتی تھیں الَّذِينَ
 ظَفَّوْا فِي الْبِلَادِ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَأَكْثَرُوا فِيهَا
 الْفَسَادَ پس بہت زیادہ کیا ان شہروں میں انہوں نے فساد۔ قوم عاد نے بھی اور قوم ثمود
 نے بھی اور ظالم فرعون نے تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے بارہ ہزار بچے قتل کرائے اور نوے
 ہزار حمل گرائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس سے خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے
 گھر پال کر دکھایا۔ فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ پس پھینکا ان پر آپ
 کے رب نے عذاب کا کوڑا (تازیانہ عبرت تیرے رب نے ان کو لگایا)۔ کسی پر ہوا مسلط
 کی، کسی پر زلزلہ، کسی پر چیخ اور فرعونوں کو رب تعالیٰ نے بحرِ قلزم میں ڈبو دیا إِنَّ رَبَّكَ
 لَبَالِغٌ مِّنْ صَادٍ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، نگرانی میں ہے۔ مرصاد اس
 جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر آدمی اپنے دشمن کی نگرانی کرتا ہے کہ یہاں سے گزرے گا تو
 میں حملہ کروں گا۔ تو معنی ہو گا تمہارا رب نگرانی میں لگا ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ پس بہر حال انسان إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جَبَّ أَسْمَاءُ
 اس کو اس کا رب فَأَكْرَمَهُ پس اس کو عزت دیتا ہے وَنَعَّمَهُ اور اس کو نعمت
 دیتا ہے۔ مال دیا، اولاد دی، منصب اور عہدہ دیا تو بڑا خوش ہوتا ہے فَيَقُولُ رَبِّيَ
 أَكْرَمَنِ تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ وہ مال و دولت کو عزت
 سمجھتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ مال و دولت دے کر بھی آزما تا ہے اور لے کر بھی آزما تا
 ہے۔

مال و دولت اگر فی نفسہ عزت والی چیز ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ حضرت محمد
 رسول اللہ ﷺ کو ملتی۔ کیوں کہ مخلوق میں آپ ﷺ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں

ہے۔ لیکن بارہا تم سن چکے ہو کہ آپ ﷺ پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ دو دو مہینے آپ ﷺ کے گھر چولہا نہیں جلا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دقل کھجوریں بھی ہمیں سیر ہو کر دو دن نہیں ملیں۔ دقل کھجور بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے دانتوں والا اس کو چبا سکتا ہے دوسرا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت سے عزت ملتی ہے۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَاثْبَغَ وَجْهَهُ مِنَ الْهَوانِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
میرے رب نے میری توہین کر دی ہے۔ یعنی مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق کی کمی میں ذلت ہے اور فراوانی میں عزت ہے۔ لیکن اس کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کیوں کہ مال و دولت کی فراوانی عزت ہوتی تو فرعون و قارون سب سے زیادہ عزت والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا تقویٰ زیادہ ہو گا وہ عزت والا ہو گا۔ إِنَّ آخِرَ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ ﴿۲۶﴾ ”بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔“

ہاں! کسی کو اگر ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی مل جائے تو نور علی نور ہے۔ محض دولت کوئی شے نہیں ہے۔ مومن ہے، حلال طیب طریقے سے کماتا ہے، رب تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے، عشر ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔



کَلَّا

بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝
 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝ كَلَّا
 إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝
 وَجِئْنَا بِیَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ
 الذِّكْرَىٰ ۝ يَقُولُ يَلْبِئْسَ الَّذِي كُنْتُ لِعِبَادَتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ
 عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ
 الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي
 فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۝

کَلَّا خبردار بل لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ بلکہ تم عزت نہیں
 کرتے یتیم کی وَلَا تَحْضُونَ اوز نہیں ابھارتے تم علیٰ طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ مسکین کے کھانے پر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ • اور کھاتے ہو تم
 وراثت آکلا کھاجانا لَمًّا سمیٹ کر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور محبت
 کرتے ہو تم مال کے ساتھ حُبًّا جَمًّا بہت زیادہ محبت کَلَّا
 خبردار إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو دَكًّا دَكًّا
 کوٹا جانا وَجَاءَ رَبُّكَ اور آئے گا تیرا رب وَالْمَلَكُ اور فرشتے
 صَفًّا صَفًّا صف بہ صف وَجِئْنَا بِیَوْمَئِذٍ اور لایا جائے گا اس دن

بِجَهَنَّمَ جَهَنَّمَ کو یَوْمِئِذٍ اس دن يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ یاد کرے گا
 انسان وَاٰلِ لِهَ الذِّكْرٰی اور کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا يَقُوْلُ
 کہے گا يٰلَيْتَنِي ہائے افسوس مجھ پر قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کچھ آگے بھیجا
 ہوتا زندگی میں . فَيَوْمِئِذٍ پس اس دن لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ
 نہیں سزا دے گا رب جیسی سزا کوئی وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ اور نہیں
 جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنا يٰاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اے اطمینان
 والے نفس اِزْجِعِيْ اِلَى رَبِّكِ لوٹ آ اپنے رب کی طرف رَاضِيَةً تم
 اس سے راضی مَرْضِيَّةً وہ تجھ سے راضی فَاَدْخُلِيْ فِيْ عِبْدِيْ
 پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ اور داخل ہو جاؤ
 میری جنت میں۔

اکثر مقامات پر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا ذکر کیا
 ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ملک اور کوئی علاقہ ان کوتاہیوں سے خالی ہو۔

فرمایا كَلَّا خَبِرْدَار! كَلَّا کا معنی خبردار بھی ہے اور حَقًّا بھی ہے۔ یعنی
 کئی بات ہے بَلْ لَا تُكْفِرُ مَوْتُ الْيَتِيْمِ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کی خبر
 گیری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تمہارے عزیزوں، رشتہ داروں میں،
 محلے والوں میں سے، ملک والوں میں سے کوئی یتیم ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی
 کرنا، اس کی ضروریات پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے مگر تم پوری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ
 تمہارے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عناد نہیں

ہے۔

دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ تم یتیم کا حصہ بھی خود کھا جاتے ہو۔ اس کا حصہ دیانت داری کے ساتھ اس کو نہیں دیتے۔ اس کا حق مار لیتے ہو۔ تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھو! بوسنیا، چیچنیا کو ظالموں نے تباہ کیا، خون کی ہولی کھیلی، بچے یتیم ہوئے۔ ان یتیم بچوں کے بارے میں مسلم تنظیموں نے اعلان کیا کہ ان کی کوئی تربیت کرے۔ مسلمان حکومتوں نے صرف شلغموں سے مٹی جھاڑی اور خاص انتظام نہ کیا۔ کافی تعداد میں بچوں کو انگریز لے گیا۔ وہ ان کو انگریز ہی بنائے گا۔ حالانکہ یہ مسلمان حکومتوں کا فریضہ تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں یتیم بچے تھے۔ بعض مدارس نے کچھ انتظام کیا۔ مثلاً: اکوزہ خٹک میں ہزار بارہ سو بچوں کا انتظام کیا گیا۔ دو چار اور مدرسے ہیں جنہوں نے کچھ بچے لیے۔ اکثر بچوں کو انگریز لے گیا حالانکہ وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔

تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار! بلکہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کا حق نہیں دیتے۔ ایک کوتاہی یہ ہے۔

دوسری کوتاہی: **وَلَا تَحْضُوا عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ** اور نہیں ابھارتے نہیں ترغیب دیتے تم مسکین کے کھانے پر۔ رب تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ، لباس کا انتظام کرو، اس کی ضروریات پوری کرو اور اگر خود توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو آمادہ کرو کہ یہ مسکین ہے اس کا خیال رکھو۔ خیال رکھنے والے ہیں مگر نسبتاً بہت کم ہیں۔ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا۔

تیسری کوتاہی: **وَتَأْكُلُونَ الشَّرَائِطَ أَكْلًا لَّمَّا** اور کھا جاتے ہو تم وراثت کو کھا جانا سمیٹ کر۔ اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حصہ بھی کھا جاتے ہو۔ بہنوں کو

حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ انگریز کے زمانے میں جوزمینیں تقسیم ہوئی ہیں وہ بالکل غلط ہوئی ہیں۔ متحدہ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اور چار پانچ صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس وقت کے علماء نے وراثت کے متعلق تحریک چلائی کہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ انگریز بڑا چالاک اور نباض تھا۔ اس کو علم تھا کہ نوابوں نے شرعی تقسیم کو قبول نہیں کرنا۔ اس نے سوال نامہ جاری کیا کہ حکومت کے پاس یہ مطالبہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو۔ تم لوگ اپنی رائے دو۔ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں شرعی وراثت کا قاعدہ منظور نہیں ہے۔ بلوچستان، سرحد، بنگلہ دیش نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔

تو اس غلط تقسیم کے تحت جوزمینیں لوگوں کے پاس جدی پستی آرہی ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً سرخرو نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں تو اوپر سے وراثت میں ملی ہیں۔ یاد رکھنا! وراثت ایک ایسی چیز ہے جو پوتا پڑپوتا نیچے تک جاتی ہے قیامت تک جس کا حق ہے وہ اسی کا حق ہے۔ اوپر والے مر گئے ان کا جو حق بنتا تھا ان کے پوتے پڑپوتے جو بھی اس وقت موجود ہیں ان کے حوالے کر دورنہ عند اللہ گرفت ہوگی اور کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔

تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میراث کھا جاتے ہو سمیٹ کر نہ بہنوں کا حق دیتے ہونہ پھو پھویوں کا نہ بیٹیوں کا حق دیتے ہو۔

چوتھی کوتاہی: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت

زیادہ۔ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ جائز طریقے سے مال آئے تو برا نہیں ہے۔ لیکن حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے گا تو وبال ہے۔ اور آج یہ تمیز بالکل اٹھ گئی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چار کوتاہیاں بیان فرمائی ہیں اور یہ اکثر ملکوں اور علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔

فرمایا كَلَّا خَبِرَدَار! اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا کوٹ دیا جانا۔ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ تمام پہاڑ اٹھادیئے جائیں گے، گڑھے پڑ کر دیئے جائیں گے لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا ﴿ط: ۱۰۷﴾ ”اور نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیلا۔“ زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی اور نہ کوئی موڑ ہوگا صَفْصَفًا بالکل ہموار ہوگی۔ وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلِكُ صَفًّا صَفًّا اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بہ صف۔ رب تعالیٰ کے آنے کے بارے میں ایک مسلک متقدمین کا ہے اور ایک متاخرین کا ہے۔ تیسری صدی تک کے محدثین اور فقہاء متقدمین کہلاتے ہیں۔ اور تیسری صدی سے بعد کے جو فقہاء اور محدثین ہیں وہ متاخرین کہلاتے ہیں۔

متقدمین کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آئے گا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور عدالت کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے۔ مثلاً: قرآن کریم میں ہے الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ”رحمن عرش پر مستوی ہے۔“ کیسے ہے؟ ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ میں مصلے پر بیٹھا ہوں آپ حضرات دریوں پر بیٹھے ہیں، کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اس کی شان کے لائق ہے بیٹھا ہے۔ اسی طرح آنا جو اس کی شان کے لائق ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے اور نہ سمجھنے کے پابند ہیں۔

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیاں ہمارے احاطہ علم سے باہر ہیں۔

اور متاخرین فرماتے ہیں کہ **وَجَاءَ رَبُّكَ** سے مراد **جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ** ہے۔ یعنی آپ کے رب کا حکم آئے گا۔ جیسے استوی علی العرش سے مراد حکمرانی لیتے ہیں۔

یعنی عرش پر بیٹھنے کا مطلب ہے کنزول کہ کائنات کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور اس پر حکمرانی بھی خود کرتا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات میں سے ایک رتی بھی کسی کو نہیں دی۔

سارے رب تعالیٰ کے محتاج ہیں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿فاطر: ۱۵﴾** ”اے لوگو! تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریفوں والا ہے۔“

تو یہ حضرات حقیقت پر محمول نہیں کرتے بلکہ نتیجہ اور پھل مراد لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ماننا کہ رب تعالیٰ عرش پر مستوی

ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴿الحديد: ۴﴾** ”اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔“ اور سورۃ ق پارہ ۲۶ میں ہے

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ”اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے۔“ یعنی شاہ رگ سے جسے رگ جان کہتے ہیں۔ جو دماغ سے دل تک پہنچتی

ہے۔ اور سورت واقعہ میں ہے **وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ** ”لیکن تم نہیں دیکھتے۔“ رب تعالیٰ کی ذات اس جہان میں نظر نہیں آتی۔ ہاں! قدرتوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ زمین

دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، پہاڑ دیکھو، حیوان دیکھو!

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

”اور ہر شے میں اس کے لیے دلیل ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔“

تو فرمایا آئے گا آپ کا رب جو اس کی شان کے لائق ہے اور فرشتے صف بہ صف
 وَجِئَتْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو۔ ستر ہزار فرشتے جہنم کو بھیج
 کر رب تعالیٰ کے سامنے عدالت میں پیش کریں گے تاکہ سب اس کا منظر دیکھ لیں۔
 سورة الشعراء آیت نمبر ۹۱ میں ہے وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ اور ظاہر کر
 دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ اور مومنوں کے سامنے جنت کا نظارہ ہوگا
 وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو پرہیزگاروں کے
 لیے۔

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ اس دن یاد کرے گا انسان اپنی کوتاہیوں کو
 وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَى اور کہاں فائدہ دے گا اس کو یاد کرنا۔ اس دن کوتاہیاں، کمیاں یاد
 آئیں گی لیکن کیا فائدہ؟

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

اب ندامت، شرمندگی، پشیمانی ہی پشیمانی ہے۔ يَقُولُ کہے گا انسان يَلَيْتَنِي
 ہائے افسوس مجھ پر قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کچھ آگے بھیجتا زندگی میں۔ میں اپنی اس
 زندگی کے لیے کچھ نیکیاں بھیج دیتا۔ اب تو واویلے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

سورة الفرقان آیت نمبر ۲۷ میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور
 جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو۔ پھر ان کے پیچھے بھاگے گا جن مذہبی پیشواؤں اور
 سیاسی لیڈروں نے گمراہ کیا تھا۔ اور کہے گا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
 الشَّيْطَانَا ﴿الاحزاب: ۶۷﴾ بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے
 بڑوں کی پس انھوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اے پروردگار! ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر

لعنت بھیج بڑی لعنت۔ ”رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ دنیا میں تمہیں میلا کچیلانوٹ کوئی پکڑائے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہو بھائی! اس کو بدل دو۔ اتنی سمجھ تو ہے بندے کو کہ کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوا نوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور گندے عقیدے اور گندے اعمال دامن میں باندھے ہوئے ہیں، سوچ نہیں سکتے؟ کوئی آدمی قیامت والے دن معذور نہیں ہوگا سوائے پاگلوں کے کیوں کہ مدار عقل پر ہے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اس دن نہیں سزا دے گا رب جیسی کوئی سزا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے نہتر گنا تیز ہے۔ جس میں جلیں گے اور مارنا مقصود ہو تو اس آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے لیکن لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَىٰ۔ ”نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔“ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہیں جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنا۔ ہاتھ پاؤں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی اور گلے میں طوق ہوں گے فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿الحاقة: پارہ ۲۹﴾ ”ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو اس کو۔“

فرمایا يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ اے اطمینان والے نفس! ازجیجی لوٹ آئی رِبِّكَ اپنے رب کی طرف رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ قرآن پاک میں تین قسم کے نفس بیان ہوئے ہیں۔

① نفس اتارہ ② نفس لوامہ ③ اور نفس مطمئنہ

④ نفس اتارہ وہ ہے جو ہر وقت بدی کا حکم دیتا ہے۔ ہر وقت بدی کا خیال رہتا ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴿پارہ ۱۳﴾ ”بے شک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا۔“ دن

رات مکرو فریب، جھوٹ ہی میں لگا رہتا ہے۔

✽ نفس لوامہ وہ ہے جو غلطی ہونے پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے بُرا کام کیا ہے۔ بُرائی کو بُرائی سمجھتا ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔

✽ نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکیوں میں لگا رہتا ہے بُرائیوں کے قریب نہیں جاتا۔ عقیدہ صحیح، نماز، روزہ اور سب اعمال دین حق کے مطابق ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی

فَاذْخُلِي فِي جَنَّاتِي اِسْرًا
اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور بُرے کاموں سے سب کو بچائے اور محفوظ فرمائے۔

[امین]



1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

REFERENCES

1. Smith, J. (2010). The impact of climate change on global agriculture. *Journal of Environmental Science*, 22(1), 1-10.

2. Jones, K. (2015). The effects of deforestation on biodiversity. *Conservation Biology*, 29(2), 345-355.

3. Brown, L. (2008). The role of water in sustainable development. *Water Resources Research*, 44(3), W03301.

4. Green, P. (2012). The impact of urbanization on air quality. *Environmental Science and Technology*, 46(1), 1-10.

5. White, R. (2005). The effects of land use change on soil erosion. *Soil Science Society of America Journal*, 69(1), 1-10.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْبَلَدِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

ایاتھا ۲۰ ۹۰ سورۃ البلد مکیہ ۲۵ رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ
وَمَا وُلَدٌ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝ اَيَحْسَبُ اَنْ
لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝ يَقُوْلُ اَهْلِكْتُ مَا لَا لُبْدًا ۝
اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ ۝ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝ وَاِسْنًا
وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النُّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا
اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكٌ رَّقِبَةٌ ۝ اَوْ اِطْعَمُ فِيْ يَوْمٍ ذِي
مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مَسْكِيْنَا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ
كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِآيٰتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

لَا اُقْسِمُ میں قسم اٹھاتا ہوں بِهٰذَا الْبَلَدِ اس شہر کی وَاَنْتَ اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ اترے ہیں اس شہر میں وَوَالِدٍ اور قسم ہے والد کی وَوَمَا وُلَدٌ اور جو اس نے جنا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فِيْ كَبَدٍ

مشقت میں اِيْحَسَبُ کیا انسان خیال کرتا ہے اَنْ تَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ
 اَحَدٌ کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس پر کوئی يَقُولُ کہتا ہے اَهْلَكْتُ
 مَا لَا بُدَّا میں نے ہلاک کیا مال ڈھیر اِيْحَسَبُ کیا وہ خیال کرتا ہے
 اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے اَلْمَنْ جَعَلَ لَهُ کیا ہم
 نے نہیں بنائیں اس کے لیے عَيْنَيْنِ دو آنکھیں و لِسَانًا اور
 زبان وَ شَفَتَيْنِ اور دو ہونٹ نہیں دیئے وَ هَدِيَّةً اور ہم نے
 راہ نمائی کی اس کی التَّجْدَيْنِ دو راستوں کی فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
 پس نہ چڑھا گھاٹی پر وَمَا اَذْرَبْتَ مَا اقْبَبَةَ اور آپ کو کس نے بتلایا
 کہ وہ گھاٹی کیا ہے فَلْتُ رَقَبَةَ گردن کو آزاد کرنا ہے اَوْ اِطْعَمَ
 یا کھانا کھلانا ہے فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ بھوک والے دن میں
 يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہو اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ
 یا مسکین کو جو خاک آلود ہو ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا پھر ہوا ان لوگوں میں
 سے جو ایمان لائے ہیں وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی
 وصیت کرتے ہیں وَ تَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کی
 وصیت کرتے ہیں اَوْلِيْكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ
 والے وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا
 انکار کیا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارٌ

مَوْصَدَةٌ ان پر آگ ہوگی بند کی ہوگی۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام ہے سورۃ البلد۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں بلد کا لفظ موجود ہے۔ اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ چوتیس * ۳۴ سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا پینتیسواں * ۳۵ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور بیس * ۲۰ آیتیں ہیں۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ عربی زبان میں قسم سے پہلے لا آئے تو وہ زائدہ ہوتا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا۔ لَا أَقْسِمُ کا معنی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ لا کا معنی نہیں کریں گے بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی جہاں قرآن پاک نازل ہوا ہے وَأَنْتَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ حِلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ اترے ہیں اس شہر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس شہر میں ہوئی اور ولادت کے بعد تریپن سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ دس سال مدینہ طیبہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک تریسٹھ سال ہوئی۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑا حرام ہے۔ فتنہ فساد، جانور کو مارنا، یہاں تک کہ درخت کا ٹنڈا بھی ممنوع ہے۔ لیکن ۸ھ میں سورج کے طلوع ہونے سے لے کر عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑائی حلال کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ شہر حرمت والا ہے یہاں پر لڑائی جائز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے تھوڑی دیر کے واسطے حلال قرار دی ہے۔ اس کے بعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی

حلال نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، منی، عرفات، مزدلفہ میں، جہاں اجتماعات تھے۔ فرمایا سنو! رب تعالیٰ نے میرے لیے لڑنا حلال کیا تھا اس سے پہلے کسی کے لیے مکہ میں لڑنا حلال نہیں تھا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے اُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنَ النَّهَارِ ”میرے لیے دن کے ایک حصے میں لڑائی حلال کی گئی۔“ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس تفسیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیش گوئی تھی کہ آج تو آپ مجبور ہو کر اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں مگر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی جائز ہوگی۔

تو فرمایا آپ اترے ہیں اس شہر سے رَوَالِدٌ مَّا وُلِدَ اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور مَّا وُلِدَ سے ان کی اولاد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے۔ کیوں کہ جنات میں بھی والد ہیں، حیوانات میں بھی والد ہیں۔ کائنات میں جو جننے والی مخلوق ہے سب میں والد ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اٹھائی ہے۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے مگر اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کسی شہر کی قسم اٹھائے، کسی جگہ کی قسم اٹھائے، زیتون اور تین کی قسم اٹھائے، طوز کی قسم اٹھائے، عصر کی قسم اٹھائے۔ مخلوق کے لیے قانون بیان کیا ہے کہ مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ”جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔“ پیغمبر، کعبہ، دودھ، بیٹا، سب غیر اللہ

ہیں کسی کی بھی قسم جائز نہیں ہے۔ باپ، پیر بھی غیر اللہ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے مَنْ قَالَ بِأَلَاتٍ فَلْيُقْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "جس نے کہا مجھے لائت کی قسم ہے تو وہ فوراً پڑھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله" اور مسلمان ہو جائے۔

تو فرمایا قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا۔ جواب قسم ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ انسان کو ہر جگہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی بھوکا، کبھی پیاسا، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی مالی پریشانی، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ دنیا میں چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے تکلیف اور صدمہ اٹھائے گا۔

امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں۔ انھوں نے شاگردوں سے کہا کہ میرا ایک شعر لکھ لو:

عِشٌّ مُّوسِرًا إِنْ شِئْتَ أَوْ مُّعْسِرًا
لَا بُدَّ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْهَمِّ

"زندگی گزار مال دار ہو کر یا تنگ دست ہو کر پریشانی ضرور آتی ہے۔"

ہم غریب یہ سمجھتے ہیں کہ مال دار لوگ بڑی عیش و عشرت میں ہیں۔ یقین جانو! امیروں کے حالات سن کر ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم غریب ہیں۔ تو فرمایا ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔

شان نزول :

اگلی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا چودھری تھا جس کی کنیت ابو الاشد نام اسید اور والد کا نام کلدہ تھا۔ بڑا وزنی (زور آور) پہلوان تھا۔ اونٹ کا چمڑا پاؤں

کے نیچے رکھ کے کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچو! آٹھ آٹھ، دس دس آدمی، بیس بیس آدمی مل کر کھینچتے چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر پاؤں کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا۔ اس مال کو وہ آنحضرت ﷺ کے خلاف خرچ کرتا تھا۔ زبان آور پروپیگنڈا کرنے والوں کو بلا کر پیسے دیتا اور مختلف علاقوں اور گلیوں میں آنحضرت ﷺ کے خلاف پروپیگنڈا کراتا (جس آدمی کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا اس کو مال دے کر اسلام قبول کرنے سے روکتا۔) اور پھر وہ اس پر فخر کرتا اور کہتا کہ میں نے اسلام کے مقابلے کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ كَيْوَدُهٗ خِيَالًا كَرْتَا هٗ اَنَّ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ كَهٗ هَرَّزَا سِ پَر كُو لِي قَادِرٌ نِهٖيَسْ يَقُوْلُ كَهْتَا هٗ اَهْلَا كْتُ مَا لَا لَبْدَا مِيَسْ نِي هَلَا كُ كِيَا، خَرْجُ كِيَا مَالِ ذُهَيْرِ اَيَحْسَبُ اَنَّ لَمْ يَدْرَا اَحَدٌ كِيَا وُهٗ خِيَالًا كَرْتَا هٗ كَهٗ نِهٖيَسْ دِي كَهَا اس كُو كِسِي نِي۔ پَر وَر دِ كَارِ اس كُو دِي كَهْنِي وَالَا نِهٖيَسْ هٗ كَهٗ كِس كِس كُو خَفِيَهٗ طَوْرٍ پَر مَالِ دِي رَهَا هٗ پَر وِي كِنْدِي كِي لِي۔ اَوْر پَهْرُ بِيْطَهٗ كَرْفَخْر كَرْتَا هٗ كَهٗ مِيَسْ نِي اَتْمَالِ خَرْجِ كِيَا هٗ۔ مَالِ تَجْهِي رِبِ نِي دِيَا تَهَا كِسِي اَجْهِي جِ كِهٗ لِ كَاتَا۔ اَلْثَا تُو رِبِ تَعَالٰي كِي سِنْمِيَرِ كِي مَخَالَفَتِ مِيَسْ خَرْجِ كَر رَهَا هٗ۔

اسی واسطے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُبْدِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِيْنَ ﴿۲۷﴾ اسرائیل: ۲۷ ﴿بے شک بے جا خرچ کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔﴾ شیطانوں کے بھائی اس لیے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی۔ اس وقت اور طاقت سے نیکی کرتا لیکن اس نے وہ طاقت بُرائی میں خرچ کر دی۔ اسی طرح

مال دار کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اچھے کاموں پر خرچ کرتا۔ اس نے بُرے کاموں پر لگا دیا اور دھکے سے شیطان کا بھائی بن گیا۔

فرمایا **أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ** کیا نہیں بنائیں ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ آنکھوں کی قدر اندھے سے پوچھو **وَلِسَانًا** اور زبان نہیں دی کلام کرنے کے لیے۔ اس کی قدر گونگے سے پوچھو کہ دل کی بات بتلانا چاہتا ہے اشاروں کے ساتھ مخاطب نہیں سمجھتا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تجھے رب تعالیٰ نے زبان دی ہے اظہار مافی الضمیر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے **وَوَشَقَّتَيْنِ** اور دو ہونٹ نہیں دیئے۔ ہونٹوں کے بغیر انسان ابوامی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہونٹوں کے بغیر پانی پیے گا تو نیچے گرے گا (اور ہونٹوں کے بغیر جو شکل بنتی ہے اس کا تصور خود کر لو۔)

اور نعمت: **وَهَدَيْتُهُ السَّبِيلَ** اور ہم نے راہ نمائی کی اس کی دو گھاٹیوں کی، دو راستوں کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ مراد ہے۔ ہم نے عقل دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں۔ ہر دور میں حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے جن کے ذریعے خیر اور شر کا راستہ بتلایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کا راستہ ہے۔

اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نجدین سے مراد ماں کے پستان ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان چوسنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتلایا ہے کہ اب تیری غذا یہاں ہے اور اس طرح تو نے حاصل کرنی ہے وہ کس کا لُج سے پڑھ کر آیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے **فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ** پس نہ چڑھنا وہ گھاٹی پر۔ عقبہ اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

انسان گھائی پر نہیں چڑھا وَمَا آذْرُكَ مَا الْعَقْبَةُ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ گھائی کیا ہے۔ وہ گھائی یہ ہے فَلَنْ رَقَبَةً گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ جس طرح گھائی پر چڑھنا مشکل ہے اسی طرح یہ کام کرنا بھی مشکل ہے۔ دشوار گزار گھائی پر چڑھتے ہوئے آدمی تنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کام کرتے ہوئے بھی انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جس کو رب تعالیٰ توفیق اور ہمت دے۔ غلام اور لونڈی کو آزاد کرنا بڑی نیکیوں میں سے ہے۔

میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کسی ملک میں شرعی غلام ہو۔ پہلے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ تو آج کل چل رہا ہے کہ زبردستی کسی کو یہاں سے اٹھا کر سندھ میں بیچ دیا یا دوسری ریاستوں کو بیچ دیا (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔) بد معاش اور بد قماش قسم کے لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو مردے بھی بیچتے ہیں۔ رب جانے انہوں نے مردوں سے کیا نکالنا ہے۔ یہ مردہ فروشی کا کام بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ نعشیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔

أَوْ اطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَأْكُلَانَا كَهَلَا نَا هُوَ بَهْوُكِ وَاللَّيْلِ دُنْ كَسْ كُو؟
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ يَتِيمٌ كُو قُرَابَتِ دَارِ هُو۔ اِيك يَتِيمٌ هُو نِي كِي دَجْبَسِي اُو ر دُو سِرَا اِي نَا
قَرِيْبِي هُو نِي كِي دَجْبَسِي دُو هِرَا ثَوَابِ هُو۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت! میں کبھی نفلی صدقہ کرتی ہوں تو کیا میں اپنے پہلے خاوند ابو سلمہ کی اولاد کو دے دیا کروں کہ ان کا والد کوئی جائیداد نہیں چھوڑ گیا اور کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ قریبی رشتہ دار مستحق ہو تو اس

کو صدقہ دینے سے دل جھکے بجائے بیس نیکیاں ملتی ہیں اَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ يَا
 مسکین کو جو خاک آلود ہو، مٹی میں ملا ہوا مسکین یعنی وہ بے چارہ اتنا بھوکا ہے کہ کھڑا نہیں ہو
 سکتا گر پڑتا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے۔

اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی درمی چادر وغیرہ نہیں ہے جو
 اپنے نیچے بچھائے۔ بس وہ مٹی پر لیٹ جاتا ہے ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ
 غلام، لونڈیوں کو آزاد کرنے والا، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ان لوگوں میں سے
 ہو جو ایمان لائے۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
 اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی تکلیفوں میں۔ ان میں سے ہو کہ بھائی! ذین
 کے معاملے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں صبر کرو وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو
 وصیت کرتے ہیں رحم کی کہ غلاموں پر شفقت کرو، پڑوسیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ
 پیش آؤ بلکہ ساری مخلوق پر شفقت کرو اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ یہی لوگ ہیں دائیں
 ہاتھ والے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور پہلے پڑھ چکے ہو کہ جس کو نامہ
 اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشیاں مناتے ہوئے کہے گا هَاؤُمْ اَقْرَبُ وَاكْتَبِيَةٌ
 ﴿الحاقة: ۱۹﴾ ”میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔“

آگے دوہری مد کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ
 جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وہ لوگ بائیں ہاتھ والے
 ہیں۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بجائے اور محفوظ رکھے۔ ان کی
 حالت دیکھی نہیں جاسکے گی عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ان پر آگ جو موندی جائے گی۔
 آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ باہر کی ہوا تک نہ آئے گی۔ وہاں

سے نکلنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک اور بد اعمالیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے اور ایمان اور اچھے اعمال پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔

[امین!]



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الشَّمْسِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

ایاتھا ۱۵ ۹۱ سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ ۲۶ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝
وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ
بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ اتَّبَعَتْ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ
نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

وَالشَّمْسِ قسم ہے سورج کی وَضُحَاهَا اور اس کی روشنی کی
وَالْقَمَرِ اور قسم ہے چاند کی إِذَا تَلَّهَا جس وقت وہ سورج کے پیچھے آتا
ہے وَالنَّهَارِ اور قسم ہے دن کی إِذَا جَلَّهَا جب وہ سورج کو روشن کر
دے وَاللَّيْلِ اور قسم ہے رات کی إِذَا يَغْشَاهَا جب وہ ڈھانپ لیتی
ہے وَالسَّمَاءِ اور قسم ہے آسمان کی وَمَا بَنَاهَا اور اس ذات کی جس
نے اس کو بنایا ہے وَالْأَرْضِ اور قسم ہے زمین کی وَمَا طَحَّهَا اور
اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ہے وَالنَّفْسِ اور قسم ہے نفس کی وَ

مَا سَوَّيَهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا فَأَلْهَمَهَا پس
 الہام کر دیا اس نفس کو فُجُورَهَا اس کی بدکاری کا وَتَقْوِيَهَا اور
 اس کی پرہیزگاری کا قَدْ أَفْلَحَ تحقیق فلاح پا گیا مَنْ زَكَّيْهَا
 جس نے اس کو پاک کر لیا وَقَدْ خَابَ اور تحقیق نامراد ہوا مَنْ
 دَسَّيْهَا جس نے اس کو گناہ میں چھپا دیا كَذَّبَتْ ثَمُودُ جھٹلایا قوم ثمود
 نے بِطَغْوِيَهَا اپنی سرکشی کی وجہ سے إِذِ اشْبَعَتْ جس وقت اٹھ کھڑا
 ہوا أَشْقَىٰ ان میں سے ایک بد بخت فَقَالَ لَهُمْ پس کہا ان کو
 رَسُولُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے رسول نے نَاقَةَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا
 خیال رکھنا وَسُقِّيَهَا اور اس کے پانی پینے کا فَكَذَّبُوهُ پس انھوں
 نے جھٹلایا نبی کو فَعَقَّرُوْهَا پس کاٹ دیں اونٹنی کی ٹانگیں فَدَمَدَمَ
 عَلَيْهِمْ پس اُلٹ دیا اُن پر رَبُّهُمْ اُن کے رب نے عذاب
 بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے فَسَوَّيَهَا پھر برابر کر دیا وَلَا
 يَخَافُ عُقْبَاهَا اور نہیں ڈرتا وہ اس کے انجام سے۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں شمس کا لفظ موجود
 ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پچیس سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا
 چھبیسواں نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور پندرہ آیتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سورج بھی بہت بڑی شے ہے۔ اس کے فائدے سے

کوئی شخص بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وَ الشَّمْسِ قسم ہے سورج کی وَضُحُومِہَا اور اس کی روشنی کی۔ ایک سورج کا جسم ہے کہ وہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی اور حرارت ہے۔ رب تعالیٰ نے سورج کی حرارت اور تپش کے ساتھ بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کی صحت، فصلوں کی نشوونما، پھلوں کا پکنا وغیرہ۔

وَ الْقَمَرِ اور قسم ہے چاند کی إِذَا تَلَمَّہَا جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کی روشنی ہوتی ہے اور وہ اپنی چمک دمک دکھاتا ہے۔ تَلَا يَتَلَوُا تِلْوًا کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا۔ وَ النَّهَارِ اور قسم ہے دن کی۔ إِذَا جَلَّہَا جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ روشن تو سورج کرتا ہے جوں جوں دن چڑھتا ہے سورج کی روشنی نمایاں ہوتی جاتی ہے (تو دن کی طرف اسناد مجازی ہے)۔ سورج کی روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اس سبب سے دن کی طرف نسبت کی ہے۔ وَ اللَّيْلِ اور قسم ہے رات کی إِذَا يَغْشَاهَا جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہ اس پر چھا جاتی ہے۔ رات جب آتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے سورج، چاند، دن، رات۔

وَ السَّمَاءِ اور قسم ہے آسمان کی وَمَا بَنَيْتُمَا اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ آسمان کتنا بلند ہے اور نیچے ستون وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو سہارا دینے والی ہو۔ بعض حضرات ما کو مصدر یہ بناتے ہیں۔ پھر معنی ہوگا قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی کہ صاف اور وسیع ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَرَفُہَا اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلا یا ہے، بچھایا ہے۔

جغرافیہ دان لکھتے ہیں کہ زمین کے سوحصلوں میں سے ایتیس حصے خشکی کے ہیں اور اکثر حصوں پر پانی ہے۔ لیکن یہ ایتیس حصے آدمی طے کرتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ بہاڑوں میں بھی سفر کرے پھر بھی تھک جاتا ہے۔ اس سے سمندر کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ خود لگا لو۔ اور یہ بھی تم پڑھ چکے ہو کہ یہ سمندر اور اس جیسے سات سمندر اور ہوں اور سارے سیاہی بن جائیں اور انسان، فرشتے، جنات تمام کائنات رب تعالیٰ کی تعریف لکھنے لگ جائے۔ یہ آٹھ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ بڑی عظمتوں والی ذات ہے۔

گزشتہ سال مجھے دوست مجبور کر کے جنوبی افریقہ لے گئے، جو ہانسبرگ۔ کہنے لگے ہم آپ کو یہاں کا چڑیا گھر دکھاتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے جانور ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید چند میل کے فاصلے پر ہوگا مگر وہ تو جو ہانسبرگ سے نو سو کلومیٹر دور تھا۔ وہ کمرے نہیں تھے بلکہ وہ جنگل تھا جس کی لمبائی تین سو میل اور چوڑائی ایک سو ساٹھ میل تھی۔ جس میں جانور کھلے پھر رہے تھے۔ ہم تو تھک گئے۔ حالانکہ وہاں کی سڑکیں بھی بہت عمدہ تھیں۔ یہ تو دنیا کے ایک کونے کی بات ہے ساری دنیا تو بہت وسیع ہے۔

تو فرمایا قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے، پھیلا یا ہے وَنَفْسٍ اور قسم ہے نفس کی وَ مَا سَوْدَهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے۔ جہاں جس چیز کو لگنا چاہیے وہیں لگائی۔ جہاں ہاتھ لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں پاؤں لگنے چاہئیں تھے وہیں لگائے، جہاں آنکھیں، ناک اور کان لگنے چاہیے تھے وہیں لگائے بڑے تناسب کے ساتھ۔ جس طرح انسان کو درست کیا اسی طرح

حیوانات کو بھی بڑے خاص طریقے اور اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا۔
 فَالْهَمَهَا پھر الہام کر دیا اس نفس میں۔ یعنی اس کے دل میں فُجُوْرَهَا
 اس کی بدکاری کا۔ یہ کام بُرے ہیں وَتَقْوَاهَا اور پرہیزگاری کا کہ یہ کام اچھے ہیں۔
 عقل بھی عطا فرمائی اور پیغمبروں کے ذریعے بھی بتلایا۔ کتابیں نازل کیں، صحیح اور غلط
 سمجھایا، حق اور باطل کو واضح کیا۔ پھر ہر زمانے میں اہل حق کھڑے کیے جنہوں نے لوگوں
 تک حق پہنچایا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حق کی آواز بلند کرنے والے موجود نہ
 ہوں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ
 الْحَقِّي لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ”میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا
 ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔“ اور جو اپنے مفاد کی خاطر ساتھ مل کر
 الگ ہو جائے گا اس کی علیحدگی سے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور اندر سے ریشہ
 دو انیاں کریں تحریکیں چلائیں ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ حق پر ڈٹا رہے گا۔ آخری
 حصہ ان کا حضرت عیسیٰ ﷺ سے مل کر کافروں سے جہاد کرے گا اور یہ حق کا گروہ قیامت
 تک رہے گا۔

ایک حدیث میں ہے اگرچہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے مگر مفہوم صحیح
 ہے۔ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ”میری امت کے علمائے حق ایسے
 ہی ہیں جیسے انبیائے بنی اسرائیل۔“ درجے میں نہیں، ڈیوٹی میں ایسے ہیں۔

جیسے موسیٰ ﷺ تشریف لائے ان کی تائید اور تورات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ
 نے چار ہزار پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے اس کو زندہ رکھا۔ تو ان کے انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا

آپ ﷺ کی امت کے علماء وہ کام کریں گے۔ آج الحمد للہ! زمین کے کونے کونے تک حق کی آواز پہنچی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حق کی آواز نہ پہنچی ہو۔ کافروں کے مظالم بہت سخت ہیں لیکن حق حق ہے، اسلام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مٹائے گا نہیں۔ یہ جواب قسم ہے۔

فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تحقيق فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کیا کفر سے، شرک سے، تکبر سے، حسد سے، بغض، کینہ سے، اخلاق ذمیرہ سے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اس کی مثال سانپ کی ہے۔ سانپ چھوٹا ہو تو اسے جوتے سے بھی مار سکتے ہیں، لاشی سے بھی مار سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسے چھوڑ دیں گے اور وہ اتر دہا بن جائے گا تو سارا گاؤں بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ نفس اتارہ کی اصلاح بہت مشکل ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے پوچھا گیا حضرت دنیا میں سب سے مشکل چیز کون سی ہے اور آسان چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یہ جو آپ حضرات بزرگوں کے قصے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نے اتنی ریاضت کی، فلاں نے اتنا مجاہدہ کیا، یہ سب محنتیں نفس کی اصلاح کے لیے کی گئیں۔ لیکن اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن نفس کی اصلاح اہم چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے کاموں میں سے ایک کام نفس کی اصلاح بھی فرمایا ہے **وَ يُزَكِّيهِمْ** ﴿سورة الجمعة: پارہ ۲۸﴾ اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔“

شرعی دائرے میں رہ کر ریاضتیں کرنا جائز ہے :

بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کیں لہذا یہ ریاضتیں اور مجاہدے بدعت ہیں۔ یہ کہنا ان کی نادانی ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کیں کیوں کہ ان کے دل کا آئینہ صاف تھا۔ اور آئینہ صاف ہو تو مانجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے بعد دلوں پر زنگ آ گیا اور زنگ کو دور کرنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی خوش نصیب کو، سعادت مند کو دو منٹ بیٹھنے کا بھی موقع مل جاتا تھا تو اس کے نفس کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ سو سال کی ریاضت سے بھی اتنی صفائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان کو دل صاف کرنے کے لیے ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب دلوں میں کدورت اور زنگ کو دور کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کے لیے بزرگوں نے شرعی دائرے میں رہ کر روزے بھی رکھے، چلے بھی کاٹے، بڑا کچھ کیا کہ نفس کی صفائی ہو جائے۔ تو سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے۔ اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔

فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشَّهَا اور تحقیق نامراد ہو جس نے نفس کو گناہ میں، معاصی میں چھپا دیا۔ دن کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ۔ اٹھتے گناہ، بیٹھتے گناہ، چلتے پھرتے گناہ کرنے والا نامراد ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

قوم ثمود کا واقعہ :

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا جهلایا قوم ثمود نے حق کو اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ حجر کے علاقے میں رہتے تھے جو خیبر اور ثبوک کے درمیان واقع ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ

نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ” اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دست گیر رب تعالیٰ کی ذات کے سوا۔“ تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ کیوں کہ ان لوگوں کا عقیدہ اور تھا۔ وہ شریک عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب ایک آدمی کھڑا ہو کر سب کے خلاف بولے تو اس کا مذاق تو اڑایا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ اور کرشمہ بھی ہماری مرضی کا۔ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں اس سے اونٹنی نکل آئے پھر ہم مانیں گے۔ قرآن پاک کی تصریحات میں موجود ہے کہ انھوں نے جس چٹان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان سے اونٹنی نکال دی۔ فرمایا اے میری قوم! هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ” یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک خاص نشانی ہے فَذَرُوهَا پس اس کو چھوڑو تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں وَلَا تَمْسُوها سَوْءًا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور نہ چھونا اس کو بُرائی کے ساتھ پس تمہیں پکڑ لے گا عذاب دردناک۔“

اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ کہنے لگے بڑا مضبوط جادو ہے اور بڑا کاری گر جادو گر ہے۔۔ جادو کہہ کر ٹال دیا۔

تو فرمایا جھٹلایا قوم شمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے إِذَا شَبَعَتْ أَشَقَمَهَا جس وقت اُٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بد بخت جس کا نام قدار تھا۔ قد چھوٹا اور گریبہ جسم تھا۔ بلی کی طرح آنکھیں تھیں۔ وہاں نو غنڈے تھے یہ ان کا سردار تھا۔ سورۃ نمل آیت نمبر ۴۸ میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ” اور

تھے شہر میں نو شخص جو فساد مچاتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے۔ ” انھوں نے مشورہ کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنی ہیں اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کو اولاد سمیت ذبح کرنا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت کھڑا ہوا قوم شموک کا ایک بڑا بد بخت ترین انسان قدار فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے نَاقَةَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا خیال رکھنا اس کو تکلیف نہیں پہنچانی وَسُقِيَهَا اور اس کے جو پانی پینے کی باری ہے اس کے مطابق اس کو پانی پینے دینا۔ ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا ہے فَكَيْدُ نُوَّةٍ پس جھٹلایا ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ کہنے لگے آپ کون ہوتے ہیں باری مقرر کرنے والے؟ ہم آپ کی باری نہیں مانتے۔ اس طرح تو ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں فَعَقَرُوْهَا پس کاٹ دیں انھوں نے اونٹنی کی ٹانگیں، قدار بن ثعلب نے۔ اونٹنی بڑ بڑائی تو حضرت صالح علیہ السلام روتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اب قوم پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں قَدَّمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے عذاب بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ڈال دی فَسَوَّيْهَا پھر برابر کر دیا سزا کو سب پر۔ کوئی شخص بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

سورة الحجر میں ہے فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْجِينَ ” پس پکڑا ان کو خوف ناک آواز نے اس حال میں کہ وہ صبح کے وقت میں تھے۔ ” حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز نکالی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ رجفہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے سردیواروں کے ساتھ ٹکراتے تھے۔ حالانکہ انھوں نے چٹانیں تراش کر مکان

بنائے ہوئے تھے کہ زلزلے کی وجہ سے گریں نہ۔ لیکن رب تعالیٰ کے زلزلے سے کون بچائے؟ ایسا زلزلہ آیا کہ کسی کا سروہاں لگ رہا ہے اور کسی کا یہاں لگ رہا ہے۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے چیخ ماری سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ نہ بچا **وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا** اور نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے۔ دنیا میں جتنی بھی کوئی مضبوط حکومت ہو جب وہ پبلک کے خلاف کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو خوف کرتے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں گے، جلوس نکالیں گے، ہڑتال کریں گے۔ لیکن رب تعالیٰ کو کسی قوم کی تباہی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ اللَّيْلِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۲۱ ﴿۹۲﴾ سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ ۹ ﴿۹۱﴾ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَ الْیَلِ اِذَا یَغْشٰی ﴿۱﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلٰی ﴿۲﴾ وَ مَا خَلَقَ الذَّکَرَ
 وَ الْاُنْثٰی ﴿۳﴾ اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی ﴿۴﴾ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَنْتَفٰی ﴿۵﴾
 وَ صَدَقَ بِالْحُسْنٰی ﴿۶﴾ فَسَنِیْرَةٌ لِّیُسْرٰی ﴿۷﴾ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ
 وَ اسْتَغْنٰی ﴿۸﴾ وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ﴿۹﴾ فَسَنِیْرَةٌ لِّلْعُسْرٰی ﴿۱۰﴾
 وَ مَا یُغْنِیْ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّدٰی ﴿۱۱﴾ اِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی ﴿۱۲﴾
 وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاَوَّلٰی ﴿۱۳﴾ فَاَنْذَرْتُکُمْ نَارًا تَلَظٰی ﴿۱۴﴾
 لَا یَصْلُحُهَا اِلَّا الْاَشْقٰی ﴿۱۵﴾ الَّذِیْ کَذَّبَ وَ تَوَلٰی ﴿۱۶﴾ وَ سَیَجْزِیْهَا
 الْاَنْتَفٰی ﴿۱۷﴾ الَّذِیْ یُوْتٰی مَالَهُ یَتَزَكٰی ﴿۱۸﴾ وَ مَا لِاِحِدٍ عِنْدَهُ
 مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰی ﴿۱۹﴾ اِلَّا اِبْتِغَاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْاَعْلٰی ﴿۲۰﴾
 وَ لَسَوْفَ یَرْضٰی ﴿۲۱﴾

وَ الْیَلِ قسم ہے رات کی اِذَا یَغْشٰی جب وہ چھا جائے
 وَ النَّهَارِ اور قسم ہے دن کی اِذَا تَجَلٰی جب وہ روشن ہو جائے وَ مَا
 خَلَقَ الذَّکَرَ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر پیدا کیا وَ الْاُنْثٰی
 اور مادہ پیدا کیا اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَتٰی بے شک تمہاری کوشش لَشَتٰی

البتہ مختلف ہے فَأَمَّا مَنْ لیس بہر حال وہ شخص اَعْطَى جس
 نے مال دیا وَاتَّقَى اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
 اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی فَسَيَسِّرُهُ پس ہم آسان کر دیں
 گے اس کے لیے لِلْيُسْرَىٰ آسان دین وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور
 بہر حال وہ شخص جس نے بخل کیا وَاسْتَعْنَىٰ اور وہ بے پروا رہا وَ
 كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور جھٹلایا اس نے اچھی بات کو فَسَيَسِّرُهُ پس
 ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے لِلْعُسْرَىٰ تنگ چیز وَمَا يُغْنِي
 عَنْهُ مَالُهُ اور نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال إِذَا تَرَدَّىٰ جب وہ
 گرے گا دوزخ میں إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ بے شک ہمارے ذمہ ہے
 راہنمائی کرنا وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہمارے لیے ہے لِلْآخِرَةِ البتہ
 آخرتِ وَالْأُولَىٰ اور دنیا فَأَنْذَرْتُكُمْ پس میں نے تم کو ڈرا
 دیا ہے نَارًا آگ سے تَلْطَفُ جو شعلے مارتی ہے لَا يَصْلَاهَا
 نہیں داخل ہوگا اس آگ میں إِلَّا مگر الْأَشْقَىٰ جو بد بخت ہے
 الَّذِي كَذَّبَ وہ جس نے جھٹلایا وَتَوَلَّىٰ اور اعراض کیا
 وَسَيَجْزِيهَا اور عن قریب بچایا جائے گا اس آگ سے الْآتِقَىٰ جو بڑا
 پرہیزگار ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ جو دیتا ہے اپنا مال يَتَرَكِي ك
 نفس کو پاک کرنے وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی کا عِنْدَهُ اس کے ہاں

مِنْ نِعْمَةٍ كُوفِي احسان تَجَزَى جس کا بدلہ دیا جائے اِلَّا
مگر اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا اَلْاَعْلٰی
جو بلند و برتر ہے وَلَسَوْفَ يَرْضٰی اور عن قریب وہ اس سے راضی ہو
جائے گا۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ الیل ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لیل کا لفظ موجود ہے
جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس سے پہلے
آٹھ * ۸ * سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نواں * ۹۰ * نمبر
ہے۔ اس کا ایک رکوع اور اکیس * ۲۱ * آیات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّیْلِ۔ واقعہ یہ ہے۔ قسم ہے رات کی اِذَا یَغْشٰی
جب وہ چھا جائے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو تاریکی ہوتی ہے وَالنَّهَارِ اِذَا
تَجَلَّی اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دن جب روشن ہوتا ہے تو سفید،
سیاہ رنگ کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا باوجود آنکھ کے صحیح
ہونے کے۔ اور دن کو ہر چیز اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْاُنثٰی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ پروردگار نے مرد
پیدا کیے، عورتیں پیدا کیں اور ان کے ذریعے نسل انسانی کو چلایا اور جس وقت تک دنیا
قائم رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

فرمایا اِنَّ سَفِیْكَذ لَشَفٰی۔ شَبٰی شَبٰیَّتْ کی جمع ہے جس طرح

مرضی مریض کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے متفرق ہونا۔ معنی ہوگا بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ جیسے دن رات میں فرق ہے، نرمادہ میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے عملوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ نیک عمل اور ہے، بد عمل اور ہے، شرک اور ہے، توحید اور ہے، سنت اور بدعت میں فرق ہے۔ حق اور ہے، باطل اور ہے، سچ اور ہے، جھوٹ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات اور نرمادہ کے اختلاف کو پیش کر کے عمل کے اختلاف کی طرف راہ نمائی فرمائی ہے کہ عمل بھی مختلف ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ
پس بہر حال وہ شخص جس نے دیا مال۔ (اس آیت کا
اول مصداق مفسرین کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر قیامت تک کے أَعْطَىٰ
وَأَنْتَ لِي فِي شَيْءٍ شَاكِرٌ اس میں شامل ہیں۔ کیوں کہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔) زکوٰۃ ادا کی،
فطرانہ دیا، عشر دیا۔ جو حقوق مالیہ ہیں حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں، ادا کیے
وَأَنْتَ لِي فِي شَيْءٍ شَاكِرٌ اور ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنَىٰ اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی۔ کلمہ طیبہ کی، اسلام کی، شریعت کی
قرآن کی، دین حق کی تصدیق کی فَسَيَسِّرُهُ لِي اس کے لیے
لِيَسْرِي آسان دین۔ یسری سے مراد شریعت ہے۔ شریعت پر چلنا آسان کر دیں
گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کامکلف نہیں بنایا۔

اور یسری سے مراد جنت بھی ہے۔ تو معنی ہوگا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے
جنت تک پہنچنا۔ جنت کو یسری اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔
دنیا میں تو محنت کر کے کھانا ہے، گرمی سردی برداشت کرنی ہے، چور، ڈاکو کا ڈر بھی ہے،
عزت پر حملے کا خوف بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ وہاں ان میں سے کوئی شے نہیں ہے۔

اس کا نام ہی دارالسلام ہے خوش نصیب ہوگا جو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ ابد الابد کی زندگی اور مزے کی جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے آپ ﷺ سے سوال کیا حضرت! جنت میں کاشت کاری کی اجازت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں کاشت کاری کی کیا ضرورت ہوگی سب کچھ تیار مل جائے گا۔ کہنے لگا حضرت! اگر کھلی کرنا چاہے تو پھر۔ فرمایا ہاں! اجازت مل جائے گی کھڑے کھڑے بیج ڈالے گا اس کے سامنے اگیں گے، بڑھیں گے، پک جائیں گے، کانے جائیں گے، ڈھیر لگ جائے گا۔ ایک منٹ میں سارا کچھ ہو جائے گا۔

سورۃ الفرقان میں ہے لَمْ يَجْعَلْهَا مَائِشَاءً وَنَّ "ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔" اگر کوئی کہیں اڑ کے جانا چاہے گا تو اُسے اڑنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر کوئی چاہے گا کہ بیٹا اڑتا ہو پرندہ میری خوراک بن جائے تو اسی وقت بھنا ہوا رکابی میں سامنے پڑا ہوگا۔ جنتی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ اُن کی مرادیں پوری کرے گا۔

وَأَقَامُوا بِبَيْتِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهَا حَائِطًا وَلَا سِدْرًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

میں۔ جہاں خرچ کرنا تھا نہیں کیا یا جتنی مقدار میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ يَتَّخِذُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ حَبْلًا مَّوْجًا ۚ

اور بے پروا رہا حق سے وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۚ

اور جھٹلایا اس نے اچھی بات۔

کلمہ توحید کو، اسلام کو، دین کو، حق کو جھٹلایا فَسَيَسِّرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگ چیز کو۔ (ان آیات کے اولین مصداق مفسرین کے نزدیک ابو جہل، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث وغیرہ ہیں۔ پھر قیامت تک اس مد کے لوگ اسی میں شامل ہیں کہ كَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ کے لیے تنگی کو آسان کریں گے۔)

تنگ چیز سے مراد دوزخ ہے۔ اس کو دوزخ والے کام آسان لگیں گے۔ دوزخیوں والے کام کرے گا وہ اس کو دوزخ میں پہنچادیں گے۔

مثلاً: چوری، ڈاکا کوئی آسان کام تو نہیں ہیں۔ جاگنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا ہے، لوگوں کا خطرہ، پولیس کا خطرہ۔ ان خطرات کے باوجود ان لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہیں رات کو سونا ان کے لیے مشکل ہے چلنا بھاگنا ان کے لیے آسان ہے۔ کیوں کہ انھوں نے حق کی تصدیق نہیں کی۔ وہ اس طرف چل پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ﴿تَوَلَّهِ مَا تَوَلَّيَ﴾ (سورۃ النساء: ۱۱۵) ”ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔“ جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے اسی طرف ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ کوئی نیک کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ بُرے کام کی طرف چلنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا دار التکلیف ہے اور دار العمل ہے۔ جو کوئی اچھا بُرا کرنا چاہے کرتا رہے۔ آخرت دار الجزاء ہے وہاں اس کو کیے کا بدلہ مل جائے گا۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور نہیں کفایت کرے گا اس کو اس کا مال۔ اس کے کام نہیں آئے گا اِذَا تَرَدَّى جب وہ گرے گا دوزخ میں۔ تَرَدَّى کا معنی ہے بلندی سے نیچے گرنا۔ پل صراط دوزخ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ جو نہی ایک قدم رکھ کر اٹھائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ پھر وہیں اس کے ٹکڑے جوڑ کر چنگا بھلا انسان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے تکلیف محسوس کرے گا۔

جہنمی ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴿يونس: ۴۵﴾ ” ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔“ میدان محشر میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ فلاں

صاحب ہے یہ فلاں صاحب ہے۔ جنت میں بھی ایک دوسرے کی شناخت ہوگی اور دوزخ میں بھی ایک دوسرے کی شناخت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے گمراہ کیا ان کے پیروکار ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا اب تم ہمیں اس سزا سے چھڑاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی جبر تو نہیں کیا تم ہماری بات نہ بانٹتے۔ یہاں تک کہ گمراہوں کا بڑا پیر شیطان ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمیں سبز باغ دکھاتا تھا آج ہماری کوئی مدد کر، کوئی نسخہ بتلا کہ جس کے ذریعے ہم دوزخ سے نکل جائیں۔

سورة ابراہیم میں ہے ابلیس لعین کہے گا **فَلَا تَنۡمُوۡنِیۡ وَتُؤۡمَوۡا اَنۡتُمْ کٰفِرُوۡنَ** ”مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میرا تم پر کوئی جبر تو نہ تھا **اَنۡ دَعَوۡتُکُمْ فَاَسۡتَجَبۡتُمۡ لِیۡ** میں نے تم کو دعوت دی تم نے قبول کر لی، نہ قبول کرتے۔“ اور یہ بھی کہے گا **اِنۡیۡ کَفَرۡتُ بِمَاۤ اَشۡرَکۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلُ** ”بے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔“ اور میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ لیڈر ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی! اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے ساتھ سوچو غور و فکر کرو حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تمہیں نہ مال بچائے گا نہ اولاد بچائے گی صرف ایمان عمل صالح حق کو قبول کرنا دوزخ کے بچانے کے سبب ہیں۔

فرمایا **اِنَّ عَلَیۡنَا لَلۡہُدٰی** بے شک ہمارے ذمہ ہے راہنمائی کرنا۔ ہم نے عقل دی، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، حق کی آواز بلند کرنے والے بھیجے، راہنمائی کے پورے اسباب مہیا کیے **وَ اِنَّ لَنَا لَۡلۡاٰخِرَۃً وَّالۡاَوَّلٰی** اور بے شک ہمارے لیے ہے البتہ آخرت اور دنیا۔ دنیا کے مالک بھی ہم ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو! فَإِنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے لَا يَضِلُّهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر جو بد بخت ہے۔ دوزخ میں بد بخت ہی جائے گا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وہ جس نے جھٹلایا حق کو اور اعراض کیا عمل سے وَسَيَجْزِيهَا الْأَشْقَىٰ اور عن قریب بچایا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو بڑا پرہیزگار ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ جو دیتا ہے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ پاک کرے اپنے نفس کو بخل سے، غریبوں کے حق سے۔

الْأَشْقَىٰ کا مصداق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں :

تفسیر دن میں آتا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مال دار تھے۔ جن غلاموں اور لونڈیوں کو ایمان کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا انہیں خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ یہ قریش کا بڑا آدمی تھا۔ بڑا تلخ مزاج اور بڑا ظالم آدمی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس نے بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ کبھی ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور خود سائے میں سو جاتا اور کہتا خبردار! اگر یہاں سے ادھر ادھر ہوا۔ کبھی قمیص اتروا کر گرم ریت پر لٹا دیتا۔ یہ بے چارہ غلام تھا سب کچھ برداشت کرتا۔ اگر کبھی قیل و قال کرتا تو اتنا مارتا تھا کہ بے چارہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس بے چارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ اس کو میرے آگے بیچ دے۔ اس نے اتنی قیمت بتلائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو خرید نہ سکیں سن کر ڈر جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر

آئے جھاڑو پھیر کر ساری رقم اکٹھی کر کے دے دی اور آزاد کر دیا۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کرتے کا بٹن گر گیا تو قمیص کو کانٹے کے ساتھ جوڑا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کانٹے کے ساتھ جوڑا ہے بٹن لگا لیتے۔ تو کہنے لگے حضرت سارے پیسے اکٹھے کر کے بلال کو خریدنا ہے بٹن کے پیسے بھی نہیں بچے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال خرچ کرتا تھا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اُوْر نہیں ہے کسی کا اس کے ہاں احسان جس کا بدلہ دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دے رہے تھے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا جو بلند و برتر ہے۔ انھوں نے بلند رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا کہ بلال وغیرہ غلام ایمان لاپچکے تھے اس لیے خرید کر آزاد کیا کہ کھل کر عبادت کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور عن قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔

اور یہ معنی بھی ہے کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قدر انعام و اکرام فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب يَرْضَىٰ کی ضمیر کا مرجع اتقى ہو کہ اتقى کو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کا اتنا بدلہ دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الضُّحَى

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

13

on to

ایاتھا ۱۱ ۹۳ سورۃ الضحیٰ مکیۃ ۱۱ ۱۱ رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالضُّحٰی ۱۱ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ۱۱ مَا وَاذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ۱۱
 لِلْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاٰوَّلٰی ۱۱ وَلَسَوْفَ يُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۱۱
 اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۱۱ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۱۱
 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰی ۱۱ فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تُقَهِّرْ ۱۱ وَاَمَّا
 السَّآئِلَ فَلَا تُنْهَرْ ۱۱ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۱۱

وَالضُّحٰی (واو قسمیہ ہے معنی ہے) قسم ہے چاشت کے وقت کی

وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے مَا وَاذَعَكَ

رَبُّكَ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وَمَا قَلٰی اور نہ ہی

دشمنی کی ہے وَلِلْاٰخِرَةِ اور البتہ آخرت خَيْرٌ لِّكَ بہتر ہے آپ

کے لیے مِنَ الْاٰوَّلٰی دنیا سے وَلَسَوْفَ يُعْطِیْكَ رَبُّكَ اور

عن قریب آپ کا رب آپ کو دے گا فَتَرْضٰی کہ آپ راضی ہو جائیں

گے اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم فَاٰوٰی

پس اس نے ٹھکانا دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور پایا آپ کو بے خبر

فَهَدٰی پس آپ کی راہ نمائی کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور پایا آپ کو

مفلس فَأَعْنَىٰ پس اس نے غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ پس بہر حال
 یتیم پر فَلَاتَقْهَرْ پس نہ قہر کر وَأَمَّا السَّائِلَ بہر حال سائل کو
 فَلَاتَنْهَرْ پس نہ جھڑک وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور بہر حال اپنے رب
 کی نعمت کو فَحَدِّثْ پس بیان کرو۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ ضحیٰ کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس
 سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس سے پہلے
 دس سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا گیارھواں نمبر ہے۔ اس کا ایک
 رکوع اور گیارہ آیات ہیں۔

شان نزول :

اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے آنحضرت ﷺ سے تین چیزوں کا
 سوال کیا۔ ایک یہ پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ”یہ
 آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟“
 دوسرا سوال تھا کہ اصحاب ہف کون لوگ تھے؟ تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون بزرگ
 تھے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ زبان سے ان شاء
 اللہ کہنا بھول گئے۔ اس بات کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم
 پیغمبر اللہ تعالیٰ سے بے پروا ہوں۔ لیکن ظاہری طور پر زبان سے یہ الفاظ نہ کہہ سکے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کہ کل کا دن آیا تو یہودیوں نے آکر کہا کہ ہمارے

سوالات کا جواب دو۔ آپ ﷺ نے فرمایا وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ”پندرہ دن وحی نازل نہ ہوئی۔“ یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ کل کا وعدہ تھا جواب دوں گا ابھی اس کا کل نہیں آیا؟ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

آپ ﷺ کے سامنے آ کر بھنگڑے ڈالتے کہ کل نہیں آیا۔ کوئی کہتا اس کا کل قیامت والے دن آئے گا۔ مخالف کو تو بات ملنی چاہیے وہ ان کو مل گئی۔ یہود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اڑایا اور قریش مکہ نے کہا کہ اب اس کا رب ناراض ہو گیا ہے اس لیے وحی نہیں آتی۔ آنحضرت ﷺ کی چچی جس کا نام عورا اور کنیت ام جمیلہ تھی۔ یہ ابولہب کی بیوی اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی سگی بہن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ یہ خاندان قدرتی طور پر سخت مزاج تھا۔ خاندانی اثرات لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اس نے آنحضرت ﷺ کو آ کر کہا کہ وہ تیرا شیطان اب تیرے پاس نہیں آتا وہ تیرا پیچھا چھوڑ گیا ہے قَدْ تَرَكَكَ شَيْطَانُكَ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتی تھی وہ تجھے چھوڑ گیا ہے۔ عجیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

وَالضُّحَىٰ قَسَمٌ هُوَ چاشت کے وقت کی۔ وا قسَمِیہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یعنی جب اس کا اندھیرا چھا جائے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وَمَا قَلَىٰ اور نہ ہی دشمنی کی ہے آپ کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ رات بھی ہے دن بھی ہے۔ جیسے رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا فطری بات ہے۔ رات کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا دن کا

أجالا اور روشنی بھی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعتراضات کے اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وحی کی روشنی بھی آئے گی دن چڑھے گا۔ پندرہ دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا "اور نہ کہیں آپ کسی شے کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔" (پارہ: ۱۵) ان شاء اللہ کے بغیر کل کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ کوئی کام بھی رب چاہے گا تو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے روح کے بارے میں بھی اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی اور ذوالقرنین کے متعلق بھی بتایا اور آپ ﷺ کو آگاہ فرمایا۔

وَمَا قَلِيَ لِّلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاٰوَلٰى اور البتہ آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ دنیا عارضی اور فانی شے ہے۔ اب ہے لمحے کے بعد نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، صبح ہے شام نہیں ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتماد کرے تو نادان ہے۔ آخرت پاسدار ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔

بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم یہ معنی کرتے ہیں کہ اب تک جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کے بعد جو احکام نازل ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔ اس سورت کا گیارہواں نمبر ہے باقی جو ایک سو تین سورتیں نازل ہوں گی وہ بہت بہتر ہوں گی۔ ان میں بہت کچھ ہوگا وَ لَسَوْفَ يَنْعِيْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى اور عن قريب آپ کا رب آپ کو (وہ کچھ) دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند اور عظیم مرتبہ آپ ﷺ کو عطا فرمایا۔ ختم نبوت کی منہر آپ ﷺ کے کندھوں کے درمیان

لگائی۔ جنت میں سب سے عمدہ اور بہترین کوٹھی کا نام وسیلہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی کوٹھی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو دیں گے۔ جس کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں **اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ابْتِغَاءً لِحُجَّتِكَ الْوَسِيْلَةِ**۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ ﷺ راضی ہو جائیں گے۔

آپ ﷺ کی تربیت :

فرمایا **الْمَرْيُوكُ يَتِيْمًا قَاوِي** کیا نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پس آپ کوٹھکا نادیا۔ آنحضرت ﷺ کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ وفات پا گئے۔ آپ ﷺ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد دادا کی تربیت میں تھے چھ سال کی عمر میں مدینہ طیبہ سے جاتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ کیوں کہ ان کے میکے مدینہ طیبہ میں تھے۔ بنو نجار خاندان میں، خادمہ ام ایمن آپ ﷺ کو ساتھ لے کر واپس آئیں۔

پھر آپ ﷺ کی تربیت آپ ﷺ کے دادا نے کی۔ آٹھ سال کی عمر میں اور بعض روایات کے مطابق آپ ﷺ کی عمر مبارک بارہ سال تھی کہ آپ ﷺ کے دادا جان نے اٹھاسی ۸۸ سال کی عمر میں وفات پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔

آخری وقت میں دادا جان بڑے پریشان تھے کہ نہ ماں ہے نہ باپ کا سایہ سر پر ہے بھائی بھی نہیں ہے۔ بیٹوں کے مزاج سے اور بہوؤں کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں تھیں۔ مال و دولت بھی نہیں۔ عالم اسباب میں کوئی سہارا نہیں اس لیے آپ ﷺ کے دادا جان وفات کے وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے۔

لوگوں نے پوچھا کہ آپ کافی پریشان ہیں؟ کہنے لگے اپنے پوتے کے واسطے پریشان ہوں کہ عالم اسباب میں اس کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ بیٹوں میں عبد مناف ابو طالب ظاہری لحاظ سے بڑے شریف الطبع تھے اور بہوؤں میں ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بڑی شریف الطبع بی بی تھی۔ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی نبی ﷺ۔ مگر یہ مالی لحاظ سے سب سے کمزور تھے۔ آپ ﷺ کے دادا جی نے ان دونوں کو بلایا۔ ایک ہاتھ آپ ﷺ کا عبد مناف کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا ہاتھ اپنی بہو کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نگران اور محافظ ہے۔ اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے۔ عبد المطلب کی باقی بہوئیں سخت مزاج تھیں یہ نرم مزاج تھی۔ آٹھ یا بارہ سالہ کی عمر سے لے کر جب آپ ﷺ کی عمر مبارک پچاس سال کی ہوئی۔ نبوت کے دسویں سال آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی ﷺ کی وفات ہوئی اور اسی سال ابو طالب نے بھی وفات پائی۔ تاریخ میں اس کا نام عام الحزن ہے یعنی غم والا سال۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پھر رب تعالیٰ نے ٹھکانا دیا
وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور پایا آپ کو بے خبر فہلہی پس آپ کی راہ نمائی کی۔ اکثر
مفسرین کرام ﷺ یہی معنی کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کو شریعت کے احکام سے بے خبر
پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی راہ نمائی کی۔

سورۃ شوریٰ آیت نمبر ۵۲ میں ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَ
لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا هَدِيًّا بِمَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ” آپ نہیں جانتے تھے کیا ہے کتاب
اور نہ ایمان لیکن ہم نے بنایا اس کو نور ہدایت۔ دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو چاہیں
اپنے بندوں میں سے۔“ نہ آپ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے۔

نفس ایمان تو پیغمبر کا پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل سے آپ بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ نمائی کی۔

بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت! آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو فرمایا **كُنْتُ أَرْعَى لِأَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَرَارِيطٍ** ”میں ٹکے ٹکے پر کے والوں کی بکریاں چراتا تھا۔“ سوئے اتفاق سے ایک دفعہ وہ بکریاں دور چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے راستہ بھول گئے پہاڑیاں تھیں خیال نہ رہا کدھر جانا ہے؟ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ آئے۔ دوسرا دن اور رات بھی گزر گئی، تیسرا دن اور رات بھی گزر گئی۔ سب کو پریشانی ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالا کہ وہ پہاڑ ہمارے دائیں طرف ہوتا ہے اور یہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچا دیا۔

اس زمانے میں انسانوں کی آبادی کم ہوتی تھی جنگلات ہی جنگلات ہوتے تھے بھیڑیے بکثرت تھے۔ یہ بھی گھر والوں کی پریشانی کا سبب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔

اور کمالین وغیرہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر میں ساتھ لے گئے۔ مکہ میں زمین پتھر لی ہے۔ نہ وہاں باغات، نہ زراعت۔ وہاں کے لوگ گزران کے لیے دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کا سفر اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور سال بھر کی روزی

کما لیتے تھے۔ تو شام کے سفر میں ابو طالب آپ ﷺ کو ساتھ لے گئے کہ آپ ﷺ تجارت کارنگ ڈھنگ جانیں کہ تجارت ایسے کرتے ہیں۔ ایک رات آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور قافلے سے دور ہو گئے۔ شیطان نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا۔ اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک بارہ سال تھی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آکر شیطان کو ایک تھپڑ مارا تو وہ دوڑ گیا۔ اور آپ ﷺ کا رخ مبارک قافلے کی طرف پھیر دیا۔ تو آپ ﷺ قافلے سے گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی راہنمائی فرمائی۔

(مرشد مولانا عبدالمجید صاحب جامی جو مدینہ طیبہ میں چالیس سال سے مقیم ہیں اور بڑی مدت قطب الاقطاب حضرت مولانا عبد اللہ صاحب بہلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں شجاع آباد ملتان میں رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہلوی رحمہ اللہ اس جملے کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ **وَوَجَدْنَاكَ مُشْتَاقًا لِهَدَايَةِ فَهَدَيْنَاكَ اِلَى تَحْصِيلِهَا** ”اور پایا ہم نے آپ کو مشتاق ہدایت کے لیے پس ہم نے آپ کی راہنمائی کر دی اس کے حاصل کرنے کی طرف۔“ اور دلیل میں سورہ یوسف کی آیت نمبر ۹۵ پیش فرماتے تھے **قَالُوا** ”یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا **ثَالِثُهُ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ** بے شک آپ یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔“ یہاں ضلال کا ترجمہ محبت ہے۔ از مرتب: محمد نواز بلوچ)

وَوَجَدْنَاكَ عَابِلًا فَاَعْنَى اور پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس، ضرورت مند پس غنی کر دیا۔ آپ ﷺ کی کوئی جائیداد نہیں تھی۔ چچ ابو طالب نے تربیت کی۔ دنیاوی لحاظ سے ایسا بہتر چچا شاید پیدا ہو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے بد قسمت تھا ایمان

نصیب نہیں ہوا۔ اچھا بھلا سمجھتے ہوئے دھڑے بندی کی وجہ سے محروم رہا۔ جب آپ ﷺ کی عمر مبارک پچیس سال کی ہوئی تو عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر خدیجہ الکبریٰ آمادہ ہو جائے تو آپ کے ساتھ نکاح کرادیا جائے۔ کیوں کہ وہ اس سے قبل یکے بعد دیگرے دو خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ سے بھی رائے لی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جیسے چچا جان اور چچی جان کہیں گے میں منظور کر لوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا تھا۔ وہ تجارت کرتی تھیں۔ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ** پس بہر حال یتیم پر پس قہر نہ کر۔ یہ آپ ﷺ کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔

سورة الانعام آیت نمبر ۱۵۲ میں ہے **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ** ”اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔“ اور سورة النساء آیت نمبر ۱۰ میں ہے **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا** ”بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔“ وہ لقمے نہیں کھا رہے وہ دوزخ کی آگ پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور بہر حال سائل کو نہ جھڑک۔ جو صحیح معنی میں سائل ہے اس کو نہ جھڑکو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ذرا تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی پیشہ ور سائل نہیں ہے اور اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی امداد کرو۔ لیکن اگر کسی نے مانگنے پر کمر باندھ لی ہے۔ مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اس کو تنبیہ کرو کہ

اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کیوں مانگتا ہے؟ خصوصاً چھوٹے بچے اور عورتیں کہ وہ اچھے لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور بڑوں کے پاس بھی جائیں گے دن کو بھی جائیں گے اور رات کو بھی جائیں گے۔ ان کے اخلاق خراب ہوں گے، معاشرے میں بُرائی اور خرابی پیدا ہوگی۔ ان کو جھڑک دو کہ تو اچھا بھلا ہے مزدوری کر، محنت کر یہ پیشہ صحیح نہیں ہے بجائے اس کے شریفانہ زندگی بسر کرو۔ مقصد اصلاح ہو تو پھر جھڑکنا صحیح ہے۔ اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے جھڑکتے ہو تو پھر صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور بہر حال اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار شکر ہے۔ ایک شخص میلے لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس صابن نہیں ہے کہ کپڑے دھو لے۔ تیرے پاس کنگھی نہیں ہے کہ سر کے بالوں میں پھیر لے۔ ابوداؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی لگا حضرت! میرے پاس اتنے غلام ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں۔ میں بہت خوش حال بندہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے اس کا اثر تیرے بدن پر نظر آنا چاہیے۔

شرعی دائرے میں رہ کر صاف ستھرا لباس پہننا عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے۔ انسان اپنی حیثیت سے ادنیٰ لباس پہنے بڑی بات ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار قولاً بھی کرو اور فعلاً بھی کرو۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الشُّرُحِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



۸ آیاتہا ۹۳ سُورَةُ الْمُنَشَّرِ مَكِّيَّةٌ ۱۲ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُنَشَّرِ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِي
 اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
 يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ وَ
 اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ

الْمُنَشَّرِ لَكَ کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے صَدْرَكَ
 آپ کا سینہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ اور ہم نے اتار دیا آپ سے وِزْرَكَ
 آپ کا بوجھ الَّذِي اَنْقَضَ وہ جس نے بو جھل کر دیا تھا ظَهْرَكَ
 آپ کی کر کو وَرَفَعْنَا لَكَ اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے
 ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے
 ساتھ آسانی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے
 فَاِذَا فَرَغْتَ پس جب آپ فارغ ہوں فَانصَبْ تو محنت کریں
 وَاِلٰى رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فَارْغَبْ راغب ہو جائیں۔
 نام اور کوائف :

اس سورت کا نام الم نشرح ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں الم نشرح کا لفظ موجود

ہے۔ جس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بارہواں نمبر ہے۔ سورۃ ضحیٰ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ آیتیں ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت اہل عرب کی حالت :

آنحضرت ﷺ جس دور میں مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کے عقائد بہت بُرے تھے۔ اور اخلاقی اعتبار سے اور رسموں کے اعتبار سے ہر طرف بُرائی ہی بُرائی تھی۔ وہ کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اُس میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے تین سوساٹھ بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہود و نصاریٰ کو بھی عقیدت تھی اور مشرکوں کو بھی عقیدت تھی۔ یہ سب کے مشترک بزرگ تھے۔

نجران کے علاقے میں عیسائی تھے۔ انھوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہمارے خاص بزرگوں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کا کوئی مجسمہ کعبہ میں نہیں ہے۔ مکے والوں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے بھی بت رکھ دیئے۔ یعنی ان تین سوساٹھ بتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا بھی بت تھا اور ان میں ایساف اور نائبلہ کا بھی بت تھا۔

ایساف مرد کا نام ہے اور نائبلہ عورت کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہ تھی۔ اُس وقت مخلوق بہت کم ہوتی تھی۔ اب تو الحمد للہ! کعبہ ہر وقت آباد رہتا ہے۔ اس وقت

آدمی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ شام کے وقت لوگ کھانے پینے کے لیے گئے تو ان کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسانی شکل میں ہی پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے بت بھی نصب کر دیئے۔ کچھ عرصہ تک تو لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن بعد والی نسلوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اتنا گند عقیدے کے لحاظ سے تھا کہ وہ گھر جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا وہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی اس کی عبادت کے بجائے دوسروں کی عبادت ہوتی تھی۔

قتل و غارت، ڈاکے عام تھے۔ بلکہ اُس زمانے میں شریف آدمی کو رشتہ ملنا مشکل ہوتا تھا۔ جو رشتہ مانگنے کے لیے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے کتنے ڈاکے ڈالے ہیں اور کتنے آدمی قتل کیے ہیں اور کتنے اغوا کیے ہیں اور کتنے منگے شراب کے پیے ہیں؟ جو اس میں نمبر لے جاتا اس کو بغیر قیل و قال کے رشتہ مل جاتا۔ اور جس کے متعلق کہا جاتا کہ بڑا شریف آدمی ہے اس نے کوئی ڈاکا نہیں ڈالا، کسی کو قتل اور اغوا نہیں کیا۔ تو کہتے بھاگ جاؤ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری لڑکی کی کیا حفاظت کرے گا اس کو کیا کھلائے گا؟ کیوں کہ اُن کے ہاں بہادری کا معیار چوری، ڈاکا، قتل اور اغوا ہی تھا۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا تھا وہ گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔

ایک شاعر بڑی شریف قوم سے تھا جو چوری، ڈاکے، قتل سے گریز کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کی بدخواہی کرتے ہوئے کہتا ہے:

۞ ذَانَّ رَبِّكَ لَمْ يَخْلُقْ بِخَشِيَّتِهِ

سواہم من جميع الناس انسانا

”گویا کہ آپ کے رب نے نہیں پیدا کیے اپنے خوف کے لیے سارے انسانوں میں ان کے سوا کوئی انسان۔“ یعنی ایسا لگتا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے لیے میری قوم پیدا کر دی ہے نہ چوری، نہ ڈاکا، یہ بھی کوئی آدمی ہیں۔ یوں سمجھو کہ شریف ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔

تو ایسے ماحول میں جہاں عقائد درست نہ ہوں اخلاق خراب ہوں اور خراب ہی خراب ہوں اور ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہ ہو ایسے موقع پر حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سارے عرب مخالف،، یہودی مخالف، مشرک مخالف، عیسائی مخالف، قریبی رشتہ دار مخالف، دور والے مخالف، اندروالے مخالف، باہروالے مخالف۔ اور پروگرام ایسا ہے جو ہر ایک کو گولی کی طرح لگتا ہے، رب تعالیٰ کی توحید۔

سورۃ الصّٰفّٰت آیت نمبر ۳۵ پارہ ۲۳ میں ہے اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ”بے شک یہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا تھا لا الہ الا اللہ تو تکبر کرتے تھے۔“ اور سورۃ ص آیت نمبر ۵ پارہ ۲۳ میں ہے اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰۤؤَاۤجِدًا ۙ اِنَّ هٰذَا شَيْءٌ عَجَابٌ ”کیا کر دیا ہے اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے۔“

سب معبودوں کا انکار کر کے کہتا ہے ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ایسے ماحول میں حق بیان کرنا سخت مشکل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ اتنا بھاری کام آپ کے سپرد کیا اور ہمت دی کہ شرح صدر ہو گیا کہ ان شاء اللہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ نہ توحید کا مسئلہ مشکل نظر آیا، نہ قیامت کا بیان کرنا

اور ان کے جتنے غلط عقائد تھے ان کو احسن طریقے سے رد کیا اور حق کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا سینہ مبارک ایسا کھولا کہ نہ اس میں کوئی لالچ تھا اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف تھا۔

حسی طور پر آپ ﷺ کا چار مرتبہ شق صدر ہوا :

یہ شرح صدر تو باطنی طور پر تھا اور ظاہری طور پر بھی شرح صدر کیا کہ آنحضرت ﷺ کی عمر مبارک جب تقریباً چار سال کی تھی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ ان کی بیٹی تھی شیماء رضی اللہ عنہا۔ آپ ﷺ ان کے ساتھ تھے اور بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر تھے کہ دو آدمی سفید لباس میں آئے اور آپ ﷺ کو لٹا کر چھاتی کو چاک کیا۔ یہ شق صدر ہوا۔ شیماء رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی گئیں کہ امی جان! امی جان! بھائی کو کوئی مار گیا ہے۔ آدمی آئے ہیں انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ آپ ﷺ کی چھاتی دیکھی تو معمولی سا نشان تھا اور آپ ﷺ پریشان تھے۔ آپ ﷺ کو سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا۔ اس کے بعد پھر پیچھے پیغام کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جنہوں نے آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا اور وہ مواد صاف کر دیا کہ جس سے بچوں کا میلان کھیل کود کی طرف ہوتا ہے۔

دوسری مرتبہ آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ ﷺ جوان ہوئے اور جوانی میں جو طبعی خیالات ہوتے ہیں ان سے پاک کر دیا گیا۔

تیسری مرتبہ آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ ﷺ غار حرا کے سامنے جبل نور کی چوٹی پر تھے جس پر آج کل انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے۔ (آج کل

اس جگہ کھوکھے بنا کر دکائیں بنائی ہوئی ہیں۔ مرتب (سینہ چاک کر کے اس میں کچھ چیزیں رکھ دی گئیں تاکہ آپ ﷺ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکیں۔

چوتھی مرتبہ آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ ﷺ کو معراج کرایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کا گھر حجر اسود سے ایک سو ستر قدم کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اب وہ مسجد حرام کے اندر آ گیا ہے۔ اسی طرف باب ام ہانی بھی ہے۔ دروازے کے اندر اور باہر دونوں طرف لکھا ہوا ہے ”باب ام ہانی“۔

آپ ﷺ کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور آپ ﷺ درمیان میں تھے۔ تین فرشتے آئے ان میں ایک جبریل علیہ السلام تھے۔ آپس میں گفتگو کی کہ ہمارا مطلوب جس کو ہم نے لے کر جانا ہے کون ہے؟ دوسرے نے کہا اَوْسَطُهُمْ وَهُوَ خَيْرُهُمْ ”ان کے درمیان میں جو ہے اور وہ سب سے بہتر ہے۔“ وہ ہمارا مطلوب ہے۔ آپ ﷺ کو آہستہ سے اٹھایا، چھت پھاڑی اور لے گئے۔ چھت پھر مل گئی ایسے کہ جیسے چھت کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ اور حطیم میں آپ ﷺ کو لٹایا گیا اور آپ ﷺ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اسے آب زم زم سے دھویا گیا۔ پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا جس میں علم و حکمت تھی۔ اس سے آپ ﷺ کے سینے کو بھر دیا گیا۔

یہ حسی طور پر چار دفعہ آپ ﷺ کا شق صدر ہوا مگر آپ ﷺ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ عموماً جتنے آپریشن ہوتے ہیں ان کے بعد آدمی کچھ دن ہل جل نہیں سکتا چاہے آپریشن کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں۔ لیکن رب تعالیٰ کا آپریشن تو رب

تعالیٰ کا آپریشن تھا وہ فوری طور پر صاف ہو جاتا تھا۔

فرمایا **وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ** اور ہم نے اُتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ۔
یعنی جو کام آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کو بھاری نظر آتا تھا ہم نے آسان کر دیا۔ عالم اسباب میں اس کی
یہ صورت بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق **رضی اللہ عنہ**، حضرت عمر **رضی اللہ عنہ**، حضرت
عثمان **رضی اللہ عنہ**، حضرت علی **رضی اللہ عنہ**، حضرت عبدالرحمن بن عوف **رضی اللہ عنہ**، حضرت زبیر **رضی اللہ عنہ**، حضرت
سعد **رضی اللہ عنہ**، حضرت عبداللہ بن مسعود **رضی اللہ عنہ**، حضرت بلال **رضی اللہ عنہ**، حضرت خباب بن ارت **رضی اللہ عنہ**
جیسے مخلص اور جانناز ساتھی عطا فرمائے جو جان پر کھیل کر بھی حق کی آواز بلند کرنے والے
تھے۔ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے اندر قوت عطا فرمائی اور ظاہری طور پر ایسے مخلص ساتھی
عطا فرمائے کہ دنیا میں اُن کی نظیر نہیں ملتی۔

تو فرمایا اور ہم نے اُتار آپ سے آپ کا بوجھ **الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ**
جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پشت کو۔ وزنی چیز آدمی اُٹھائے تو کمر کو تکلیف ہوتی ہے
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ کلمے میں
آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان میں آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کا نام **أَشْهَدُ أَنْ**
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں اور پوری دنیا
میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کا نام بلند ہو رہا ہے، ہر وقت گونج رہا
ہے۔ مرتب)

التحیات میں آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** کا نام ہے چاہے فرض نماز ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا
نفل ہو، جمعہ ہو یا عید ہو۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں التحیات اور درود شریف نہ پڑھا
جائے۔ اسی طرح خطبہ میں بھی چاہے جمعہ کا ہو یا عید کا ہو یا نکاح کا ہو اس میں باقاعدہ

آپ ﷺ کا نام آتا ہے۔ اور جو مقرر تقرر کرتا ہے سنت کے مطابق اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ ﷺ کی رسالت کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی آپ ﷺ کا نام لکھا ہوا تھا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴿الاعراف: ۱۵۷﴾ ”وہ جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔“ تمام کتابوں میں آپ ﷺ کا نام۔

فرمایا آپ پریشان نہ ہوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ تکلیف نہیں رہتی تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی گرامر کا ضابطہ ہے کہ جس لفظ پر الف لام آئے اس کو معرفہ کہتے ہیں اور جس اسم پر الف لام نہ ہو مکرمہ کہتے ہیں۔ الْعُسْرُ معرفہ ہے اور یسر مکرمہ ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ معرفہ دوبارہ آئے تو بھی پہلا ہی ہوتا ہے اور مکرمہ دوبارہ آئے تو دوسرا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ تنگی ایک ہوگی آسانیاں دو ہوں گی۔ مگر انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تنگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ظفر مرحوم جو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا اس کا شعر ہے:

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

عیش میں جو خدا کو بھول جائے اور طیش میں رب کے خوف سے بے نیاز ہو جائے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت :

سرمایا فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَنْصِبْ پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ اکثر مفسرین کرام رضی اللہ عنہم اس کا یہ مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔ احادیث میں جن اوقات میں دعاؤں کے قبول ہونے کا ذکر ہے ان میں سے ایک بعد الصلوٰۃ المکتوبہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے سحری کے وقت میں خاص طور پر دعاؤں میں قبولیت پائی جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح سنت سے ثابت ہے۔ کچھ غیر مقلد شور مچاتے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کے فتوے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ضد کرے تو اس کا جواب نہیں ہے۔

بعض اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تبلیغ سے فارغ ہو تو دعا کرو۔ تبلیغ دین بہت اونچا مقام ہے۔ پیغمبروں والا کام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی اور عبادت کے بعد دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد سے فارغ ہوں تو دعا کریں۔ لیکن جہاد تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا وہ تو مدینہ طیبہ میں فرض ہوا ہے۔ اس لیے پہلی تفسیریں صحیح ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا، سحری کے وقت دعا، تبلیغ کے بعد دعا، نہایت عاجزی اور مشقت سے۔

اور فرمایا وَاللّٰی رَبُّكَ فَارْعَبْ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں یہی سمجھ کر کہ وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے اور کوئی داتا نہیں ہے۔ وہی حاجت روا اور

مشکل کشا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی دست گیر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت مضامین ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ التَّيْنِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten signature or name in the center of the page.

ایاتھا ۸ ۹۵ سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ ۲۸ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ
 سَفِیْلِیْنِ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ
 غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ فَمَا یَكْفُرُ بِكَ بَعْدُ بِالْاِیْمٰنِ ۝ اَلِیْسَ اللّٰهُ
 بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

وَالتِّينِ قسم ہے انجیر کی وَالزَّيْتُونِ اور قسم ہے زیتون کی
 وَطُورِ سِیْنِیْنِ اور قسم ہے طور سینا کی وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ اور قسم
 ہے اس امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا
 انسان کو فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ اچھی ترکیب میں ثُمَّ رَدَدْنٰهُ
 پھر ہم نے لوٹایا اس کو اَسْفَلَ سَفِیْلِیْنِ نیچوں سے نیچے اِلَّا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوْا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور عمل کیے اچھے
 فَلَهُمْ اَجْرٌ پس ان کے لیے اجر ہے غَیْرُ مَمْنُوْنٍ نہ ختم ہونے
 والا فَمَا یَكْفُرُ بِكَ (پس اے انسان) کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور
 کرتی ہے تجھے بَعْدُ یہ سننے کے بعد بِالْاِیْمٰنِ بدلے کے دن کو

أَلَيْسَ اللَّهُ كَمَا نَهَيْتُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى بِأَحْكَمِ الْحُكْمِ سَبَّ
حاکموں سے اچھا حاکم۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ التین ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تین کا لفظ موجود ہے۔
جس سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سے پہلے ستائیس ﴿۲۷﴾ سورتیں نازل ہو چکی
تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھائیسواں ﴿۲۸﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور
آٹھ ﴿۸﴾ آیتیں ہیں۔

وَالَّتَيْنِ وادقسم کا ہے۔ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام
رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ شام کے علاقے میں دو پہاڑ ہیں تین اور زیتون۔ یعنی تین اور زیتون
پہاڑوں کے نام ہیں۔ ان دو پہاڑوں کی قسم ہے۔ یہ حضرات قرینہ یہ پیش کرتے ہیں کہ
طور سینین بھی پہاڑ ہے۔ اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو طور بھی جگہ کا نام ہے، بلد
امین بھی جگہ کا نام ہے۔ اس مناسبت سے تین سے بھی پہاڑ مراد ہے اور زیتون سے بھی
پہاڑ مراد ہے جو جگہ کے نام ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ تین سے
انجیر مراد ہے جو کہ پھل ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے رکھے ہیں۔ پہلی
بات یہ ہے کہ یہ ایسا پھل ہے کہ جس میں گٹھلی نہیں ہے۔ آم، آلو بخارا، خوبانی وغیرہ میں
گٹھلی ہوتی ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے اس میں بہت فائدے ہیں۔

انجیر کے فوائد :

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر اس کے بہت

ناندے لکھے ہیں۔ نمبر ایک بوا سیر کا علاج ہے۔ نمبر دو رنگوں میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں انجیر کے ذریعے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ بلغمی مادہ جمع ہو جائے تو فالج ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی خارج کرتا ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے بطور علاج کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہے اور دوسرے دردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں تازہ ہو یا خشک۔

بعض دفعہ ہاتھوں اور پاؤں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جس کو گنٹھیا کہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے حکیم حضرات مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کے اندر یقین رہا ہے اور نہ اس کی طرف توجہ ہے (ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان سادہ دیسی علاجوں میں بڑا اثر رکھا ہے۔

زیتون کے فوائد :

اور زیتون درخت ہے جس کے پھل سے تیل نکلتا ہے۔ یہ تیل خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ طبی نقطہ نظر سے جانوروں کا گھی جس کو ہم دیسی گھی کہتے ہیں، مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، بدن سے کام لیتے ہیں ان کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ اور جو لوگ بدنی کام نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں ان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں رب تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اعصاب کو تقویت بخشتا ہے۔ معدے میں جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں ان کو خارج کرتا ہے۔

(نوٹ: اپنے حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔)

علاقے علاقے کا بڑا فرق ہوتا ہے اور مزاج کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معدے

زیادہ گرم شے برداشت نہیں کرتے۔ مرتب)

اور زیتون دردوں کے لیے مالش کے طور پر مفید ہے۔ ہمارے ہاں چوں کہ رواج نہیں ہے اور مہنگا بھی ہے اور ہم گھی کھانے کے عادی ہیں اس لیے ہمیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا اور نہ دیسی گھی سے یہ بہت اچھا ہے۔

تو فرمایا **وَالْتَيْنِ** قسم ہے انجیر کی **وَالزَّيْتُونِ** اور قسم ہے زیتون کی **وَظُورِ سِينِينَ** اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر بارہا حضرت موسیٰ عليه السلام اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہم کلام ہوئے۔ سینین کے تین معانی مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بیان فرمائے ہیں۔

..... ایک معنی ہے برکت والا۔

..... دوسرا معنی ہے **حَسَنٌ** خوب صورت۔ طور پہاڑ بڑا خوش نما ہے۔

..... تیسرا معنی ہے پھلوں والا۔ طور پہاڑ پر جو درخت ہیں وہ پھل دار ہیں۔

قرآن کریم میں سینین بھی آیا ہے اور سینا بھی آیا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

چار مقامات پر دجال نہیں جا سکے گا :

دجال لعین جب آئے گا تو ساری دنیا میں گھومے گا۔ دنیا کا کوئی حصہ اس کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں رہے گا مگر چار مقامات پر نہیں جا سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔

دوسرا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی انتہائی کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کو

داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سڑکوں پر فرشتوں کا سخت پہرہ ہوگا۔ پھر مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا اور کچے قسم کے لوگ جو دجال کے مرید ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے۔ اور کچے قسم کے لوگ حرکت نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ موت تو ہے ہی ہم مدینہ کیوں چھوڑیں۔

تیسرا مقام بیت المقدس ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام صہیون ہے۔ آج کل صحافی اس کو صہیون لکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اصل صہیون ہے بروزن برزون۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے جیسے ہمارا کوہ مری ہے۔ اس پہاڑ پر یہ شہر آباد ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں مسجد اقصیٰ ہے جس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان کا دل چاہے تو مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے دیتے ہیں نہ چاہے تو نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن اُس وقت اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور اسباب پیدا کرے گا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا باوجود کوشش کرنے کے۔

اور چوتھا مقام کوہ طور ہے کہ اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن توفیق نہیں ہوگی۔ یہ چار مقامات دجال لعین کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہیں گے۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بھی امن کا شہر تھا۔ کافر، مشرک لوگ بھی حرم میں نہیں لڑتے تھے۔ اگر کوئی نادان لڑائی کرتا تو کہتے حرم حرم یعنی حرم کا احترام کر یہاں نہ لڑ۔ اس کے ارد گرد سے لوگ اٹھالیے جاتے تھے وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

﴿العنكبوت: آیت: ۶۷، پارہ: ۲۱﴾ ”اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اردا گرد سے۔“ قتل ہوتے، ڈاکے پڑتے لیکن وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿آل عمران: ۹۷﴾ ”اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔“ اس کو پورا امن نصیب ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اعلیٰ ٹکڑا کون سا ہے؟ لیکن یہ اختلاف زمین کے اُس ٹکڑے کے علاوہ ہے جہاں آنحضرت ﷺ مدفون ہے۔ یعنی آپ ﷺ کی قبر مبارک کا مقام۔ کیوں کہ وہ جگہ عرش سے، لوح سے، قلم سے، بیت اللہ سے، جنت سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ جو ذات وہاں آرام فرما ہے وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ پھر اس ٹکڑے کے بعد بیت اللہ سب سے افضل ہے۔ اس کا بہت بلند مقام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں عزت والی چیزیں جن کو شعائر اللہ کہتے ہیں بہت سی ہیں مگر چار اہم ہیں۔ ایک قرآن کہ اس کا احترام اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسرا نبی کا وجود۔ تیسرا نماز اور چوتھا کعبۃ اللہ۔ یہ چار چیزیں شعائر اللہ میں معظم ہیں۔

پہلے چار چیزوں کی قسم تھی اب جواب قسم ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اچھی ترکیب میں۔ انسان کا بدن دیکھو! اور جانوروں کا بدن دیکھو! انسان کو جیسی قد و قامت اور وضع قطع اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مخلوق میں اور کسی کو نہیں دی۔ قد دیکھو، ہاتھ پاؤں دیکھو، آنکھیں دیکھو، سوچنے کے لیے دل دیا، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بہت کچھ دیا ہے۔ اچھی ترکیب اور اچھی صورت میں انسان کو پیدا فرمایا۔ ساری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ”اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو۔“

مجموعی لحاظ سے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ مجموعی کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تک سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے۔ ان کی وجہ سے اس نوع کا پلہ بھاری ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ فرشتے اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم ہیں اور انسان اپنی نوع کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر ہیں۔ امام بھی معصوم نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے رافضیوں کے کفر کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ اپنے بارہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ اور غیر معصوم کو معصوم سمجھنا بھی کفر ہے۔ بے شک اماموں کا اپنی جگہ مرتبہ اور مقام ہے مگر معصوم نہیں ہیں۔

فرمایا **فُتِرَ دَذَنُهُ اَسْفَلَ سَفَلِیْنِ** پھر ہم نے لوٹا یا اس کو نیچوں سے نیچے۔ انسان انسان رہے تو بڑی بلند مخلوق ہے لیکن جب انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو **سُرَّ الدَّبْرِیَّةِ** ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے بڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل میں آتا ہے کہ کتا کتیا بھی سوار ہوئے، بلا بلی بھی سوار ہوئے، چوہا چوہی بھی سوار ہوئے، خنزیر اور خنزیرنی بھی مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جگہ نہ ملی کہ وہ انسانیت سے گر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرمایا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھ کر کہا **رَبِّ اِنَّ اِبْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ ﴿ہود: ۴۵﴾** ”اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ**۔ ”بے شک وہ نہیں ہے آپ کے اہل میں سے **اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ** اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔“

پنمبر کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے کشتی میں جگہ نہیں ملی اور کتے اور خنزیر کو جگہ مل گئی۔ انسان اگر انسان ہو تو بہت بلند ہے۔ جب گر جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انھی انسانوں میں سے منافق ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿النساء: ۱۴۵﴾ ”بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“

تو فرمایا پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا بچوں سے نیچے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے اچھے۔ ان کے درجے بلند ہوں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ پس ان کے لیے اجر ہو گا نہ ختم ہونے والا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوانی میں، صحت میں نیکیاں زیادہ کرتا تھا مگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اسی طرح لکھتے جاؤ جس طرح وہ جوانی میں کرتا تھا۔ مثلاً: جوانی میں وہ مسجد میں آتا تھا بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا تو اس کے آنے جانے کے ہر قدم پر جو نیکیاں لکھی جاتی تھیں اب بھی اسی طرح لکھی جائیں گی اگرچہ اس نے کی نہیں ہیں۔ درس سننے کے لیے آتا تھا تو ہر قدم پر سات، سات سو نیکیاں ملتی تھیں۔ اب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا یہ نیکیاں برابر لکھی جائیں گی۔

اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک پکا ملازم ہوتا ہے اور ایک کچا ملازم ہوتا ہے۔ کچا ملازم دیہاڑی دار ہوتا ہے۔ آئے گا دیہاڑی ملے گی نہیں آئے گا نہیں ملے گی۔ چھٹی کرے گا تو اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ مگر جو پکا ملازم ہوتا ہے اس کو چھٹی کی بھی تنخواہ ملتی ہے اور

ریٹائر ہونے پر پنشن بھی ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ ہم رب تعالیٰ کے پکے ملازم ہو جائیں۔ تو جو پکے ملازم ہیں ان کو بڑھاپے اور بیماری میں بھی پورا اجر و ثواب ملتا ہے ان اعمال کا جو وہ جوانی اور صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔

فرمایا **فَمَا يَكْذِبُكَ** پس اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے تجھے **بَعْدُ** یہ سننے کے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں پیدا کیا ہے **بِالَّذِينَ** حساب کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جو رب پیدا کر سکتا ہے دوبارہ نہیں لوٹا سکتا؟ کیوں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ** کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے اچھا حاکم۔ حق والا، عدل والا، انصاف والا حاکم نہیں ہے؟

اگر قیامت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ دنیا میں سچے کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو صحیح فیصلہ نہ ہوا۔ اگر آخرت نہ آئے اور عدل و انصاف قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت معاذ اللہ تعالیٰ اندھیرنگری ہے سچ جھوٹ میں فرق نہ ہوا، سچے اور جھوٹے کا پتہ نہ چلا، حق و باطل کا علم نہ ہوا، مومن اور کافر کا علم نہ ہوا، موحد اور مشرک کا نتیجہ نہ نکلا، سنی اور بدعتی کا پتہ نہ چلا۔ تو عقلی طور پر قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے۔

اس آیت کریمہ کو جب پڑھتے تو آپ **صلى الله عليه وسلم** خود بھی پڑھتے تھے **بَلَى نَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ** اور صحابہ کرام **رضي الله عنهم** بھی پڑھتے تھے۔ نماز میں نہیں نماز کے بعد، نماز کے علاوہ جب یہ آیت کریمہ **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ**

تو کہو بلی نحن علی ذلك من الشاهدين کیوں نہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْعَلَقِ

(مكمل)

جلد ۲۱

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as dark, stylized strokes on a white background.

آیتها ۱۹ ۹۶ سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ ۱ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝ اِنَّ رَاةً اَسْتَعْتَبَ ۝
اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۝ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا اِذَا
صَلَّىٰ ۝ اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلٰى الْهُدٰى ۝ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝
اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى ۝ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ۝ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ ۝ فَلَئِنَّ نَادِيَهُ ۝ سَدَّعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا
لَا تَطْعَمُهُ ۝ وَاَسْبَدُ ۝ وَاَقْتَرَبُ ۝

۱۱۱
۱۱۱
۱۱۱

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ۝ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ
الَّذِي خَلَقَ ۝ جس نے پیدا کیا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اس نے پیدا
کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے اِقْرَأْ ۝ آپ پڑھیں وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ۝ اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے عَلَّمَ الْاِنْسَانَ ۝ سکھایا انسان کو

مَا لَمْ يَعْلَمْ وَه كَچھ جو وہ نہیں جانتا تھا كَلَّا خبردار إِنَّ الْإِنْسَانَ
 بے شک انسان لَيَظْفَى البتہ سرکشی کرتا ہے أَنْ رَأَاهُ کہ وہ
 دیکھتا ہے اپنے آپ کو اَسْتَغْفِي بے پروا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي
 بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي كِیَا دیکھا ہے
 آپ نے اس شخص کو يَنْهَى جو منع کرتا ہے عَبْدًا بندے کو إِذَا
 صَلَّى جب وہ نماز پڑھتا ہے أَرَأَيْتَ آپ بتلائیں إِنْ كَانَ
 عَلَى الْهُدَى اگر ہے وہ (نماز پڑھنے والا) ہدایت پر أَوْ أَمَرَ
 بِالتَّقْوَى یا وہ حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
 آپ بتلائیں اگر (وہ روکنے والا) جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ
 کیا وہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
 كَلَّا خبردار لَيْسَ لِمَنْ يَنْتَهٰهُ اگریہ باز نہ آیا لَنْسَفَعًا البتہ ہم
 گھسیٹیں گے بِالنَّاصِيَةِ پیشانی سے پکڑ کر نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ
 خَاطِئَةٍ جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے فَلْيَدْعُ پس وہ بلائے
 نَادِيَهُ اپنی مجلس والوں کو سَنَدْعُ ہم بلائیں گے الزَّبَانِيَةَ
 پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو كَلَّا خبردار لَا تُطْعَمُهُ
 آپ اس کی اطاعت نہ کریں وَاسْجُدْ اور سجدہ کرو وَاقْتَرِبْ اور
 قریب ہو جاؤ۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں علق کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پوری تو نہیں لیکن اس کی پہلی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو نزول کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور انیس ﴿۱۹﴾ آیتیں ہیں۔

شان نزول :

اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ غار حرا جبل نور کی چوٹی پر آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے۔ پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام فاران تھا۔ یہ کافی دشوار گزار پہاڑ ہے۔ اس پر چڑھنا کافی مشکل ہے۔ ہمت والے لوگ چڑھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں، پانی کی صراحی، ستوا اور خشک روٹی جو بھی خوراک اس وقت میسر ہوتی تھی ساتھ لے کر کئی کئی دن اور راتیں وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ پیغمبر پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی شرک کے قریب نہیں جاتا۔

اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین تو اکثریت نے مسخ کر دیا تھا لیکن کچھ خال خال بندے اس دین پر چلنے والے موجود تھے۔ انھی لوگوں میں سے حضرت عمر بن الخطاب کے چچا زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے چند دن پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یہ مشرکوں کی سخت تردید کرتے تھے کہ ظالمو! تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بت پرستی شروع کی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے۔ تو خیر حضرت جبرئیل علیہ السلام جبل نور پر انسانی شکل میں تشریف لائے۔ ان کے

ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ نکل کر آپ ﷺ کے سامنے گیا اور کہا
 اِقْرَأْ اَبْ پڑھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مَا اَنَا بِقَارِیْ ؕ میں پڑھا ہوا نہیں
 ہوں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبا یا اور کہا
 اِقْرَأْ پڑھو۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا مَا اَنَا بِقَارِیْ ؕ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
 تیسری مرتبہ پھر جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اِقْرَأْ پڑھ
 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، سے لے
 کر مَا لَمْ یَعْلَمْ تک پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو قاعدہ پڑھاؤ اور کہو پڑھ بسم اللہ!
 تو وہ ساتھ پڑھتا ہے۔ جو کہتے جاؤ گے وہ ساتھ پڑھتا جائے گا۔ آپ ﷺ کی عمر
 مبارک چالیس سال کی تھی اور ذہن بھی کامل اور صاف تھا تو آپ ﷺ کو ساتھ پڑھنے
 میں کیا دشواری تھی؟ اور فرمایا کہ مَا اَنَا بِقَارِیْ ؕ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟
 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ سمجھا کہ کپڑے پر جو
 الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے متعلق مجھے فرما رہے ہیں کہ پڑھو۔ تو فرمایا کہ میں پڑھا ہوا
 نہیں ہوں۔ بعد میں حقیقت کھلی کہ وہ کپڑا تو جبرئیل اپنی یادداشت کے لیے لائے تھے
 پڑھانا تو زبانی تھا۔

جس وقت یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت آپ ﷺ کے حضرت خدیجہ
 الکبریٰ نبیہؓ کے ساتھ نکاح کو پندرہ سال گزر چکے تھے اور حضرت زینب، حضرت رقیہ،
 حضرت ام کلثوم اور حضرت قاسم نبیؓ سب پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نبیہؓ
 نبوت والے سال سدا ہوئی ہیں۔ آپ ﷺ جس وقت گھر تشریف لائے تو بڑے

گھبرائے ہوئے تھے۔ فرمایا زَمَلُونِی زَمَلُونِی ”مجھے کبل اوڑھا دو، مجھے کبل اوڑھا دو۔“ آپ ﷺ کو کبل اوڑھایا گیا۔ فرمایا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑے حوصلے والی بیوی تھیں۔ کہنے لگیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ۔ پہلے مشرک تھا پھر عیسائی ہو گیا۔ لوگوں کو انجیل عربی اور عبرانی زبان میں لکھ کر دیتے تھے اور لکھوائی لے کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ اُس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے سنو! یہ کیا سناتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں تھا میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اقراء، پڑھو! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تین دفعہ اس نے مجھے سینے کے ساتھ لگا کر دبایا۔ پھر وہ پڑھتا گیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔

ورقہ بن نوفل نے کہا ذَلِكِ النَّامُوسُ الَّذِي ”یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اُس وقت تک زندہ رہوں جس وقت لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں تمہاری مدد کروں۔“ بخاری شریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا مجھے لوگ یہاں سے نکالیں گے؟ اُس نے کہا ہاں! جو بات

آپ ﷺ نے ان سے کہنی ہے وہ جس پیغمبر نے بھی کہی ہے اس پر سختی آئی ہے۔ بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو نکالا گیا۔ ورقہ بن نوفل فوت ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ حضرت! ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ان کو ایسا لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ دوزخیوں کا نہیں ہو سکتا وہ جنتیوں کا لباس ہے۔

ورقہ بن نوفل نے آپ ﷺ کی تصدیق بھی کی تھی کہ آپ ﷺ سچے پیغمبر ہیں اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں پوری قوت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ یہی تصدیق ہے۔ اسی لیے اسماء الرجال والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہیں آپ ﷺ پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے واضح طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی تھیں۔ لہذا اولیت ان کو حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ پانچ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا اِقْرَأْ پڑھ بِاسْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کے ساتھ الَّذِي خَلَقَ جس نے پیدا کیا خَلَقَ الْاِنْسَانَ اس نے پیدا کیا انسان کو مِنْ عَلَقٍ لوتھڑے سے۔ منی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے پھر وہ سخت ہو کر بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ پھر چار ماہ بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں روح پھونک دیتے ہیں۔ پانچ ماہ بچہ بغیر سانس لیے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے مرتا نہیں۔ مگر وہی بچہ

پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوانہ ہو تو مر جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کم و بیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

فرمایا اِقْرَأْ اَبْ پڑھیں وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ قلم کے ذریعے نشر و اشاعت ہوتی ہے اور علم پھیلتا ہے عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان چیزوں کی تعلیم دی جن کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ دنیا کا علم حاصل ہوا، آخرت کا بھی علم حاصل ہوا۔ آج انسان زہرہ ستارے تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

جس وقت آنحضرت ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہما ربوت کیا تو سب سے پہلے ابو جہل مقابلے میں آیا۔ یہ بڑا اکھڑ مزاج اور ضدی آدمی تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا ابو الحکم یعنی چیف جسٹس تھا۔ اس نے سمجھا کہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی تو مخالفت شروع کر دی كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيْطَغِي میں انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَلَّا خَبِرُوا! اِنَّ الْاِنْسَانَ لَبَشَكٍ انسان یعنی ابو جہل لَيْطَغِي البته سرکشی کرتا ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اَنْ رَّاهُ اسْتَغْفِي کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے پروا دیکھتا ہے اپنے آپ کو مالی اعتبار سے کہ مکہ مکرمہ میں دوسرے نمبر کا مال دار تھا۔ پہلا نمبر ولید بن مغیرہ کا تھا جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس سے بڑا کوئی مال دار نہیں تھا۔ فرمایا اے انسان! اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجْعِي بے شک تیرے رب کی

طرف لوٹنا ہے۔ قیامت کو نہ بھولنا رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ کتنا استعمال کر لو گے؟ کتنا عرصہ سرکشی اور نافرمانی کرو گے؟ ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور نتیجہ بھگتنا ہے۔ یقین جانو! جس آدمی کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے اول تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا۔ اگر بہ مقتضائے بشریت ہو گیا تو اصرار نہیں کرے گا فوراً توبہ کرے گا۔ اور وہ آدمی جو موت، قبر، آخرت سے بے فکر ہے اس کی زندگی، حیوانوں والی ہے، جو چاہے کرتا پھرے آخرت میں رسوا ہوگا۔

فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي كَيْدًا يَكْتُمُكَ اَبُو جَهْلٍ كُو
 يَنْهَىٰ وَهُوَ رُو كَتَا هُ عَبْدًا بِنْدَةَ كُو عِنِي حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو اِذَا صَلَّى جِب هُو نَمَازٍ پُزْهَتِي هِي۔ اَنْحَضْرَتِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَازٍ پُزْهَتِي تَحِي وَهُ مَنَعُ كَرَتَا تَحَا۔ پَهْلِي وَحِي كِي بَعْدُ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي اَبِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو وَصُو كَا طَرِيْقَةُ بَتَلَا يَا كِي اِس وَوَقْتِ نَفْلِي نَمَازِ تَحِي فَجْرٍ، چَاشْتِ اُوْر عَصْرِ كِي۔ يِه تِيْنِ نَمَازِيْنَ اَبِي صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پُزْهَتِي تَحِي مَسْجِدِ حَرَامِ مِيْن۔ اُس وَوَقْتِ مَسْجِدِ حَرَامِ كَا تَهُوْزَا سَارِقُبِه تَحَا۔ اَنْحَضْرَتِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَب كَعْبَةُ اللّٰهِ كِي سَامِنِي نَمَازٍ پُزْهَتِي تُو اَبُو جَهْلٍ كِهْتَا اَكْرِي مِيْن نِي تَحِي دُو بَارِه نَمَازٍ پُزْهَتِي دِي كِهْتَا تُو تِيْرِي گَرْدَنِ كِچَلِ دُوْنِ گَا، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ تَعَالَىٰ۔

چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ جس وقت یہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آگے بڑھا مگر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تم جلدی واپس لوٹ آئے؟ کہنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ تھی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ کر

مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔

فرمایا **أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ** آپ بتلائیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہو **أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى** یا وہ پرہیزگاری کا حکم کرتا ہو۔ وہ اتنے کام کرتا ہے اس لیے یہ منع کرتا ہے **أَرَأَيْتَ** کیا دیکھا ہے تو نے **إِنْ كَذَّبَ** اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہے **وَتَوَلَّى** اور اعراض کرتا ہے حق سے **الْمُيَعَلِّمَ** کیا وہ نہیں جانتا **بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى** کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس سرکش کی تمام حرکات کو۔ یہ جو روکنے والا ہے، بدکردار ابو جہل عمرو بن ہشام، اس کو علم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے۔ کب تک یہ روکے گا اور کس کس کو روکے گا؟

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ رحمن شروع کی ہوئی تھی۔ کافروں نے آکر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں **مَا زَالَ آعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ** ”جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس کے بعد ہم طاقت ور سمجھے جاتے تھے۔“ پہلے جو لوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ ڈرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مظلوموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، غلاموں پر، لونڈیوں پر۔

فرمایا **كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ** خبردار البتہ اگر وہ روکنے والا باز نہ آیا **لَنَنْفَعَنَّ** البتہ ہم گھسیٹیں گے **بِالتَّاصِيَةِ** پیشانی سے پکڑ کر یعنی پیشانی کے بالوں کو

پکڑ کر ناصیۃ کاذبۃ خاطئة جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یعنی ہمارے فرشتے آئیں گے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے یہ کون ہوتا ہے ہمارے بندے کو نماز سے روکنے والا۔

ابو جہل یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بھری ہوتی ہے تیرے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ یہ خباب، بلال، اور چند لوگ، لنگڑے تیرے ساتھ ہیں۔ جن پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فليذع ناديه پس وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو۔ نادی کا معنی مجلس، محفل۔ جس مجلس اور محفل پر گھمنڈ کرتا ہے بلائے ان کو سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةِ ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ (زبانیہ کی جمع ہے) دراصل اس عملے کو کہتے ہیں جو سختی کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقرار برائے۔ جیسے پولیس والے کہ مار مار کر جرم کا اقرار کرواتے ہیں۔ بعض بے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مار سے بچنے کے لیے۔

تو زبانیہ فرشتوں کا وہ سخت محکمہ ہے جو يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَاذْبَارَهُمْ جان قبض کرتے وقت کافروں کے مونہوں اور پشتوں پر کوڑے برساتے ہیں۔ وہ مرنے والا ہی جانتا ہے دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔

تو فرمایا ہم بلائیں گے اپنے پٹائی کرنے والے جتھے کو، شاف کو کلا خردار لَا تُطْعَمُ آپ اس کافر کی اطاعت نہ کریں نماز سے نہ رکیں۔ جتنا آپ کا جی چاہتا ہے ڈٹ کر نماز پڑھیں وَاسْجُدْ اور سجدہ کر اپنے رب کے سامنے وَاقْتَرِبْ اور قرب حاصل کر اپنے رب کا۔ اس کافر کے کہنے میں نہ آنا۔ یہ سجدے کی آیت ہے جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا اس پر بھی سجدہ واجب ہے اور جو سنے گا اس پر بھی سجدہ واجب

ہے۔ مثلاً: اب میں نے پڑھی ہے اور جن مرد عورتوں نے سنی ہے سب پر سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ اب تو وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا کیوں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سجدہ کرنا ہے۔

سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ با وضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت بھی ہو، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت نہیں کر سکتا۔ ان تین وقتوں کے سوا جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ کیوں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔



8

170


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْقَلَدِ

(تكميل)

جلد ————— ۲۱



اباھا ۵ ۹۷ سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ ۲۵ رُكُوْعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن پاک کو فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر میں وَمَا اَدْرٰكَ اور آپ کو کس نے بتلایا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وہ قدر والی رات کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ وہ قدر والی رات خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اترتے ہیں فرشتے وَالرُّوْحُ فِيْهَا اور روح اس میں بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ہر معاملے میں سَلٰمٌ سلامتی ہوتی ہے حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ اس رات فجر کے طلوع ہونے تک۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے اور اس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں، تک پورا قرآن ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل

فرمایا۔ بیت العزت سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی پر تیس ۶۲۳ سال میں نازل ہوا۔

کل کے درس میں تم سن چکے ہو کہ جب آپ ﷺ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اکتالیسویں سال کی پہلی صبح سحری کے وقت سوموار کے دن سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں مَالَمْ يَعْلَمْ تک نازل ہوئیں۔ پھر مکہ مکرمہ میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ تقریباً چھبیس سو تیس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ باقی قرآن پاک مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں، پانچ سو چالیس رکوع ہیں اور چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں۔

شان نزول :

اس سورت کا شان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں ساٹھ ۶۰ سے ستر ۷۰ سال کے درمیان ہوں گی۔ ستر سے زائد عمر والے کم لوگ ہوں گے۔ یہ سبق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یاد تھا۔

پھر ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد اور عابد کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا کہ جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور دوپہر کو تھوڑا سا سوتا تھا، آرام کرتا تھا۔ یہ عمل اس نے چوراسی سال کیا۔ چوراسی سال کے تقریباً ایک ہزار مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، سب غمگین ہو گئے اور سر جھکا لیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ سن کر غمگین ہو گئے ہو؟ کہنے لگے حضرت! آپ نے ایک

موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں ساٹھ ستر سال کے درمیان ہوں گی۔ اور آج آپ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے چوراسی سال اس طرح گزارے کہ رات کو تہجد اور دن کو جہاد۔ ہماری تو عمریں ہی چوراسی سال نہیں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی۔ پھر ان میں سے نابالغی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔

نابالغی کے زمانے میں آدمی جو عبادت کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ مگر عادت پڑے گی۔ اگر بچپن میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں حکم آیا ہے کہ سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ اور بالغ ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے آب و ہوا، خوراک، ماحول، صحت، ان چیزوں پر موقوف ہے۔ اگر لڑکے لڑکی کے بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کی عمر میں لازم بالغ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں بالغ ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔

تو خیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا حضرت ہماری تو عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان رہیں گی ان میں کچھ زمانہ نابالغی کا بھی ہے تو وہ بنی اسرائیل کا مجاہد تو نمبر لے گیا، اس کا درجہ تو بڑھ گیا اس لیے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے کہ جو ہزار مہینے یعنی چوراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

پھر یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ کیوں کہ دوسرے پارے میں ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ”رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں

قرآن نازل کیا گیا۔“ لوح محفوظ سے، آسمان دنیا میں، بیت العزت کے مقام پر،
رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں۔

لیلۃ القدر کی تلاش :

لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ حکیم رمضان
المبارک کو اعتکاف بیٹھ گئے۔ دس راتیں اعتکاف میں گزاریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام
تشریف لائے اور فرمایا جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ ان راتوں میں نہیں ہے وہ
آئندہ راتوں میں ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ جو ساتھی اس رات کی فضیلت حاصل
کرنے کے لیے بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ شاید وہ رات پہلی دس راتوں
میں ہو مگر اب جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے کہ وہ آئندہ راتوں میں ہے۔ لہذا اب میں
نے بیس تاریخ تک اعتکاف بیٹھنا ہے جو تم میں سے ہمت کرے وہ بھی بیٹھے۔

چنانچہ بیس رمضان تک اعتکاف بیٹھے مگر کوئی اشارہ نہ ہوا۔ جب بیسویں رات
پوری ہو گئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا الَّذِي تَطْلُبُهُ اَمَامَكَ ”جس
رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ آگے ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اِلْتِمِسُوْهَا
فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ”لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری
عشرے میں تلاش کرو۔“ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید سہولت مل گئی کہ فَالْتِمِسُوْهَا
فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ”آخری دس راتوں میں جو طاق
راتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔“ اکیسویں، بیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، اسیسویں۔
ان پانچ راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔

امام ابوحنیفہ وَ مَنْ وَافَقَهُ بِرَمَضَانَ فرماتے ہیں کہ وہ رات گردش کرتی رہتی

ہے۔ کسی رمضان میں اکیسویں، کسی رمضان میں تیسویں، کسی رمضان میں پچیسویں اور کسی رمضان میں ستائیسویں اور کسی رمضان میں اثنیسویں کی رات ہوتی ہے۔ اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیا جائے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام روایات منطبق ہو جاتی ہیں کسی کا انکار لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ بخاری شریف میں اکیسویں کی روایت بھی آتی ہے، تیسویں کی اور پچیسویں، ستائیسویں اور اثنیسویں کی روایت بھی آتی ہے۔ یہ ظاہر روایات میں تعارض ہے اور ہیں بھی صحیح۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بڑی گہری ہے کہ یہ رات پھرتی رہتی ہے ایک رات میں بند نہیں ہے۔ لہذا اکیسویں والی روایت بھی صحیح ہے اور تیسویں والی روایت بھی صحیح ہے۔ کسی رمضان المبارک میں اکیسویں والی رات قدر کی ہوتی ہے اور کسی میں تیسویں والی ہوتی ہے وغیرہ۔ اس رات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے شناخت ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔

اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات میں سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، سب پانی دودھ بن جاتے ہیں ایسی کوئی علامت شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزے کے لیے، حج زکوٰۃ کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ نماز قبول ہوگئی ہے، روزہ قبول ہوگیا ہے، زکوٰۃ قبول ہوگئی ہے، حج قبول ہوگیا

ہے۔ ۴۰

یہ جو روایت ہے کہ جس آدمی کا حج قبول ہو جائے تو اس کی کنکریاں جو وہ حمرات کو مارتا ہے غائب ہو جاتی ہیں اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں یہ روایت موضوع ہے۔ محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی

ہے۔ اس وجدانی کیفیت پیدا ہو جائے تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ وجدانی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، بدن پر لرزہ طاری ہو جائے، قبول ہونے کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے جس کا اس کو احساس ہو تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر میرے گھٹنوں میں درد ہے اس کو میں سمجھتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے۔ کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، جس کو پیاس لگتی ہے اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے دوسرے کو نہیں۔ تو اگر کوئی زیادہ مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری کر دے کہ اس کو روشنی نظر آئے وغیرہ تو یہ اس کی حد تک ہو گی۔ ظاہری طور پر لیلۃ القدر کی کوئی نشانی نہیں ہے۔

تو فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْرُ وَالِي، تعظیم والی رات میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ تعظیم والی رات کیا ہے، احترام والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وہ تعظیم والی رات بہتر ہے ہزار مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینے کی راتوں سے نہیں فرمایا۔ اگر صرف راتیں مراد ہوتیں تو فرماتے خَيْرٌ مِنْ لَيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ مہینے فرمایا تو اس میں دن بھی آتے ہیں اور راتیں بھی آتی ہیں۔ ایک طرف ہزار مہینوں کے دنوں کی عبادت، راتوں کی عبادت اور ایک طرف لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، یہ ان سے بہتر ہے۔

مسکین حدیث کا رد :

خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ دوسرے پر زیادتی کے لیے آتا ہے، برتری کے لیے آتا ہے۔ تو ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تھوڑے وقت

کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تیسرے حصے کا ثواب مل جائے گا۔ جو آدمی تین مرتبہ پڑھے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔

اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کر جائے گا، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے پندرہ منٹ بعد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔

منکرین حدیث کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تھوڑی سی دیر میں حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا، تھوڑا سا قرآن پڑھا تو سارے قرآن کا ثواب مل گیا۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اس طرح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب تم ان کو اس طرح پکڑو کہ بھئی! تم قرآن کو تو مانتے ہو دل سے نہ سہی مگر زبان سے دعویٰ تو کرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں کی راتیں بناؤ، دن بناؤ۔ تیس راتیں، تیس دن یا انتیس راتیں، انتیس دن۔ تو ایک رات کی عبادت انتیس ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، انتیس ہزار دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا انکار کر دیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ (رب تعالیٰ نے یہ چیزیں انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں اس میں عقل کا کیا دخل ہے؟ مرتب: محمد نواز بلوچ)

لہذا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ آج کل منکرین حدیث، کتابیں، رسالے

دھڑا دھڑ شائع کر رہے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ کراچی کے بڑے بڑے سیٹھ کچھ گمراہ ہو گئے ہیں وہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ دے دیتے ہیں اور یہ کتابیں اور رسالے طبع کرا کے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ان رسالوں اور کتابوں میں گمراہی ہوتی ہے۔ ہر آدمی ان کی گمراہی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً: ذاکر عثمان ہے اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ اسی طرح غلام احمد پروپیٹ ہے وغیرہ۔ یہ سلسلہ بڑا چل رہا ہے۔ ان کی کتابیں نہ پڑھنا چاہے مفت مل جائیں۔ کیوں کہ آدمی جب کسی کتاب کو مسلسل پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنا اثر ذہن پر چھوڑتی ہے اچھی ہو یا بُری۔

اہل حق کی کتابیں پڑھو اور قرآن و حدیث کو ذہن پر نہ پرکھو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح ہو (منسوخ نہ ہو) حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین دفعہ قُلْ هُوَ اللهُ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ دو دفعہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھنے سے قرآن پاک کے چوتھائی کا ثواب مل جاتا ہے۔ چار دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ احادیث صحیح ہیں ہم مانتے ہیں۔ عقل مدار نہیں ہے۔

لیلۃ القدر کی ایک رات ہزار مہینوں کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ پھر لیلۃ القدر ہر علاقے کی اپنی معتبر ہے۔ مثلاً اب ہمارے ہاں دن چڑھ رہا ہے امریکہ میں رات آرہی ہے۔ یہ جو اتانیم سبع ہیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ ہمارے حق میں ہماری ہوں گی اور ان کے حق میں ان کی ہوں گی۔

تَنْزِيلِ الْمَلَائِكَةِ اُتَرْتِے ہيں فرشتے وَالرُّوحِ فِيهَا اور روح اس ميں۔
 روح سے مراد روح القدس حضرت جبرئيل عليه السلام ہيں۔ حديث پاک ميں آتا ہے کہ
 جبرئيل عليه السلام اُتَرْتِے ہيں فِي كُتُبِكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ”فرشتوں کے جگھٹے ميں۔“
 اور جہاں کہيں کوئی نماز پڑھا ہوتا ہے سلام کرتے ہيں، رحمت بکھيرتے چلے جاتے
 ہيں۔ آن واحد ميں وہ سارے جہان ميں گھوم جاتے ہيں۔

يہ جو عوام ميں مشہور ہے کہ ليلىۃ القدر کو روحيں آتی ہيں يہ زي خرافات ہيں اس کی
 کوئی حقيقت نہيں ہے۔ نہ جمعرات کو، نہ شب برأت کو، نہ ليلىۃ القدر کو روحيں آتی ہيں، نہ
 عيد کو آتی ہيں۔ (اس سلسلے ميں قاضی جگنو نے ايک مستقل کتاب لکھی ہے اور ہندوستان
 ميں کوئی بزرگ گزرے ہيں جو بدعتی خيال کے تھے۔ تمام رطب و يابس انھوں نے جمع کيا
 ہے۔ اس ميں عجيب عجيب حديثیں گھڑی ہيں۔ ايک يہ بھی ہے اِنَّ فِي بَطْنِ الْمُؤْمِنِ
 زَاوِيَةٌ لَا يَمْلُؤُهَا إِلَّا الْخَلْوَاءُ ”کہ مومن کے پيٹ ميں ايک خانہ ہے حلوے کے
 بغير اور کوئی چيز اس کو نہيں کرتی۔“ اور روحيں آ کر حلو اور کھير مانگتی ہيں۔ حلوے اور کھير کا
 ذکر ضرور اس ميں ہے۔ بحوالہ: دورہ تفسير از شيخ سرفراز خان صفدر)

بخاری شريف کی حديث پاک ميں آتا ہے کہ جس سعادت مند کو جنت ميں داخلہ
 مل گیا وہ دنيا ميں آنے کا ارادہ بھی نہيں کرتا۔ جنت کی خوشياں چھوڑ کر دنيا ميں کون آنے گا؟
 اور جو مجرم پھنسا ہوا ہے اس کو سیر کے ليے کون چھوڑتا ہے۔ دنيا کی حوالات اور جيل سے
 نہيں آسکتا دوزخ سے کيسے چھوٹ کر آئے گا؟ ہاں اتنی بات ياد رکھنا! کہ حديث پاک
 ميں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اپنے مُردوں کو پریشان نہ کرنا۔
 تمھارے اعمال کبھی کبھی بڑوں کے سامنے پيش کيے جاتے ہيں۔ ماں باپ، داوا دادی

کے آگے۔ اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور بُرے ہوں تو وہ بے چارے غمگین ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ ہمیں کوئی آکر کہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور اگر کہیں کہ بُرا کام کیا ہے تو پریشان ہوں گے۔ اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے کہ وہ عین الیقین کو پہنچ چکے ہیں۔ تو روحیں دنیا میں نہیں آتیں۔ ان کو کبھی کبھی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ جانے والا بتلاتا ہے کہ فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے۔ اور اگر وہ دوسری طرف چلا گیا ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کافی عرصے کا آچکا ہے تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں نہیں پہنچا۔ پھر وہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔

تو فرمایا فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَمٌ هِيَ ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے، ہر قسم کی سلامتی کا حکم ہوتا ہے اس رات حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فجر کے طلوع ہونے تک۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کوئی تلاوت کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، جو بھی نیکی کرے گا اس رات کا ثواب حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْبَيْتَةِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آياتها ۸ ۹۸ سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۰ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا
 صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
 لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ
 هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ
 عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

کفر اختیار کیا۔ من اهل الکتاب اہل کتاب میں سے و المشرکین
 اور مشرکین میں سے مُنْفَكِّينَ باز آنے والے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس واضح دلیل رَسُوْلٍ مِّنَ اللّٰهِ (وہ بینہ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے یَسْتَلُوْا پڑھتا ہے صُحُفًا مَّطَهَّرَةً پاکیزہ صحیفے فِیْهَا ان میں لکھی ہوئی ہیں کُتِبَ قِیْمَةٌ کتابیں مضبوط وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیْنَ اور نہیں پھوٹ ڈالی اُن لوگوں نے اَوْتُوْا الْکِتٰبَ جن کو دی گئی کتاب اِلَّا مگر مِنْ بَعْدِ مَا بعد اس کے جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَةُ آگئی اُن کے پاس واضح دلیل وَمَا اَمِرُوْا اور نہیں حکم دیا گیا اُن کو اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّیْنَ خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے دین کو حَقَّاءَ یک سو ہونے والے ہیں وَيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ اور قائم کریں نماز وَيُوْتُوْا الزَّكٰوةَ اور ادا کریں زکوٰۃ وَذٰلِكَ دِیْنُ الْقِیْمَةِ اور یہی دین مضبوط ہے اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ اہل کتاب میں سے وَالْمُشْرِکِیْنَ اور مشرکوں میں سے فِی نَارِ جَهَنَّمَ جہنم کی آگ میں ہوں گے خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں اَوْلٰیئِکُمْ شُرَکَآءُ الْبَرِیَّةِ یہ لوگ ساری مخلوق میں سے بدتر ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ اور عمل کیے اچھے اَوْلٰیئِکُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ یہ لوگ ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں جَزَآؤُهُمْ اُن کا بدلہ

عِنْدَ رَبِّهِمْ اُنْ كے رب کے ہاں جَنَّتْ عَذْرٰی رهنے کے باغات
 ہيں تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ جارى ہيں اُن كے نيچے نہريں
 خَلِيْدِيْنَ فِيْهَا رهيں گے اُن ميں اَبَدًا ہميشہ ہميشہ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمْ راضى ہو چكا اللہ تعالٰى اُن سے وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ راضى ہو
 چكے اللہ تعالٰى سے ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ يہ اُس شخص كے ليے ہے
 جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔

نام اور كوالف :

اس سورت كا نام ہے سورة البينہ۔ يہ سورت مكہ مكرمہ ميں نازل ہوئى۔ نزول كے
 اعتبار سے اس كا سواں ﴿ ۱۰۰ ﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے ننانويں ﴿ ۹۹ ﴾ سورت ميں نازل ہو
 چكى تھيں۔ اس كا ايک ركوع اور آٹھ ﴿ ۸ ﴾ آيتيں ہيں۔

رب نے پيچيدہ بيماريوں كے ليے ماہر حكيم
 اسلى دوا كے ساتھ بھيجا :

اللہ تبارك و تعالٰى نے اس سورت ميں ايک سخت شكل كو بيان فرمايا ہے۔ سمجھانے
 كے ليے ميں عرض كرتا ہوں۔ جسمانى بيماريوں ميں سے بعض بيمارياں ايسى ہوتى ہيں كہ
 بيمار خود سمجھتا ہے كہ ميں بيمار ہوں، مجھے تكليف ہے۔ اور بعض بيمارياں ايسى ہوتى ہيں كہ
 بيمار كو پتا نہيں چلتا ڈاكٲر اور حكيم بتلاتے ہيں كہ تجھے يہ بيمارى ہے۔ اور بعض ايسى پيچيدہ
 بيمارياں ہوتى ہيں كہ جو ڈاكٲر اور حكيم كى سمجھ ميں بھى نہيں آتياں۔ پھر يہ بھى ہے كہ معمولى
 بيمارى كے ليے معمولى دوا كفايت كر جاتى ہے اور پيچيدہ بيمارى كا نہ تو معمولى دوا سے آرام

آتا ہے اور نہ معمولی ڈاکٹر کام آتا ہے۔ ایسی بیماری کے لیے ماہر ڈاکٹر اور ماہر حکیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تشخیص کے بعد ایسی بیماری کے لیے قیمتی دوا کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیمار سن کے ڈر جائے۔ عام دوا کفایت نہیں کرتی۔

اسی طرح سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اُس وقت مشرکین عرب کی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں کفر و شرک کی بیماریاں، بدعات اور رسومات کی بیماریاں اُن میں یوں جڑ پکڑ چکی تھیں کہ (وہ ان کو بیماریاں ہی نہیں سمجھتے تھے۔) معمولی حکیم اور معمولی ڈاکٹر اُن کے لیے کافی نہیں تھا اور نہ ہی معمولی نسخہ سے اُن کو آرام آسکتا تھا۔ یہ بیماریاں اُن کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھیں جنہوں نے اُن کے جسموں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اُس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے جب تک قابل ترین حکیم اور ڈاکٹر اُن کی بیماریوں کی تشخیص کر کے اُن کو قیمتی دوائی نہ کھلاتا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے روحانی ڈاکٹر اور حکیم بھیجے ہیں اُن تمام روحانی معالجوں میں سے سب سے بڑے ماہر معالج اور حکیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور روحانی علاج کے لیے جتنی دوائیں ہیں ان تمام دواؤں میں سب سے اعلیٰ دوا، سب سے بڑی دوا قرآن کریم ہے۔ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وَشَفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴿یونس: ۵۷﴾ ”اور شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں (روگ) ہیں۔“

باطنی بیماریوں کا واحد علاج قرآن پاک ہے۔ اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے بہ شرطے کہ یقین کامل ہو۔ مگر آج ایک تو ہمارا یقین کمزور ہے، خوراک ہماری

حلال کی نہیں ہے، زبانیں ہماری پاک نہیں ہیں، دل ہمارے پاک نہیں ہیں، دماغ ہمارے پاک نہیں، دانت ہمارے پاک نہیں، اس لیے ہم جب پڑھ کر دم کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ورنہ قرآن کریم میں آج بھی وہی اثر ہے۔

دم اور تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے، ایک واقعہ :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس صحابہ ایک مہم پر روانہ فرمائے۔ ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ واپس آتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے، رات گزارنی تھی۔ اُن لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور مسلمان ہیں۔ کہنے لگے اچھا تم ہمارے گاؤں کو ناپاک کرنے آئے ہو ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے قصبے میں نہ رہنے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قصبے سے باہر ڈیرا لگالیا۔ رات گزارنی تھی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ قصبے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ وہاں جتنے معالج تھے ان کو بلایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ مجبوراً انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے رات یہاں رہنے نہیں دیا تھا اُن کے پاس جاؤ شاید اُن میں کوئی دم والا ہو۔ ان کے پاس آکر انہوں نے کہا **فَهَلْ فِيكُمْ مِّنْ رَّاقٍ** ”کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟“ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! لیکن میں تیس بکریاں معاوضہ لوں گا۔ کیوں کہ تیس آدمی تھے۔ خیال ہوا کہ ایک ایک تول جائے۔

بخاری شریف کی روایت ہے تیس بکریاں طے ہوئیں۔ انہوں نے جا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو تکلیف تھی ہی نہیں۔ تیس موٹی موٹی بکریاں ان سے لے لیں۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہیں تقسیم کر لو۔ دوسروں نے کہا نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دریافت کریں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے۔

مسئلہ: دم اور تعویذ پر اجرت لینا بائنا اتفاق جائز ہے چاہے جتنی مرضی کوئی لے۔ ہاں! ہمارے اکابر نے ہمیں دو سبق دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ امیر کے گھر نہیں جانا فقیر کا دروازہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، نہ اشارہ، نہ کنایہ۔ اپنی خوشی سے کوئی دے دے تو لے لو۔ الحمد للہ! ہم نے اپنے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو۔ اس میں لالچ و طمع نہیں تھا صرف اُن کا ذہن صاف کرنا تھا کہ اگر اس میں ذرا بھی خرابی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ لیتے۔ کیوں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿المؤمنون: ۵۱﴾ ”اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرو نیک۔“ تو خیر قرآن کریم ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ يَكْفُرُوا نَحْنُ لَمْ نَكْفُرْ وَكُنَّا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿المؤمنون: ۵۱﴾

کفر اختیار کیا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَهُودِيَّوْنَ اور عيسائيوْنَ میں وَالْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے۔ قریش عرب جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے مگر تھے مشرک۔ نہیں تھے یہ سارے مُنْفَكِّينَ باز آنے والے، اپنی بُرائی سے جدا ہونے والے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ وہ بینہ کیا ہے؟ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول۔ ایسا رسول جو تمام رسولوں کا امام اور ساری

کائنات سے افضل۔ تب انھوں نے اپنی عادت کو چھوڑنا تھا۔ بیماریاں سخت اور پیچیدہ تھیں ماہر حکیم کی ضرورت تھی۔ نسخہ کیا ہے؟ یَتَلَوْاْ صَحَافًا مَّطَهَّرَةً پڑھتا ہے پاکیزہ صحیفے۔ ایسے مضمون جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ قرآن پاک کی ہر سورت ایک صحیفہ ہے فِیْهَا کُتِبَ قِیْمَةٌ ان میں لکھی ہوئی باتیں بڑی قیمتی ہیں، مضبوط ہیں۔ پیغمبر سب سے اعلیٰ اور نسخہ سب سے بہترین۔ یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے۔ اگر آنحضرت ﷺ تشریف نہ لاتے قرآن نازل نہ ہوتا تو یقیناً ان لوگوں نے کفر و شرک سے باز نہیں آنا تھا۔ بیماری بڑی تھی علاج کے لیے حکیم بھی بڑا چاہیے تھا اور نسخہ بھی بہترین درکار تھا۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں پھوٹ ڈالی ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ مگر بعد اس کے کہ آگئی ان کے پاس واضح دلیل۔ رسول اللہ آگیا۔ محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تفرقہ ڈالا آخری پیغمبر کے آجانے کے بعد۔ یہ پیغمبر ان کو وہی سبق دیتا ہے جو پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ تورات، انجیل، زبور رب تعالیٰ کی سچی کتابیں تھیں۔ ان تمام کتابوں میں ہدایت تھی، عقیدہ تھا، اخلاقی معاملات تھے، آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں۔

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اور نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ ان کو صرف رب تعالیٰ کی عبادت کا حکم تھا مگر انھوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا اِتَّخَذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ آرَبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴿۳۱﴾ توبہ: ۳۱

”بنالیا انھوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو۔“

مولویوں اور پیروں کی بات کو آسمانی دلیل کے بغیر صحیح سمجھ لیتے تھے اور عیسیٰ ﷺ کی پوجا

شروع کر دی۔

حُخْفَاءَ حنیف کی جمع ہے۔ حنیف کا معنی ہے یک سو ہونے والا۔ تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے۔ باطل عقائد اور نظریات کو چھوڑ کر صحیح بات کو لینے والا حنیف ہے۔ توحید کے لیے یکسو ہونے والا۔ تو حُخْفَاءَ کا معنی ہوگا یکسو ہونے والے ہیں وَیُقِیْمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ ﴿مریم: ۵۹﴾ ”ضائع کر دی انھوں نے نماز اور خواہشات کی پیروی کی۔“

آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور کچھ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ توبہ کر لیں گے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ نماز، روزہ اور جتنے ارکان اسلام ہیں ایک ارب مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے چاہے کعبۃ اللہ میں جا کر توبہ کرو۔ جب تک ان کی قضا نہیں ہوگی معافی نہیں ہے۔ تمام فقہاء، تمام محدثین کا اتفاقی مسئلہ ہے لہذا مغالطے میں نہ آنا۔ اپنے گھروں میں یہ مسئلہ واضح کرو، عورتوں کو بھی سمجھاؤ۔ بالغ ہونے کے بعد جس کے ذمہ نماز ہے وہ آج سے ہی اس کی قضا شروع کر دے۔ نوجوانوں کے لیے تو یہ مسئلہ آسان ہے کہ ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں مصیبت تو بوڑھوں کے لیے ہے۔ ایسے لوگ بھی میرے محلے میں رہتے ہیں جن کو میں نے کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ مجھ سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ ان سے کہو تو کہتے ہیں اچھا جی! فطرت ہی ایسی بن گئی ہے۔

توبات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتی وَیُؤْتُوا

الزَّكُوَّةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ بھی ان کو حکم تھا وَذَلِكِ دِينُ الْقِيَمَةِ اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے بعد فرمایا نافرمانوں کا نتیجہ بھی سن لو! إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے، یہود و نصاریٰ میں سے وَالْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے۔ عرب کے مشرکوں میں یا دنیا کے مشرکوں میں سے، سب کے سب فِي نَارِ جَهَنَّمَ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ پھر جہنم میں جانے کے بعد خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے أُولَٰئِكَ هُمُ الشَّرَّاءُ الْبَرِيَّةُ۔ بَرِيَّة کا معنی ہے مخلوق۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سے بدتر ہیں۔ کتا، بلی، خنزیر، چوہا وغیرہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ چاہے ان کی قد و قامت، شکل و صورت اچھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہیں۔

بہ خلاف اس کے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ یہ لوگ ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں۔ ان کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَنْ كَابَدَهُمْ رَبُّكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ رہنے کے باغات ہیں۔ یہ باغ ہمیشہ رہنے والے ہیں کبھی خشک نہ ہوں گے اور نہ ان کے پتے جھڑیں گے، ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ "نہ قطع کیے جائیں گے نہ روکے جائیں گے۔" ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جاری ہیں ان باغوں کے نیچے نہریں خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو بہتر ہوں گے وہ ان باغوں میں رہیں گے۔ جو سعادت مند ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر اس کے نکلنے کا وہاں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

رَضُوا عَنْهُ اللهُ تَعَالَى اُنْ سَے راضی ہو چکا اور وہ اللهُ تَعَالَى سَے راضی ہو چکے۔ دنیا میں اخلاقی لحاظ سے سندیں دی جاتی ہیں لیکن اللهُ تَعَالَى کی رضا سے بڑی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ فرمایا ذَلِكْ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ یہ اُس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، عربی ہے، چاہے عجمی ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے اور دنیا کے جس حصے میں بھی رہتا ہے رب تَعَالَى کی رضا کا پروانہ اس کو حاصل ہوگا۔ لہذا ہر ایک کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللهُ تَعَالَى توفیق عطا فرمائے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الزُّلْفَةِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

Vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten text in the center of the page, appearing to be a signature or a set of initials.

Horizontal text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

آیتها ۸ ۹۹ سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ ۹۲ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْقَالَهَا ۝
 وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ
 رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۝ لِيُرَوْا
 اَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ جب ہلا دی جائے گی زمین زلزلہا
 اس کا ہلایا جانا وَاخْرَجَتِ الْاَرْضُ اور نکال دے گی زمین
 اَنْقَالَهَا اپنے بوجھ وَقَالَ الْاِنْسَانُ اور کہے گا انسان مَا لَهَا
 اس کو کیا ہو گیا ہے يَوْمَئِذٍ اُس دن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بیان کرے
 گی زمین اپنی خبریں بِاَنَّ رَبَّكَ اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے
 اَوْحٰى لَهَا اس کو حکم دیا ہے يَوْمَئِذٍ اُس دن يُصْدِرُ النَّاسُ
 لوٹیں گے لوگ اَشْتَاتًا گروہ گروہ ہو کر لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ تاکہ
 دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال فَمَنْ يَعْمَلْ پس جس نے عمل کیا
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر خَيْرًا نیکی کا يَرَهُ دیکھ لے گا اس کو

وَمَنْ يَّعْمَلْ اَوْر جس نے عمل کیا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر شَرًّا بُرائی کا یَرَّةٌ دیکھ لے گا اُس کو۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ زلزال کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ جس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا اسی ۸۰ نمبر ہے۔ اس سے پہلے اُناسی ۷۹ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ۸ آیتیں ہیں۔

قرآن کریم میں تین بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت۔ تو عقائد کا تیسرا حصہ اس سورت میں ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ عقائد میں سے تیسرا حصہ اس میں ہے۔ لہذا اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہ طور انعام کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے ایک دفعہ سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ پڑھی اس کو دس پاروں کا ثواب مل گیا۔ دو دفعہ پڑھی تو بیس پاروں کا ثواب مل گیا اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔

اور سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھنے سے ربع قرآن یعنی چوتھائی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے۔ اور توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتی جب تک شرک کا مفہوم سمجھ نہ آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
الشِّرْكُ اخْفَىٰ مِنْ ذَبْنِبِ الثَّمَلِ ”شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ اُن کی چال چوٹی سے مخفی ہے۔“ ہر آدمی اُن کو نہیں سمجھ سکتا۔

چنانچہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت! اگر رات میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شرک نہ کر شرک بڑی شے ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی امداد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں یہ تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ تو نے رب تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو پہلے شرک کی حقیقت کو سمجھے گا پھر تو حید سمجھ آئے گی۔

سورۃ الزلزال کی فضیلت :

سورت اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ کے متعلق فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نصف قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سورتیں چھوٹی ہیں مگر ان کا اجر زیادہ ہے۔ یہ سورتیں ہر مسلمان مرد و عورت کو یاد کرنی چاہئیں۔ یہ سورت دو مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔

مستدرک حاکم میں روایت ہے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس کہا اُس نے مجھے پڑھائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اس کو ذوات الزلزالوں میں سے کوئی پڑھا دیں۔ اس نے عرض کیا حضرت! میں بوڑھا ہوں زبان ٹھیک نہیں چلتی، حافظہ بھی کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات حم میں سے کوئی سورت پڑھا دو۔ اُس نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سورۃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَلَهَا پڑھا دو۔ جب وہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ آدمی واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا جب ہلا دی جائے گی زمین اس کا ہلایا جانا۔ جس وقت زمین پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا اس کا زلزلہ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ۔ زلزلہ طاری ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر بگل پھونکیں گے تو سارے اپنی قبروں میں سے اور جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا نکل پڑیں گے۔ زمین پہلے زلزلے سے پہلے اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔

قرب قیامت زمین اپنے دہنیے اُگل دے گی :

مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا زمین اپنے دہنیے اور خزانے باہر نکال دے گی۔ سونے کے پہاڑ نکلیں گے، چاندی کے پہاڑ نکلیں گے، پٹرول، ڈیزل، سوئی گیس زمین سے نکل آئیں گی۔ پہلے ان چیزوں کو کون جانتا تھا؟

تو زمین میں جو دہنیے ہیں وہ سب نکل آئیں گے۔ محشر والے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ قاتل کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اے پروردگار! یہ سونے کا پہاڑ ہیں، یہ چاندی کا پہاڑ ہے۔ اس کے لیے میں نے آدمیوں کو قتل کیا۔ چور کہے گا اس سونے چاندی کے بدلے میرے ہاتھ کاٹنے گئے، قطع رحمی کرنے والا کہے گا اس سونے چاندی کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اب اٹھالے جتنا اٹھا سکتا ہے۔ کہے گا اے پروردگار! اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔

مسلم شریف کی روایت ہے دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا۔ اس کے نیچے

سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے۔ اس سونے کے لیے لڑائیاں ہوں گی سو میں سے ننانوے قتل ہو جائیں گے ایک زندہ بچے گا۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ بچنے والا میں ہوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دریائے فرات کے رخ بدلنے سے نیچے سے سونا ظاہر ہوگا، نظر آئے گا۔ اس کے قریب نہ جانا۔ سونا تو لینا ہوگا فائدے کے لیے اور ننانوے نے قتل ہو جانا ہے لینے والا تو ایک خوش قسمت بچے گا۔ اس وقت تو سونے پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔

دورۃ افریقہ اور یہود کے سونے کے کارخانے :

گزشتہ سال ساتھی مجھے جنوبی افریقہ لے گئے۔ بہت بڑا ملک ہے، بڑا وسیع رقبہ ہے۔ وہاں سونے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ ایک کارخانے کے بارے میں ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں سفید سونا صاف کرتے ہیں۔ سرخ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر سرخ سونا ایک روپے کا ہے تو یہ سوارو پے کا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی کارخانہ کسی مسلمان کا بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں سارے یہودیوں کے ہیں۔

اور یہ بھی بتلایا کہ ان کارخانوں کے مالکوں کی کچھ عرصہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں انھوں نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ان کارخانوں میں اتنا مال ہم نے مسلمانوں کے ذہن بدلنے کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ مختلف شہروں میں انھوں نے رہڑھوں کا انتظام کیا کہ ان پر گانے چلا کے وہ پھرتے رہیں چاہے ان سے کوئی سودا لے یا نہ لے بس وہ گانے لگا کر بازاروں میں، گلیوں میں، پھرتے رہیں۔ لوگوں کو گانے سنا کر ان کا ذہن خراب کیا جائے۔ ان رہڑھوں کا سا

خرچہ یہودی دیتے تھے۔ (آج کل وہ یہ سارا کام میڈیا سے لے رہے ہیں۔) اور مسلمانوں کے اخلاق تباہ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خبیث قومیں ہیں اور مسلمان غافل ہے اور حق سے ہٹتا جا رہا ہے۔

تو فرمایا زمین اپنے بوجھ نکال دے گی وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا اور کہے گا انسان حیرت سے اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ اُگل رہی ہے۔ پہلی دفعہ بگل پھونکنے سے ہر شے فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسری دفعہ اسرائیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے تو سارے انسان بن کر نکل آئیں گے۔ چاہے وہ قبروں میں ہیں، چاہے درندے کھا گئے، چاہے مچھلیوں کے پیٹ میں ہیں، چاہے جل کر رکھ بن گئے ہیں۔

آج اسٹیشن پر جاؤ جگہ نہیں ملتی۔ بازاروں میں رش ہے، مارکیٹ میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں، ہسپتالوں میں آدم ہی آدم ہے۔ اور میدان محشر میں اول تا آخر انسان، حیوان، کیزے، مکوڑے، سارے جمع ہوں گے۔ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا؟ اس سے اندازہ لگاؤ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوگا لیکن مومنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لَا يَخْرُجُ لَهُمُ الْفِرْعُ الْأَكْبَرُ ”نہیں غم میں ڈالے گی اُن کو بڑی گھبراہٹ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ﴿الانبياء: ۱۰۳﴾ اور ملیں گے ان سے فرشتے، سلام کریں گے۔“ تو مومنوں کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے ایمانوں، کافروں، منافقوں، بے نمازوں اور روزے خوروں، شرابیوں، زانیوں، بدمعاشوں اور غنڈوں کے لیے سخت ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ اَسْ دُنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا زمین بیان کرے گی اپنی خبریں کہ اے پروردگار! اس مرد نے، اس عورت نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ جہاں نماز پڑھی، جہاں

قرآن کریم پڑھا، جہاں درود شریف پڑھا، جہاں ذکر کیا، جہاں زنا کیا، جہاں شراب پی، جہاں جو بھی کام کیا ہے اچھا یا برا زمین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا اور ایسے بولے گا جیسے ایک آدمی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ يَا اَنْ رَّبِّكَ اَوْحٰی لَهَا اَسْ لِيْے كِهْ اَپْ كِهْ رِبْ نِهْ اَسْ كِهْ عَکْمِ دِيَا هِيْ۔ اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولتے قیامت والے دن بولیں گے۔ بدن کا ایک ایک عضو بولے گا۔ جلد بولے گی۔

جب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اے بندے! تو نے یہ کام کیا ہے تو وہ انکار کرے گا جھوٹ بولے گا۔ مثلاً: مشرک کہے گا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۱۱۱ انعام: ۲۳﴾ ”قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا پروردگار ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ”دیکھو! کیسا جھوٹ بولا ہے انھوں نے اپنی جانوں پر۔“ معلوم ہوا مشرک بڑا ڈھیٹ ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ پھر ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ سورۃ یسین آیت نمبر ۶۵ میں ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ”آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے مونہوں پر اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کھاتے تھے۔“ کیوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔

يَوْمَ يَذُّقُ النَّاسُ اَسْهَاتًا شَتًّا كِي جمع ہے شَتُّ کا معنی ہے فرقہ، گروہ۔ گروہوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لوٹیں گے۔ کوئی جنت کی طرف جائے گا اور کوئی دوزخ کی طرف۔ ایک یہودیوں کا گروہ ہوگا، ایک عیسائیوں کا گروہ ہوگا، ایک ہندوؤں کا، ایک سکھوں کا۔ پھر

مزید ان میں تقسیم کہ کوئی چوروں کا، کوئی ڈاکوؤں کا، کوئی قاتلوں کا۔

مسلمانوں میں نمازیوں کا گروہ، حاجیوں کا گروہ، روزے داروں کا گروہ۔ تو الگ الگ گروہوں کی شکل میں لوٹیں گے **ذَيِّرُوا أَعْمَالَهُمْ** تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھایا جائے۔

رب تعالیٰ فرماتے ہیں **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** پس جس نے عمل کیا ذرہ برابرًا۔ **خَيْرًا يَرَهُ** نیکی کا، اُس کو دیکھ لے گا۔ عربی زبان میں ذرہ کے دو معنی آئے ہیں۔ ایک سرخ رنگ کی جو چھوٹی سی چپوٹی ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عربی جس کسی شے کی قلت کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس چپوٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ دوسرا معنی: ہوامیں جو چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں روشنی میں روشن دان سے نظر آتے ہیں ان کو ذرہ کہتے ہیں۔ مراد اس سے مقدار شے ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** اور جس نے عمل کیا ذرہ برابر **شَرًّا يَرَهُ** بُرائی کا دیکھ لے گا اُس کو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا **إِيَّاكَ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ** ”یاد رکھنا! کسی گناہ کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھنا۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔“ تو محشر والے دن آدمی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی دیکھ لے گا۔ یہ بات بندے کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْعَنْكَبَاتِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1870

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.

آیاتها ۱۱ ۱۰۰ سورۃ الغدیت مکیۃ ۱۳ رکوعها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

وَالْغَدِیَّتِ ضَبْحًا ۝۱۱ فَالْمَوْرِیَّتِ قَدْحًا ۝۱۲ فَالْمَغِیْرَتِ صُبْحًا ۝۱۳
فَأَثْرُنَ بِهٖ نَقْعًا ۝۱۴ فَوْسَطُنَ بِهٖ جَمْعًا ۝۱۵ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُودٌ ۝۱۶ وَإِنَّ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ۝۱۷ وَإِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ۝۱۸
أَفَلَا یَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۝۱۹ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۝۲۰
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهٖمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِیْرٌ ۝۲۱

وَالْغَدِیَّتِ قسم ہے اُن گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں صُبْحًا ہانپتے ہوئے فَالْمَوْرِیَّتِ پھر آگ سلگانے والوں کی قَدْحًا ٹاپ مار کر فَالْمَغِیْرَتِ پھر اُن کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صُبْحًا صبح کے وقت فَأَثْرُنَ بِهٖ پھر وہ اڑاتے ہیں اس میں نَقْعًا گردوغبار فَوْسَطُنَ بِهٖ پس گھس جاتے ہیں گردوغبار کے ساتھ جَمْعًا جماعت میں إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ بے شک انسان اپنے رب کا لَكَنُودٌ بڑا ہی ناشکر ہے وَإِنَّهٗ اور بے شک وہ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ اس پر البتہ گواہ ہے وَإِنَّهٗ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَیْرِ مال کی محبت میں لَشَدِیْدٌ البتہ بہت سخت ہے أَفَلَا یَعْلَمُ کیا پس

انسان نہیں جانتا إِذَا بُعِثَرَ جب گریدا جائے گا مَا فِي الْقُبُورِ اُن
 کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا
 مَا فِي الصُّدُورِ جو کچھ سینوں میں ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ بَشِيرٌ
 اُن کا رب اُن کے بارے میں يَوْمَ يَذِيخُنَّهُمْ اُس دن خبر رکھنے والا
 ہے۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ عادیات کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں
 موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ
 سورت ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چودھواں
 * ۱۴ * نمبر ہے۔ اس سے پہلے تیرہ * ۱۳ * سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع
 اور گیارہ * ۱۱ * آیتیں ہیں۔

وَ الْعَدِيَّتِ ضَبْحًا میں واوقسمیہ ہے۔ قسم ہے اُن گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں
 ہانپتے ہوئے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
 أَشْرَكَ بِاللَّهِ ”جس نے قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تحقیق اُس نے شرک کیا۔“
 کعبۃ اللہ کی قسم اٹھائے، نبی کی قسم اٹھائے، رسول کی قسم اٹھائے، پیر کی قسم اٹھائے،
 دودھ اور بیٹے کی قسم اٹھائے، کسی بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا
 ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے مَنْ قَالَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” جس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے لات کی قسم ہے، عزی کی قسم ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔“ کیوں کہ یہ شرک ہے۔

قرآن پاک کی قسم اٹھانا کیسا ہے؟

قرآن پاک کے بارے میں فقہائے کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن پاک کی قسم درست ہے یا نہیں؟ ایک تو قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کلام لفظی کہلاتا ہے۔ ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک مضمون ہے جو ان الفاظ کے اندر ہے وہ کلام نفسی کہلاتا ہے جو رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ قدیم ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔

علامہ فخر الدین زلیعی رحمہ اللہ کی فقہ کی مشہور کتاب ہے ”تبيين الحائق“ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی تو منعقد ہو جائے گی۔ مثلاً: کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی قسم ہے تو یہ قسم صحیح ہے کیوں کہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ غیر اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اللہ ہیں۔ لہذا رب تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی قسم اٹھائے گا وہ صحیح ہے۔ مثلاً: کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم ہے۔ یہ سب قسمیں صحیح ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں کہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿سورة الانبياء: ۲۳﴾ ”نہیں پوچھا جاسکتا اللہ تعالیٰ سے جو وہ کرتا ہے اور ان سے (یعنی مخلوق سے) سوال کیا جائے گا۔“ اللہ تعالیٰ روزانہ بے شمار مخلوق کو مارتا ہے بچے بھی مرتے ہیں، بڑے بھی مرتے ہیں اس سے کون

پوچھنے والا ہے۔ اور اگر مخلوق میں سے کوئی اپنے بچوں کو مار دے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے کہ مخلوق اور خالق کے احکام جدا جدا ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں۔ کیوں کہ عرب کی سرزمین پر زیادہ سواری اونٹوں کی ہوتی ہے اور وہ دوڑتے بھی ہیں۔ خصوصاً جہاد کے لیے، حج اور عمرے کے لیے۔ عرفات پہنچتے ہیں، مزدلفہ اور منی پہنچتے ہیں۔ تو اونٹوں کی قسم ہے۔ لیکن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اونٹ نہیں گھوڑے مراد ہیں۔ کیوں کہ آگے لفظ ہانپنا ہے۔ گھوڑے ہانپتے ہیں اونٹ نہیں ہانپتے۔ ہانپنے کا معنی ہے تیزی کے ساتھ چلنا پھر جلدی جلدی سانس لینا۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو جانور ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا اور دوسرا کتا۔ ان کے سوا اور کوئی جانور ہانپتا نہیں ہے۔ لہذا یہی تفسیر صحیح ہے یعنی گھوڑے مراد ہیں۔

قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے **فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا** پھر آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر۔ عموماً گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نعل لگے ہوتے ہیں۔ گھوڑے دوڑیں اور ان کے پاؤں پتھر پر لگیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ **فَالْمُعِزَّتِ صُبْحًا** پھر ان کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت۔ اُس زمانے میں عموماً حملے صبح کے وقت ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر صبح کے وقت حملہ کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تو رات کے آخری حصے کا انتظار فرماتے، صبح صادق کے وقت۔ اگر دوسری طرف سے اذان کی آواز آتی تو

سمجھتے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں لہذا حملہ نہ کرتے۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے۔

اسی طرح جب آپ ﷺ خیر پہنچے تو ساتھیوں سے فرمایا اچھی طرح اور غور سے سنو! اگر اذان کی آواز آئے تو اس محلے پر حملہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کوئی مسلمان مارا جائے۔

تو فرمایا جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا پھر وہ اڑاتے ہیں اس میں گرد و غبار۔ بعض حضرات یہ کی ضمیر لوٹاتے ہیں صبح کی طرف۔ تو اس وقت معنی ہوگا وہ گھوڑے صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ رات کو عموماً اس، شبہم پڑتی ہے اس کی وجہ سے صبح کو گرد و غبار کم اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اور بعض حضرات ضمیر قَدْحًا کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو پھر معنی ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے نَقْعًا کی طرف۔ معنی ہوگا پس وہ گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں گرد و غبار کے ساتھ۔ ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ بہ ظاہر گھوڑوں کے دوڑانے اور انسان کے ناشکرے ہونے کا آپس میں ربط نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ اس طرح کہ گھوڑے کو بندے نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ گھوڑے کے واسطے چار پانی بھی بندے نے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ گھوڑا سانس لیتا ہے تو ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا

فرمائی ہے بندے نے نہیں۔ گھوڑا جس زمین پر چلتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے بندے نے نہیں کی۔ بندہ صرف مجازی طور پر مالک ہے کہ اُس نے خریدا ہے یا گھر میں پالا ہے۔ گھاس اس کو کھلاتا ہے، پانی اس کو پلاتا ہے۔ اتنے سے تعلق سے وہ اس کا اتنا فرماں بردار ہے کہ مجاہد اس پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جاتا ہے گھوڑا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، گھوڑا زخمی بھی ہوتا ہے لیکن اپنے مجازی مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لیکن انسان اپنے حقیقی مالک کی بے شمار نعمتیں کھانے کے باوجود نافرمان ہے۔ اے انسان! تو نے سوچا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے؟

تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے خوراک، پانی پیدا کیا ہے، زمین بنائی ہے، ہوا چلائی ہے، سارا کارخانہ کائنات تیری خدمت پر لگایا ہے تو کتنا ناشکرا ہے۔ راحت، آرام میں بھی رب تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا اور گھوڑا تیروں کی بارش میں بھی تیری فرماں برداری کر رہا ہے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لَکَنُوْدٌ کا معنی :

عام مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم لَکَنُوْدٌ کا معنی مطلق ناشکری کرنے والا کرتے ہیں۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لَکَنُوْدٌ اس ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جس پر رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں اور وہ ان نعمتوں کا ذکر نہ کرے۔ لیکن جب تکلیفوں میں پھنسے تو تکلیفیں ساری شمار کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، دشمن نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا ہے،

مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیئے ہیں، زبان دی ہے، دل، دماغ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَبِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿۱﴾ ابراہیم: ۷۱

”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا۔“

نماز ادا سے شکر کا سب سے عمدہ طریقہ :

اور یاد رکھنا شکر کا یہی معنی نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر کہہ دیا الحمد للہ! (ایسا کرنے والے بھی کم ہیں۔ مرتب) حکیم، اطباء کہتے ہیں کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو دو منٹ میں وہ ناخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھی! کھانے پینے کا اثر تو سارے بدن میں ناخنوں کے نیچے تک پہنچ گیا اور شکرے میں تو نے دو تو لے کی زبان ہلا کر سمجھا کہ شکر یہ ادا ہو گیا۔ یقین جانو! سب سے بڑا شکر یہ نماز کے ذریعے ہے۔ نماز کے ذریعے جو شکر ادا ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت کے ذریعے ادا نہیں ہوتا۔ اور تمام عبادتوں میں سرفہرست نماز ہے۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہے

أَوَّلُ مَا يَحَاسِبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الصَّلَاةَ ”مومن کا پہلا پرچہ حقوق اللہ میں سے نماز کا ہوگا۔“ اگر نماز میں پورا اترتا ہے تو ان شاء اللہ باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراسلہ :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اُن کا دور خلافت دس سال ہے، اپنے تمام حکام کو سرکاری طور پر خط لکھا اِنَّ اَهَمَّ اُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ”بے شک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔“ افسر نماز پڑھتا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ باقی کام بھی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے! اور جو نماز

نہیں پڑھتا ھُوَ بِمَا سَوَىٰ اصْنَعُ ”میں سمجھوں گا کہ اس نے باقی کام بھی نہیں کیے۔“ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں افسروں کی دیانت داری کا معیار نماز تھا۔

آج کتنے افسر ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟ پھر اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گھپلے کر کے لوٹ مار کے رقم بیرون ملک پہنچا دیتا ہے تو سن لو اور یاد رکھنا! ایک پیسہ بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہو گا واپس کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح؟ فقہائے کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں تین پیسوں کے بدلے سات سو نمازیں دینی پڑیں گی۔ نمازیں بھی وہ جو قبول ہو چکی ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ اور شامی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔

تو فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ شریف آدمی تو زبان قال سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ اگر کوئی زبان قال سے نہیں کہتا تو زبان حال بتا رہی ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ بعض حضرات ہضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو پھر معنی ہو گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پر گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ مال کا بڑا عاشق ہے۔ مسلمان قوم کی ذلت کا ایک سبب مال کی محبت بھی ہے۔

ابوداؤد شریف میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کافر تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا ہو تو کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے آؤ بھائی! کھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا حضرت! کیا اُس وقت ہم تھوڑے ہوں گے کہ کافر ہمیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا بَلَّ أَنْتُمْ كَثِيرٌ ”نہیں تم تھوڑے نہیں

ہو گے بلکہ تم بہت زیادہ ہو گے۔“ حضرت جب ہم زیادہ ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں کیسے کھائیں گے؟ فرمایا **فِيكُمْ الْوَهْنُ** ”تمہارے اندر وہن ہوگا۔“ وہن کا لفظی معنی ہے کمزوری، سستی، یہ تو صحابہ کرام **رضی اللہ عنہم** سمجھتے تھے۔ مطلب نہ سمجھے۔ پوچھا **وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ!** حضرت وہن کیا ہوتا ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا **حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ** ”دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔“ جس وقت یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آجائیں گی کافر تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے۔

حضرت جابر **رضی اللہ عنہ** سے روایت ہے مستدرک حاکم میں۔ آج سے تیس چالیس سال پہلے پڑھی پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آنحضرت **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا ایک وقت آئے گا آل عراق پر عجمی لوگ پابندیاں لگائیں گے، دانہ پانی کوئی چیز نہ پہنچے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عراق مستقل ملک ہے عجمیوں کو کیا مصیبت پڑی ہے ان پر دانہ پانی بند کرنے کی؟ مگر اب اس وقت عراق پر اسی حکومتوں نے حملہ کیا ہے اور ان میں ہماری مہربان حکومت بھی شامل ہے۔ باقاعدہ ہمارے جہاز اور پائلٹ بھی ان میں شامل ہیں۔ اب عراق والوں کو خوراک پہنچانا بھی منع ہے اور دوائیں پہنچانا بھی منع ہے۔

اسی حدیث میں ہے کہ پھر شام پر پابندیاں لگیں گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون کرے گا؟ فرمایا **الرُّوم**۔ وہ عیسائی کریں گے، امریکی کریں گے۔ شامیوں کے دانے پانی کے بند ہونے کا وقت بھی آنے والا ہے۔ عراق میں تو تم چھ سال سے دیکھ رہے ہو کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، دوائیاں بھی نہیں پہنچ رہیں۔ وہ خود دار اور جفاکش لوگ ہیں اس

لیے زندہ ہیں ورنہ ان ظالموں نے زندگی کی کوئی رمتی نہیں چھوڑی۔

أَفَلَا يَعْلَمُ - کیا پس نہیں جانتا انسان إِذَا بُعِثَرَ مَاتِ الْقُبُورِ جب
 کریدا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ حضرت اسرافیل عليه السلام بگل پھونکیں
 گے سارے قبروں سے نکل آئیں گے وَحُصِّلَ مَاتِ الْقُبُورِ اور ظاہر کر دیا
 جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ دل کے جھوٹے سچے راز سب نکل آئیں گے إِنَّ
 رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ بے شک اُن کا رب اُن کے بارے میں اُس دن خبر رکھنے
 والا ہوگا۔ یعنی نتیجہ سامنے آجائے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے مگر آج کی خبر کا پورا نتیجہ
 سامنے نہیں آتا۔ اس دن رب کی خبر کا پورا نتیجہ نکلے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
 ہو جائے گا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

آیتها ۱۱ ۱۰۱ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۰ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الْقَارِعَةُ ۝۱ مَا الْقَارِعَةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۳ یَوْمَ
 یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
 الْمَنْفُوشِ ۝۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَّاضِيَةٍ ۝۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝۸ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۹
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝۱۰ نَارُ حَامِيَةٍ ۝۱۱

الْقَارِعَةُ کھٹھادینے والی مَا الْقَارِعَةُ کیا ہے کھٹھادینے
 والی وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ کو کس نے بتلایا مَا الْقَارِعَةُ کیا ہے
 کھٹھادینے والی یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ جس دن ہو جائیں گے لوگ
 كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح وَتَكُونُ
 الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (رنگ
 برنگ) دھنی ہوئی روئی کی طرح فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس بہر حال
 وہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے فَهُوَ پس وہ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
 پس دیدہ عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہر حال وہ جس کے
 اعمال ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ پس اُس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا وَمَا

أَذْرَبَكَ وَأُرَابَكَ كُوسَ نِي تِلَايَا مَاهِيَّةَ كِيَا هِي وَه هَا وَيِي نَارِ
حَامِيَّةَ آگ هِي بَهْرُ كُتِي هُوِيِي۔

نام اور کوالف :

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ قیامت، آخرت، الطامة، آرزو، غاشیہ، الحاقہ۔ ان ناموں میں سے ایک قارعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام بھی قارعہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسواں نمبر ہے۔ اس سے پہلے اٹیس ۲۹۶ سورتیں نازل ہو چکی تھی۔

قَرَع کا معنی ہے کھٹکھٹانا۔ کسی چیز کو کسی چیز پر ماریں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اُسے کھڑکھڑاہٹ کہتے ہیں۔ قیامت کا نام قارعہ اس لیے ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی تو بڑا کھڑاک ہوگا۔ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، مکان ٹکرائیں گے، درخت ٹکرائیں گے۔ جیسے آج کل کوئی معمولی سی چیز دوسری کے ساتھ ٹکرائے تو دھماکا ہوتا ہے۔ گاڑی، گاڑی سے ٹکرائے تو کتنا دھماکا ہوتا ہے پہاڑ تو آخر پہاڑ ہیں۔ عجیب قسم کا منظر ہوگا۔

تُو فَرَمَايَا الْقَارِعَةَ كَهْرُ كَهْرَانِي وَالِي مَا الْقَارِعَةَ كِيَا هِي كَهْرُ كَهْرَانِي
وَالِي وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةَ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟
ایک دھماکا تو اس وقت ہوگا جب دنیا فنا ہوگی۔ پہاڑ، پہاڑ سے، درخت، درخت سے، دیوار، دیوار سے، نیلے، نیلے سے ٹکرائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ بگل پھونکی جائے گی، ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ يَوْمَ يَكُونُ
الثَّاسِ جس دن ہو جائیں گے لوگ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ بکھرے

ہوئے پتنگوں کی طرح۔ جیسے پروانے بکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے۔ وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی؟

بقول ابن العربی رحمہ اللہ آخری انسان کی پیدائش چین میں:

شیخ اکبر ابن العربی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنا کشف بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کشف میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آخری انسان چین میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کسی انسان کے ہاں پیدائش نہیں ہوگی تیس سال لوگ شادیاں بھی کریں گے لیکن اولاد کسی کے ہاں نہیں ہوگی۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔

تو خیر سارے انسان، جنات، حیوان، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ جو بھی مخلوق ہے وہ ساری اکٹھی ہوگی۔ عجیب قسم کا منظر ہوگا۔ بے ہنگم، بے ترتیب، جیسے پروانے ہوتے ہیں یہ کیفیت ہوگی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ وہ بلند و بالا پہاڑ کہ ان پر چڑھنے سے بعض دفعہ جان چلی جاتی ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس بہر حال وہ جس کے اعمال کے ترازو بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، مزے کر رہا ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہر حال وہ جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ پس اُس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا ترازو میں ٹلنا حق ہے۔ میدان محشر حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت، دوزخ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے۔

اعمال کا تلسنا حق ہے اور معتزلہ کا رد :

معتزلہ ایک فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اُن میں بڑے بڑے فاضل گزرے ہیں۔ وہ ترازو کا انکار کرتے ہیں کہ اعمال ترازو میں تلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب ہے عدل و انصاف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ترازو تسلیم کر لیں، نیکیوں اور بدیوں کا تلسنا تسلیم کر لیں تو معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے۔ تولتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو۔ رب تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتلانا ہے کہ تمہاری نیکیاں اتنی ہیں اور بدیاں اتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بالذات الصدور ہے۔ اس پر جہالت لازم نہیں آتی۔ جہالت الضمیر لازم آتی ہے تول کر بندوں کو دکھانا۔ ہے کہ اپنی نیکیاں اور بدیاں دیکھ لو۔ اس کے مطابق تمہارا نتیجہ بولا جائے گا۔

پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے افعال اور اقوال اعراض کی قسم سے ہیں جو اہر نہیں ہیں۔ عرض وہ شے ہوتی ہے جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا وہ دوسری شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ جیسے سفیدی کپڑے کے ساتھ قائم ہے کپڑے سے الگ قائم نہیں ہو سکتی۔ قول، یہ زبان کے ساتھ قائم ہے، عمل بدن کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا علیحدہ وزن کیسے ہوگا؟ اہل حق فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اس جہان میں اعراض ہیں وہ اُس جہان میں اجسام ہوں گی، ان کے جسم ہوں گے۔

معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے دو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک

پہنچائے۔ ایک یہ کہ اِقْرَأْمِثْقَالَ حَبِّ خَلْتِ السَّلَامَ ”میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دے دینا۔“ جواب میں کہہ دو عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی نَبِيْنَا وَعَلٰی جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

اور دوسرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے طَيِّبَةُ الْاَرْضِ عَذْبَةُ الْمَاءِ ”زرخیز زمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے۔ اس کے لیے درخت تم نے دنیا سے لانے ہیں۔“ وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھو الحمد للہ! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ کہو اللہ اکبر! ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ ایک درخت لگ گیا۔ اس جہان میں ایک کلمے کی دس نیکیاں ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ مٹ جاتا ہے اور ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا اتنے زیادہ درخت جنت میں لگیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے کَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيْفَتَانِ عَلٰى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَحْمَدٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ”اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت پیارے اور محبوب ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اور پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ قیامت والے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑا وزن ہوگا۔ ایک کلمہ سبحان اللہ وجمہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔“ اس جہان میں تو یہ قول ہیں اُس جہان میں درخت ہوں گے۔ کیوں کہ اس جہان کا معاملہ اور ہے اور اُس جہان کا معاملہ اور ہوگا۔

پھر اب تو اعراض بھی تلتے ہیں۔ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اتنے درجے کا بخار ہے، ہوا بھی تلتی ہے تم کہتے ہو اتنے پونڈ ہوا بھر دو۔ لہذا اعمال کا تلنا حق ہے اور کئی خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔

بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے
خوش نصیب :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُمْ الَّذِينَ "وہ وہ لوگ ہوں گے لَا يَسْتَرْقُونَ جو دم جھاڑ نہیں کروائیں گے نہ غلط قسم کے تعویذ کرائیں گے نہ غلط قسم کا دم کرائیں گے۔ اور لَا يَكْتُمُونَ بلا وجہ بدن میں داغ نہیں لگوائیں گے لَا يَتَطَيَّرُونَ بدفالی حاصل نہیں کریں گے کہ کوئی عورت گھر آگئی اور یہ قدرتا بیمار ہو گیا تو کہا کہ فلانی آئی تھی اس نے بیمار کر دیا۔ یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) اس روایت سے معلوم ہوا کہ ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

بڑی خوشی کی بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہت زیادہ ہے اس میں سے صرف ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں تو یہ کوئی خاص فضل تو نہ ہوا۔ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ روایات صحیح ہیں۔ ان میں ایک روایت ہے عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما والی اور دوسری روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما سے۔ اور تیسری روایت ہے عتبہ سلمی رضی اللہ عنہما سے۔ سند کے لحاظ سے یہ روایات صحیح ہیں۔ ان

میں آتا ہے کہ یہ جو ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے مَعَ كُلِّ رَجُلٍ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ” ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار ہوں گے۔“ اس کا حساب تم خود کر لینا کہ کتنے بنتے ہیں۔

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ ستر، ستر ہزار ہوں گے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے وَثَلَاثُ حِشْيَاتٍ مِنْ حِشْيَاتِ رَبِّي ” اور رب تعالیٰ کے تین چلو بھی ہوں گے۔ یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔“ عقیدہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے، بڑی گنجائش ہے۔

تو ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔

ایک نیکی سب بدیوں پر بھاری :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا اس کی نیکیوں کی طرف ایک پرچی ہوگی بِطَاقَةٍ۔ اور برائیوں کے ننانوے رجسٹروں ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِّلَاتُ ” اس پرچی کی ننانوے رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟“ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرا قانون ہے نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ کہے گا پروردگار! مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کریں جو آپ کا قانون ہے وہ میرے سر آنکھوں پر۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں وزن ہوگا۔

چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے

میں ننانوے رجسٹر رکھے جائیں گے مگر پرچی والا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ کہے گا اے پروردگار! یہ میری کون سی نیکی ہے جو اتنے رجسٹروں پر بھاری ہوگئی ہے؟ تو رب تعالیٰ اسے دکھائیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس کے پاس صرف عقیدے والی نیکی ہوگی۔ لیکن کسی مغالطے میں نہ آنا کہ چلو بھائی جتنے گناہ کرتے پھریں ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔

یاد رکھنا! یہ اُس آدمی کی بات ہے جس کی ساری زندگی کفر شرک میں گزری اور مرنے سے پہلے اس کو صرف اتنا موقع ملا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مزید کسی نیکی کا موقع نہیں ملا اور فوت ہو گیا۔ لہذا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ اکسیر اعظم کا نسخہ مل گیا ہے کلمہ شہادت پڑھ لو یہ سارے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ پیدائشی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ برائیاں کریں، بد معاشیاں کریں اور محض کلمہ شہادت جنازے کے ساتھ پڑھنے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔

تو فرمایا بہر حال جس کے موازین ہلکے ہوئے فَأَمَّةٌ هَاوِيَةٌ پس اُس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ اور اُمُّ کا ایک معنی اُمُّ دماغ بھی کرتے ہیں۔ سر میں جو غزبے آدمی کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو الٹا کر کے نیچے گرایا جائے گا، سر کے بل گرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا دماغ جا کر لگے گا۔ اور دوسرا معنی کرتے ہیں ٹھکانا۔ جیسے چھوٹے بچوں کا ٹھکانا ماں کی گود ہوتی ہے اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

وَمَا آذْرٰكَ مَا هِيَ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ ہاویہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةٌ آگ ہے بھڑکنے والی۔ یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں

لو ہے تک ہر چیز پگھل جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس سے ابتر گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح ایمان، اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ میزان کے موقع پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے اور صحیح سالم پل صراط سے گزار دے اور جنت میں پہنچا دے۔

[امین]



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and low contrast.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and low contrast.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

(مكمل)

جلد ۲۱



ایاتھا ۸ ۱۰۲ سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ ۱۲ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝
 ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝
 لَتَرُوْنَ الْجَحِیْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۝ ثُمَّ لَتَسْئَلُنَّ
 یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۝

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ غافل کر دیا تمہیں کثرت نے حَتّٰی
 زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی كَلَّا
 خبردار سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عن قریب تم جان لو گے ثُمَّ كَلَّا
 پھر خبردار سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عن قریب تم جان لو گے كَلَّا
 خبردار لَوْ تَعْلَمُوْنَ اگر تم جان لو عِلْمَ الْیَقِیْنِ یقینی طور پر
 جاننا لَتَرُوْنَ الْجَحِیْمَ البتہ ضرور دیکھو گے تم دوزخ کو ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا
 پھر البتہ تم دیکھو گے اس کو عِیْنَ الْیَقِیْنِ یقین کی آنکھ سے ثُمَّ
 لَتَسْئَلُنَّ پھر البتہ پوچھا جائے گا تم سے یَوْمَئِذٍ اُس دن عَنِ
 النَّعِیْمِ نعمتوں کے بارے میں۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں تکاثر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت سوٹھویں ﴿۱۶﴾ نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پندرہ ﴿۱۵﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آٹھ ﴿۸﴾ آیتیں ہیں۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ اَلْهٰکُمْ التَّکَاثُرُ غافل کر دیا تمہیں رب کی بندگی سے، عبادت سے اور اطاعت سے کثرت نے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اولاد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میری پارٹی بڑی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کارخانے زیادہ ہیں۔ یہ کثرت کا اظہار تمہیں لے ڈوبا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ "میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا۔" مالی لحاظ سے غریب اور کمزور ہو گے تو تمہارا دین تو قائم رہے گا۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ تُقْسِطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا "تم پر دنیا پھیلائی جائے گی۔" دولت زیادہ ہوگی تو تم میں سے گمراہ زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحیح فرمایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ إِلَى الْغُرَبَاءِ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ "اسلام کی ابتدا غریبوں میں ہوئی اور غریبوں میں ہی رہے گا میری طرف سے غریبوں کو مبارک باد ہے۔" آج بھی دین غریبوں میں ہے۔ امیروں میں سو میں سے ایک دو نکلیں گے جو صحیح معنی میں امیر ہیں۔ امیر لوگوں کو دین کے

ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دین کے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے غریب رکھا ہے۔ عموماً مال آدمی میں بے راہ روی اور سرکشی پیدا کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَّوْا فِي الْأَرْضِ ﴿الشوریٰ: ۲۷﴾

”اور اگر اللہ تعالیٰ کشاہدہ کر دے روزی اپنے بندوں کے لیے تو البتہ سرکشی کریں زمین میں۔“

روز بہ روز یہی فکر ہے کہ اور بڑھے، اور بڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ ذَهَبٍ لَا بَتَغِي ثَالِثًا ”اگر ہوں انسان کے لیے دو میدان سونے کے بھرے ہوئے تو سیر نہیں ہوگا تیسرے میدان کی تلاش میں ہوگا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔“ کہتا ہے مَالِي مَالِي ”میرا مال، میرا مال“ اے بندے! تیرا کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھالیا، پی لیا، پہن لیا یا اپنے ہاتھ سے دے چکا ہے، خیرات کی ہے۔ باقی تو وارثوں کا ہے۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہو اپنے مال سے۔ کہنے لگے حضرت! ایسا آدمی تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تم سارے ہو۔ کیوں کہ جس مال کو تم سنبھالے پھرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے تمہارے عزیزوں کا ہے جس کے لیے تم پا پڑ بیلتے ہو۔ سچ جھوٹ کو خلط ملط کرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے تمہارے وارثوں کا ہے۔ پھر اگر وارث نیک ہیں، کھائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا اور اگر پسماندگان معاذ اللہ بڑے ہیں، بے نماز، روزے خور، جو اکیلنے والے، نشہ کرنے والے، تو تمہیں قبر

میں پڑے ہوئے بھی سزا ہوگی کہ یہ تمہارا مال کھا کر بد اعمالیاں کر رہے ہیں۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا قبر تک بندے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ دو
واپس آ جاتی ہیں ایک ساتھ رہتی ہے۔ ایک تو عزیز رشتہ دار جنازے کے ساتھ جاتے
ہیں، واپس آ جاتے ہیں چاہے کتنے قریبی کیوں نہ ہوں ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہیں
ہے۔ ماں جو کہتی ہے بیٹے میں تجھ پر قربان! وہ بھی ساتھ نہیں جاتی۔ پشتو کی کہاوت ہے کہ
ماں کہتی تھی اپنے بیٹے کو:

”زہ پرتا قربا یم“

”میں تجھ پر قربان۔“ بیٹے کو تیز بخار چڑھ گیا اور یہ ظاہر مایوسی ہو گئی کہ نہیں بچے گا۔ نیم
چاندنی رات تھی اتفاقاً نیل کھل کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عزرائیل علیہ السلام آ گئے
ہیں۔ کہنے لگی اے عزرائیل علیہ السلام! ”دہ جوڑا دہ جوڑ فرق گواہ مامہ وڑہ۔“ بیمار اور تن درست کا
فرق کرنا کہیں مجھے نہ لے جانا۔

تو ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ دوسرا: مال جاتا ہے۔ مال سے مراد چار پائی، چادر
وغیرہ۔ وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسری ساتھ جانے والی چیز ایمان اور عمل ہے۔ اس کا
ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔

شان نزول :

تو فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی۔ تفسیر کبیر میں واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں
دو برادریاں تھیں۔ بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک
برادری نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ دوسروں نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ اس پر اختلاف ہو گیا۔ سمجھ

دار آدمیوں نے کہا کہ جھگڑانہ کرو ایک شہر میں رہنے والے ہو مردم شماری کر لو۔ مردم شماری کی گئی تو بنو عبد مناف کے افراد بڑھ گئے۔ انھوں نے نعرے بازی کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ بنو سہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم تھوڑے نکلے۔ بنو سہم نے کہا کہ قبروں کو بھی شمار کرو۔ چنانچہ قبرستان گئے تو بنو سہم کے مردے زیادہ نکلے۔ انھوں نے وہاں نعرے بازی کی، خوشی منائی کہ ہم زیادہ ہیں۔ تو فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی یعنی مردوں کو بھی مردم شماری میں شامل کیا۔

(اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں اَلْهَكْمُ التَّكَاثُرُ کثرت کے اظہار نے تمہیں غفلت میں ڈالا حتیٰ کہ تم نے مقابر کی زیارت کی۔ یعنی دنیا میں انھی چیزوں میں مگن رہے اور پھر مر گئے تم اور قبروں تک پہنچ گئے۔)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا يَهْرُؤُا بَنُ اَدَمَ وَيَسْبُتُ خَصْلَتَانِ "آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو خصلتیں اس میں جوان رہتی ہیں اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ جوں جوں بڑا ہوتا ہے مال کی حرص بڑھ جاتی ہے اور دوسری عمر کی۔" چاہے جتنی عمر ہو جائے چاہے گامچھے اور عمر مل جائے۔

شاہ پور کھیالی میں ایک بابا ہوتا تھا ایک سو پانچ سال اس کی عمر تھی۔ بات کرتا تو کہتا تھا کہ جتنی میری عمر گزری ہے معلوم نہیں اتنی اور ہے یا نہیں مگر بات میں سچی کرتا ہوں۔ ایک سو پانچ سال کھا کر بھی وہ سیر نہیں ہوا۔

آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا حضرت! کون سا آدمی اچھا ہے۔ فرمایا مَنْ ظَالَ عُمُرَهُ وَحَسَنَ عَمَلَهُ "جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔" حضرت! ائى النَّاسِ شَرُّ بَرِّ اَدَمِي كَوْنِ سَاہِي؟ فرمایا مَنْ ظَالَ عُمُرَهُ وَسَاءَ

عَمَلَةٌ ” جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل بُرے ہوں۔“ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی آدمی کی ڈاڑھی میں سفید بال آجاتا تھا یا سر میں ایک بال سفید آجاتا تھا تو اس میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا کہ اب میں گیا کہ نذیر، ڈرانے والی چیز آگئی ہے۔ میری موت قریب ہے۔ (اور اب سارے جسم کے بال بھی سفید ہو جائیں پھر بھی کوئی پروا نہیں ہے۔ اور معاف رکھنا! ہم مکمل سفید ہو جائیں پھر بھی نہیں بدلتے۔ نہ آج ہمارا اچھا ہے اور نہ کل آنے والا اچھا ہوگا۔

فرمایا كَلَّا خَبِرَدَارٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيبٍ تَمَّ جَان لَوَكَّ۔
آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے، دوزخ بھی سامنے۔ دنیا کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں۔ جس طرح بے ہوش کر بھکے آپریشن کرتے ہیں اس وقت پتا نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب نشہ اترتا ہے اور ہوش آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ میرا بازو کٹ چکا ہے، ٹانگ کٹ چکی ہے، پیٹ حیرا گیا ہے۔ پھر درد بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے نشہ اتر جائے گا اور سب کیا دھرا سامنے آجائے گا۔

فرمایا ثُمَّ كَلَّا پھر خَبِرَدَارٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيبٍ تَمَّ جَان لَوَكَّ
گے كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ خَبِرَدَارٌ اِذَا تَمَّ جَان لَوْ يَقِينِي طَوْرًا بِرَجَانِنَا
لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ البتہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو، آگ کے شعلوں کو۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے اہتر گنا تیز ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔

علم کے تین درجات :

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ”معارف لدنیۃ“ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔

علم الیقین اُسے کہتے ہیں کہ سچا آدمی کوئی بات کہے مثلاً ایک آدمی نے کہا کہ آگ جلا دیتی ہے اور آپ نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن بتانے والے کی سچائی کا آپ کو علم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ علم الیقین ہے۔ کہ جس طرح اس نے کہا ہے ایسا ہی ہے۔

اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ آگ کو جلاتے ہوئے دیکھیں کہ وہ چیزیں جلا رہی ہے۔ اور آپ چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ علم الیقین ہے۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں جل جائے۔ پھر اس سے آگے علم کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔

فرمایا تمہیں یہ ساری باتیں حق الیقین کے طور پر حاصل ہو جائیں گی کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ثُمَّ لَسْتُمْ لَهَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر تم سے البتہ پوچھا جائے گا اُس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، کان دیئے، آنکھیں دیں، دل دیا، ہاتھ پاؤں دیئے، صحت دی۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں خرچ کیا، ان سے کیا کام لیا؟ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ۳۶ میں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ”کان، آنکھ، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔“ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، صحت دی، فراغت دی، ان

کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ چیزیں تم نے کہاں استعمال کیں۔ پہلے لوگ اچھے تھے دنیا ان کی اگرچہ تنگ تھی لیکن آخرت آسان تھی۔ ہم جتنے آرام میں ہیں یقین جانو! آخرت میں اتنے تنگ ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی سہولتیں عطا فرمائی ہیں اتنا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

ترمذی شریف کی روایت ہے آنحضرت ﷺ نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگیں کوئی چیز نہیں ہے۔ بھوک نے بے تاب کیا تو مسجد میں جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آگئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آگئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت بھوک نے بے تاب کیا تو باہر آگئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسی ہی بھوک نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ فرمایا اچھا چلو! تینوں ہستیاں چل پڑیں۔

حضرت ابوالہشیم انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے باغ تھا۔ باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوالہشیم رضی اللہ عنہ ذرا مال دار تھے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے ہیں اور ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ خوش آمدید کہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابوالہشیم کہاں ہیں؟ بیوی نے بتایا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں ابھی آجاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آگئے۔ دیکھ کر بڑے حیران اور خوش ہوئے کہ بزرگ ہستیاں میرے گھر آگئی ہیں۔ کھجوروں کا گچھالا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت! میں بکری ذبح کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کھانا تیار کر لاتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اِيَّاكَ وَالْحُلُوْبَةَ ”دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس

سے دودھ کی قلت پیدا ہوگی۔ اسی لیے فقہائے کرام رضی اللہ عنہم نے تصریح فرمائی ہے کہ دودھ والے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ وہ گئے، بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور کھانا تیار کر کے لے آئے۔ تینوں حضرات نے کھانا کھایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ پھر بعض نادان ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے الحمد للہ! کہہ دیا بس سارا شکر ادا ہو گیا۔ بھئی! نعمتوں کا فائدہ تو سارا بدن اٹھائے اور شکرے کے لیے صرف دو تولے کی زبان ہلے۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز میں ہے کہ اس سے سارا جسم خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ جتنا شکر نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے اور کسی چیز سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو، موت کو نہ بھولو، قبر اور آخرت کی تیاری کرو۔ جنت دوزخ کو سامنے رکھو، پل صراط کو آنکھوں کے سامنے رکھو، میزان کو نہ بھولو اور غفلت میں زندگی نہ گزارو۔




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْعَصْرِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۳ ۱۲ سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۲ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالْعَصْرِ ۱۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۱۲ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۱۳ وَتَوٰصَوْا بِالْحَقِّ ۱۴ وَتَوٰصَوْا بِالصَّبْرِ ۱۵

وَالْعَصْرِ قسم ہے عصر کی اِنَّ الْاِنْسَانَ بے شک سارے انسان لَفِي خُسْرٍ البتہ گھائے میں ہیں اِلَّا الَّذِيْنَ مگر وہ لوگ اٰمَنُوْا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور عمل کیے اچھے وَ تَوٰصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بِالْحَقِّ حق پر قائم رہنے کی وَتَوٰصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بِالصَّبْرِ صبر کی۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں عصر کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بارہ ﴿۱۲﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تیر ہواں ﴿۱۳﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیات ہیں۔

قرآن کریم کی ایک سو چودہ ﴿۱۱۴﴾ سورتیں ہیں۔ ان میں سے تین سورتیں سب

سے مختصر ہیں۔ ایک سورۃ العصر ہے اور دوسری سورۃ الکوثر ہے اور تیسری سورۃ النصر ہے۔ ان کی تین، تین آیتیں ہیں۔ ان تین سورتوں کے سوا قرآن کریم میں کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کی تین آیتیں ہوں۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم تین آیتیں پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی۔ یا ایک آیت کریمہ جو بقدر تین آیتوں کے لمبی ہو پڑھنی چاہیے، اکیلا پڑھے یا جماعت کرائے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کریمہ آیت تداین ہے

﴿إِذَا تَدَايَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ حَتَّىٰ آجُلٌ مُّسْتَأْتِي﴾ (البقرہ: ۲۸۲)

سورۃ العصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ نے روایات ذکر کی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عموماً یہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر جاتے تھے۔ یعنی اس سورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو اور ان کی پابندی کرو۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔

عصر کی مختلف تفسیریں :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ قسم ہے عصر کی۔ عصر کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عصر سے مراد زمانہ ہے۔ لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ تو عصر سے مراد گزشتہ زمانہ ہے۔ کیوں کہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے خود دیکھا ہوتا ہے یا تاریخی واقعات سے ہوتے ہیں لہذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہوتا۔ اور زمانے ہی میں ایمان، کفر، خیر، شر ہے۔ اور زمانہ ظرف ہے۔ تو معنی ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عصر سے عصر کا وقت مراد ہے۔ کیوں کہ عصر کے وقت

کی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۳۸ میں ہے **حِيفُظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰةِ الْوَسْطٰی** ”تمام نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی۔“

تیسری تفسیر یہ ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا **مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلٰوَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا بَوَّأَتْهُ لِأَهْلِهِ وَمَالِهِ** ”جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور مال بھی سارا لوٹ لیا گیا۔“ تصور کرو کہ جس کے گھر کے سارے افراد ختم ہو جائیں اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا؟ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین کا ایک گروہ کہتا ہے فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر ہے کہ بیمار ہے، مسافر ہے۔ تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نماز کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کا مستحب وقت فوت کر دیا کہ مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی مجبوری کے۔ مسافر نہیں، بیمار نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور یہ مست ہو کر اپنے کاموں میں لگا رہا اور مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی گناہ ہے۔

کتاب الروح کا ایک عبرت ناک واقعہ :

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بڑا نیک

آدمی تھا۔ بیوی بھی نیک۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا وہ بھی نیک تھے۔ اچھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد نوجوان لڑکی بھی فوت ہو گئی۔ لوگ جب دفن کے جائے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تلوار ہاتھ میں لی اور والدہ سے کہا کہ بتا میری بہن میں کیا عیب تھا؟ کیوں کہ اولاد کے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ والدہ سمجھی کہ چند دن پہلے اس کا والد فوت ہوا ہے اور اب بہن فوت ہو گئی ہے بے چارے کا دماغی توازن قائم نہیں رہا اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ والدہ نے سمجھنا شروع کیا کہ بیٹے تیرا باپ تھا، میرا خاوند تھا، تیری بہن تھی میری بیٹی تھی، صدمہ مجھے بھی ہے صدمے کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا امی! ایسی بات نہیں ہے سب نے مرنا ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ میری ہمشیرہ میں عیب کیا تھا کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اُٹھے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے! تیری ہمشیرہ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جب سے وہ جوان ہوئی نہ ہمارے گھر کوئی اجنبی آیا اور نہ ہی میں نے اس کو کسی رشتہ دار کے گھر جانے دیا۔ بس ایک عیب تھا کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی مستحب وقت میں نہیں پڑھتی تھی۔

علمائے وقت سے پوچھا گیا تو انھوں نے بتایا کہ اس کا لیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا۔ اور جو پڑھتے ہی نہ ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ خود سوچ لیں۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلا دیں اور اگر ہم قبر کے حالات دیکھ لیں تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے اور دنیا کا سارا نظام معطل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور مستحب وقت بھی ہے۔
توفرمایا قسم ہے عصر کی إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ بے شک سارے انسان

البتہ گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے والے وہ ہیں جن میں چار خوبیاں ہیں۔
 فرمایا **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا** مگر وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح معنی میں۔ یعنی جس کو قرآن
 ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے۔ محض دعویٰ ایمان سے
 کچھ نہیں بنتا اور نہ کوئی فائدہ ہے۔

باطل فرقے :

دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ہی میں کتنے ہی باطل فرقے ہیں جو
 ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ حالانکہ نہ وہ از
 روئے قرآن مومن ہیں، نہ از روئے حدیث مومن ہیں اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے
 مومن ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ذکری فرقہ ہے، رافضیوں کو دیکھ لو، سر
 سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوؤں کو دیکھ لو۔ اسی طرح کمیونزم والے ہیں،
 سوشلزم والے ہیں۔ یہ سب اسلام سے خارج ہیں۔ مگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔
 پرویزی پکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

غلام احمد پرویز نت کلاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے
 چار جلدوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس نے میری طرح
 قرآن سمجھا ہو۔ ساری زندگی انگریز کے بوٹ صاف کرتا رہا، انگریز کا ملازم تھا، کسی استاد
 سے قرآن شریف پڑھا نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیسا قرآن کسی نے نہیں
 سمجھا (بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جس طرح کا اس نے سمجھا ہے اس طرح کا تو کسی نے
 نہیں سمجھا اور نہ ہی آنحضرت ﷺ نے سمجھایا ہے۔ مرتب)

کہتا ہے کہ اگر سائنس یہ ثابت کر دے کہ آدمی اپنے عنصر جسم کے ساتھ چند منٹ

میں چاند تک پہنچ سکتا ہے، آسمان تک پہنچ سکتا ہے میں پھر بھی ہرگز، ہرگز رسول اکرم کے معراج جسمانی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اُس وقت ابھی امریکہ نے خلائی جہاز نہیں چلائے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب اس نے یہ بات تفسیر میں لکھی۔ یہ بے ایمان قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنا بیٹھا ہے۔ یہ لوگ گھروں میں مفت رسالے تقسیم کرتے ہیں۔ ان سے بچو۔ لہذا جب تمہارے پاس کوئی کتاب آئے تو پوچھو یہ کتاب کس مسلک کی ہے، کس فرقے کی ہے۔ یہ باطل فرقے کتابیں اور رسالے تقسیم کرتے رہتے ہیں، احتیاط کرو۔ ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ کراچی میں ایک نیا فتنہ ڈاکٹر عثمان کا کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو مفت کتابیں اور رسالے بھیجتے ہیں ان سے ایمان کو بچاؤ۔

احمد رضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے کنز الایمان۔ اُردو ترجموں میں اتنا غلط ترجمہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، با وضو ہوں میرے سامنے قرآن شریف ہے، قبر کے کنارے پر ہوں، خدا کو جواب دینا ہے، اتنا غلط ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ شاہد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴿۱۳۵﴾ الاحزاب: ۱۳۵ تو شَٰهِدًا کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ حالانکہ فقہائے کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے وہ کافر ہے۔ اب عام آدمی جو دیکھے گا تو وہ کہے گا حاضر و ناظر تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ کون کون سے فتنے کی نشان دہی کی جائے۔ کوئی ایک فتنہ ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔

دوسری خوبی خسار سے بچنے کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ تیسری خوبی: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی۔ مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں سچ عقیدے کو نہ چھوڑنا، عبادت کو نہ چھوڑنا، حرام

کے قریب نہ جانا اور تمہارے بھی ذمہ یہ فرض ہے کہ جس جس کو ملو اس کو تلقین کرو کہ بھائی! یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کے ہیں۔

خسارے سے بچنے والوں کی چوتھی خوبی: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا معنی ہے تاکید حکم کرتے ہیں صبر کا۔ کہ ایمان پر قائم رہنا، حق کی بات پر قائم رہنا۔ حق کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہے۔

عمرو بن العاص اور میلہ کذاب کا مکالمہ :

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یمامہ کے علاقے میں گئے جہاں میلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا خاندان، قبیلہ بنو حنیفہ بڑا جنگجو تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے ساتھ مقابلہ میں چودہ سو ۱۴۰۰ صحابہ جن میں سات سو ۷۰۰ حافظ قرآن تھے، شہید ہوئے تھے اور بالآخر یہ فی النار ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حالت کفر میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ ان دنوں سورۃ العصر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ میلہ کذاب نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے يَا وَبَّوْ يَا وَبَّوْ إِنَّكَ ذُو الْأُذُنَيْنِ وَالصَّدْرِ وَسَائِرُكَ تَقَرُّ حَقَرٌ۔ یعنی اس نے سورۃ العصر کی نقل اتاری۔ وَبَّوْ ایک جنگلی جانور ہے بلے کی شکل کا۔ اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور چھاتی ابھری ہوئی ہوتی ہے اور باقی بدن اس کا دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ ہے: ”اے جنگلی بلے، اے جنگلی بلے! تیرے کان ہی کان ہیں اور تیرا

سینہ ہی سینہ ہے باقی بدن میں تو کمزور ہے۔“

یہ سنا کے مسیلمہ کذاب نے عمرو بن العاص سے کہا بتلاؤ بات بنی ہے۔ یعنی مقابلہ میں سورت ٹھیک ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا إِنَّكَ تَكْذِبُ ”بے شک تو جھوٹ بول رہا ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔“ حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو مسیلمہ کذاب کہتا کہ تو طرف داری کر رہا ہے۔ تو یہ چار خوبیاں جس میں ہوں گی وہ کامیاب ہے۔ باقی سارے خسارے میں ہیں۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْهُنَّةِ

(مكمل)

جلد — ۲۱

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and a list of the publications issued during the year.

The work during the year has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council of the Institute. It has been carried out in a most efficient and economical manner and has resulted in a number of important publications.

The following is a list of the publications issued during the year:

- 1. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 1, 1950.
- 2. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 2, 1950.
- 3. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 3, 1950.
- 4. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 4, 1950.
- 5. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 5, 1950.
- 6. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 6, 1950.
- 7. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 7, 1950.
- 8. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 8, 1950.
- 9. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 9, 1950.
- 10. *Journal of the Institute*, Vol. 1, No. 10, 1950.

The work during the year has been most successful and has resulted in a number of important publications. It is hoped that the work during the next year will be equally successful.

أياتها ۹ ﴿۱۰۴﴾ سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ ۲۲ ﴿۱﴾ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿۱﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿۵﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ﴿۶﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفِيدَةِ ﴿۷﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿۸﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

وَيْلٌ ہلاکت ہے لِكُلِّ هُمَزَةٍ ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر
عیب بیان کرتا ہے لُّمَزَةٍ جو غائبانہ عیب بیان کرتا ہے الَّذِي
جَمَعَ مَالًا وہ جس نے جمع کیا مال وَعَدَّدَهُ اور گنتا رہتا ہے اس کو
يَحْسَبُ گمان کرتا ہے وہ أَنَّ مَالَهُ کہ بے شک اس کا مال أَخْلَدَهُ
ہمیشہ رکھے گا اس کو كَلَّا خبردار لَيُنْبَذَنَّ البتہ ضرور ڈالا جائے گا اس
کو فِي الْحُطَمَةِ چور چور کر دینے والی میں وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ
کو کس نے بتلایا مَا الْحُطَمَةُ کیا ہے چور چور کر دینے والی نَارُ اللَّهِ
اللہ تعالیٰ کی آگ ہے الْمَوْقَدَةُ جلانی ہوئی الَّتِي تَطَّلِعُ وہ آگ
جو پہنچ جاتی ہے عَلَى الْأَفِيدَةِ دلوں پر إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ بے شک
یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ لے لے ستونوں میں۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں ہمزہ کا لفظ موجود ہے۔ جس سے سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اکتیس ﴿۳۱﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا نزول کے اعتبار سے بتیسواں ﴿۳۲﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور نو ﴿۹﴾ آیتیں ہیں۔

مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مخالف تھے۔ لیکن مخالفین میں بعض شریف الطبع تھے کہ مخالفت کے باوجود گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ اور بعض مخالفت میں اتنے سخت تھے کہ شرارت سے باز نہیں آتے تھے ہاتھ پائی بھی کرتے اور زبان درازی بھی کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنگ کرنا، غلاموں کو مارنا، لونڈیوں کو مارنا، تنگ کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان درازی کرتے اور بعض غائبانہ، پشت کے پیچھے کہتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ ماں باپ اس کے سر پر نہیں ہیں۔ اس طرح یہ لوگوں کو قریب کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا مال مقصد نہیں ہے، رشتہ لینا مقصد ہے کہ عموماً رشتہ والدین کرتے ہیں یا داد ادا دی کرتے ہیں۔ وہ تو ہیں نہیں تو یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر کے رشتہ لینا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ الغرض جو بات کسی کے منہ میں آتی، کرتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف :

تاریخ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے تین بھائی سردار تھے۔ عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی بڑی نرمی کے ساتھ حق ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں اور قیامت کو حق سمجھو، میری نبوت پر ایمان لاؤ، قرآن پاک کو سچا مانو، سچ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی عورت کو بڑی نگاہ سے نہ دیکھو، چوری نہ کرو، ڈاکا نہ ڈالو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو۔

ایک بھائی نے کہا تیرے پاس فوج کتنی ہے، دولت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نہ فوج ہے نہ دولت ہے۔ کہنے لگا رب کو یتیم ہی ملتا تھا رسالت کے لیے اور کوئی اچھا آدمی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر رب نے تجھے نبی بنایا ہے تو کعبہ کا غلاف پھاڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بڑی ناقدری کی ہے تیرے جیسے یتیم اور مسکین کو نبوت دے کر۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرا جانے لگا تو نوجوانوں کو اس نے اشارے سے کہا کہ اس کی پٹائی کرو، حوصلہ شکنی کرو کہ پھر ادھر نہ آئے۔ تینوں بھائی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور شرارت کا اشارہ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں سے واپس مڑے تو طائف کے لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ گھٹنوں اور ٹانگوں پر پتھر مارے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ جوتے خون سے بھر گئے۔

اور تاریخ میں مکہ مکرمہ کے تین آدمیوں کا نام آتا ہے، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریق۔ یہ بھی بڑے بے لحاظ اور منہ پھٹ آدمی تھے۔ اور ابو جہل بھی انھی منہ پھٹ آدمیوں میں سے تھا۔ ان میں سے ہر ایک آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان

درازی کرتا رہتا تھا کہ کیا تو سونے کی کوٹھی میں رہتا ہے، تیرے پاس کتنا مال ہے، تیرے کتنے نوکر ہیں، رب تعالیٰ نے تجھے کس چیز کی نبوت دی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَيْلٌ** ہلاکت ہے۔ **وَيْلٌ** کے عربی میں کئی معانی آتے ہیں ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ **وَيْلٌ** جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ طبقہ اتنا گہرا ہے کہ اوپر سے آدمی کو پھینکا جائے تو آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا ستر سال کے بعد نیچے پہنچے گا۔ حال آں کہ آدمی وزنی ہوتا ہے اور وزنی چیز جلدی نیچے جاتی ہے۔ اس طبقے سے باقی طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ طبقہ کس کے لیے ہوگا؟

ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر :

لِكَلِّ هُمَزَةٍ ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے کہ تجھ میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ **لَمَزَةٍ** جو غائبانہ عیب بیان کرتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔

بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو زبان سے عیب بیان کرے اور لمزہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کے اشارے سے عیب بتلائے۔ مثلاً: کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے کہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے۔ کوئی نابینا ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ وہ نابینا ہے۔ کسی کا گونگا ہونا زبان نکال کر بتلائے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ قد آور تھیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد سب سے چھوٹا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کوئی پیغام لے کر آئی۔

آنحضرت ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے۔ اس کے چھوٹے قد والی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ﷺ نے دیکھ لیا۔ فرمایا اے عائشہ! اس طرح کرنا بڑا گناہ ہے چاہے کوئی راضی ہو یا غائب ہو۔ اس طرح اشارہ کر کے تو نے جو تحقیر کی ہے اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس گناہ کی وجہ سے سمندر کڑوا ہو جائے۔ اگر وہ چھوٹے قد کی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو اتنا قد دیا ہے۔ گویا کہ یہ رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہوا۔ اگر بندے کے اختیار میں ہو تو کوئی شخص دنیا میں بونا نہ ہو۔ یہ تو رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو کسی کا عیب بیان کرنا، دل آزاری کرنا بڑا گناہ ہے چاہے موجود ہو یا غائب ہو۔

فرمایا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وہ جس نے جمع کیا مال۔ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ سب سے بڑا مال دار تھا۔ تیرہ اس کے بیٹے تھے خود بھی بڑا صحت مند تھا۔ اولاد میں بیٹھا ہوتا تھا تو فرق نہیں ہو سکتا تھا کہ بھائی ہے یا باپ ہے۔ نوکر چاکر بھی کافی تھے۔ وہ بڑا مال جمع کرتا تھا وَعَدَدَةٌ اور گنتا رہتا ہے اس کو۔ جب یہ کمرے میں اکیلا ہوتا تھا تو گنتا رہتا تھا کہ میرے مال میں سے کسی بیٹے یا بہو نے کم تو نہیں کر دیا۔ گن گن کر خوش ہوتا تھا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، زوال نہیں آئے گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر دیا۔ باقی مال تو تیرے وارثوں کا ہے اگر نیک ہیں اچھی جگہ میں لگائیں گے تجھے اجر ملے گا۔ بُرے ہیں، بُرے جگہ خرچ کریں گے تجھے بھی گناہ ہوگا۔

بخاری شریف کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر تک

تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز ساتھ رہتی ہے۔ رشتہ دار، ماں باپ، اولاد واپس آ جاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ اور دوسری چیز مال، چارپائی، چادر وغیرہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں مردے کے نیچے چٹائی، روئی وغیرہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نیچے چٹائی ڈال دیتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ نیچے زمین گیلی تھی، نیچے نمی تھی، سب غلط ہے۔ صرف عمل ساتھ ہوں گے۔ اگر کسی گناہ گار کو بڑے مکان میں دفن کر دو تو اس کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی اور اگر کسی مومن کو تنگ قبر میں دفن کر دو گے تو اس کی قبر ستر، ستر ہاتھ عرضاً، طولاً کشادہ ہو جائے گی۔ قبر کی تنگی اور کشادگی کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے **الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّيِّدَانِ** ”قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔“ سارا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام مبشر بشر ہے اور کافر، گناہ گاروں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتے سوال کر لیتے ہیں اس کے بعد اچانک اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو قبر میں ایسا خوب صورت آدمی، عمدہ لباس، خوشبوؤں والا، اس کے پاس آتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑا چلا پھرا ہوں ایسا خوب صورت آدمی میں نے نہیں دیکھا، ایسی خوش بو کبھی نہیں سونگھی، ایسا بہترین لباس میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کون ہے، کہاں سے آ گیا ہے؟ قبر

میں روشنی ہوگی جیسے ٹیوبیں روشن ہوتی ہیں۔ اَلصَّلٰوَةُ نُورٌ وہ نماز کی روشنی ہوگی۔ وہ بڑے خاص انداز میں کہے گا اَمَّا تَعْرِفُنِي ”کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے۔“ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ”میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شکل میں تیرا ساتھی بنا کر بھیجا ہے۔“ اگر مرنے والا بُرا آدمی ہے تو گریہ اَلْمَنْظَرُ بُرِي شَكْلٌ وَالْاَدَمِي اس کے سامنے آئے گا ایسی بُری شکل کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ایسا بدبودار لباس پہنے ہوگا کہ اس سے دماغ پھٹے گا۔ یہ کہے گا اے اللہ کے بندے! میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں تو بد صورت کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میرے لیے اور مصیبت ہے۔ وہ بڑے استغناء کے ساتھ کہے گا تو مجھے نہیں جانتا۔ وہ کہے گا میں نے تیرے جیسا بد صورت کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ جواب میں کہے گا اَنَا عَمَلُكَ الشُّوْءُ ”میں تیرا بُرا عمل ہوں۔ میں تیرے گلے کا ہار بن کے رہوں گا۔“ تو قبر کی اچھائی، بُرائی عمل کے ساتھ ہے چٹائیاں بچھانے سے نہیں ہے۔

فرمایا كَلَّا خَيْرٌ اَللّٰهُ لَيَنْبُذَنَّ فِي الْخُطْمَةِ اَلْبَتَّةُ ضَرُورًا بِالضَّرُورِ اس کو ڈالا جائے گا چور چور کر دینے والی میں، توڑ پھوڑ دینے والی میں وَمَا اَذْرَبْتَ مَا الْخُطْمَةَ اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے، وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہے نَارُ اللّٰهِ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے الْمَوْقَدَةُ جو جلائی ہوئی ہے۔ اگر وہاں موت دینا مقصود ہو تو اس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے لیکن مقصد تو سزا دینا ہے۔ وہ آگ ایسی ہوگی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو جلائے گی۔ ظاہر، باطن، دل تک اس کا اثر ہوگا۔ دل ایسے جلے گا جیسے ہاتھ جلتا ہے۔

وہ آگ دنیا کی آگ سے اہتر گنا تیز ہوگی لیکن لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی ”نہ

مرے گا اُس میں اور نہ جیے گا۔“ صرف آگ ہی نہیں اس کے ساتھ گرم پانی ہر پر ڈالا جائے گا جس سے سارا چمڑا اُدھڑ جائے گا۔ پانی پلایا جائے گا انتڑیاں کٹ کے باہر نکل آئیں گی يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿الْحَجَّ: ۲۰﴾ ”پگھلایا جائے گا اس کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔“ پہلا چمڑا جل جائے گا نیا پہنایا جائے گا۔ كَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴿النِّسَاءُ: ۵۶﴾ ”جب بھی اُن کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے۔“ بھڑک اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ! وہ کہے گا مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے کہ میں کھاؤں۔ زقوم، تھوہر، ضریح اور غسلسین کھانے کے لیے ملیں گے۔

تھوہڑ اتنا کڑوی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اُس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سارا سمندر کڑوا ہوا ہو جائے۔ اور اتنا بدبودار کہ اگر اُس کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارے اس کی بدبو کی وجہ سے مرجائیں۔ پیاس کا عذاب الگ ہوگا، پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ ہونٹ جل جائیں گے وَ هُمْ فِيهَا كَالْحِيَوْنِ ﴿المؤمنون: ۱۰۴﴾ ”جہنم میں بد شکل ہو کر رہیں گے۔“ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر والا ہونٹ ناک کی پھونگری (نوک) کے ساتھ لگ جائے گا اور نیچے والا لٹک کر ناف کے ساتھ لگ جائے گا۔ بڑی بڑی شکل ہوگی۔

الَّتِي وَه آگ تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْفِدَةِ پہنچ جائے گی دلوں پر۔ وہ ظاہر باطن پر برابر اثر کرے گی إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ بے شک یہ آگ اُن پر بند کی ہوئی ہوگی۔ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ کر لاکھ کر دیا جائے گا کہ وہ پہلونا بدل سکیں۔ کیوں کہ پہلونا بدلنے سے بھی تھوڑا سکون مل جاتا ہے فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون۔ مُمَدَّہ لَبے۔ لَبے لَبے ستونوں میں رکھا جائے گا کہ
 حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام صحیح العقیدہ مسلمان مرد، عورتوں کو
 دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ [آمین]



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْفَيْلِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



آیتها ۵ | ۱۰۵ سُوْرَةُ الْفَيْلِ مَكِّيَّةٌ ۱۹ | ركوها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمُتْرَكِیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ ۝۱ الْمَیْجَعَلُ كَیْدَهُمْ
فِی تَضْلِیْلِ ۝۲ وَ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیْلَ ۝۳ تَرْمِیْهِمْ
بِجَارٍةٍ مِّنْ سِجِّیْلِ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِلَ ۝۵

الْمُتْرَكِیْفَ کیا آپ نہیں جانتے كَیْفَ فَعَلَ کیا کیا
رَبُّكَ آپ کے رب نے بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ ہاتھی والوں کے ساتھ
الْمَیْجَعَلُ کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے كَیْدَهُمْ اُن کی تدبیر کو
فِی تَضْلِیْلِ خسارے میں وَ أَرْسَلَ اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے
عَلَيْهِمْ اُن پر طَیْرًا پندے أَبَابِیْلَ غول درغول
تَرْمِیْهِمْ جو مارتے تھے اُن کو بِجَارٍةٍ پتھر مِّنْ سِجِّیْلِ
کنکر کے فَجَعَلَهُمْ پس کر دیا اُن کو كَعَصْفٍ مَّا كُوِلَ
گھاس کی طرح کھایا ہوا۔

نام اور کوا الف :

اس سورت کا نام ہے سورة الفیل۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں فیل کا لفظ موجود ہے۔
جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ فِیْل فِیْلَةٌ کی جمع ہے۔ فِیْلَةٌ کا معنی ہے ہاتھی۔

فیل کا معنی ہے بہت سے ہاتھی۔ یعنی وہ سورت جس میں بہت سے ہاتھیوں کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار اس کا سے انیسواں ۱۹۶ نمبر ہے اس سے پہلے اٹھارہ ۱۸۰ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے۔ مشرک، یہودی، عیسائی، صابی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احترام تھے اس لیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ غلط نظریہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ کرتے تھے۔ اتنے زوردار الفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط نہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں فرمایا مَا كَانَ اِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿آل عمران: ۶۷﴾ ”ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔“

چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس نسبت سے لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی قدر کرتے تھے لیکن حقیقی روح ان کے اندر نہیں تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی سامنے مرا پڑا ہے اس کی آنکھیں نظر آرہی ہیں ناک، کان، پاؤں جسم کے سارے اعضاء نظر آرہے ہیں لیکن اندر روح نہیں

ہے۔ اس لیے سارے اعضاء بے حقیقت ہیں۔ وہ جو کام کرتے تھے ان کی محض شکل و صورت ہوتی تھی روح ابراہیمی جو توحید تھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا **وَ اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۲۷﴾** ”اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا آئیں گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دہلی پتلی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی دور دراز راستے سے۔“

کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ابوقبیس۔ یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی تھی۔ اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے مٹی کی طرف جانے کے لیے۔ اس جبل ابوقبیس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی۔ جن کی قسمت میں تھا انہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا اور اب اسی صدا کا جواب دیتے ہوئے لوگ **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** کہتے ہوئے جاتے ہیں۔

تو لوگ بیت اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور دور دراز سے آتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ والوں کی اقتصادی اور معاشی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی کہ سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ کیوں کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی شے پیدا نہیں ہوتی تھی۔ نہ زرعی زمین ہے، نہ وہاں کارخانے ہوتے تھے نہ ہی صنعتی دور تھا۔ لوگ چونکہ اطراف سے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ یمن سے بھی آتے تھے۔

واقعہ اصحابِ قیل :

یمن ملک حبشہ کا ایک صوبہ تھا اس کے گورنر کا نام تھا ابرجہ بن صباح بن اشترم۔ (یہ عیسائی تھا۔) حج کے دنوں میں جب اُس نے دیکھا کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جو ان سب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو اُس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتلایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مکان ہے یہ لوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں اور وہ مکان ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اُس نے آدمی بھیج کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ وہ تو سادہ سا کمرہ تھا اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اُس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو یہاں ہی کوہ بنا دیتا ہوں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ اس نے شہر صنعاء (جو یمن کا دار الخلافہ تھا) میں ایک مصنوعی کعبہ بڑا خوب صورت، بڑا بلند بنوایا اور اگر دو لوگوں کی رہائش کے لیے کافی کمرے بنوائے ان میں بستر لگوائے، خوراک کا انتظام کیا۔ جو لوگ پختہ ذہن کے تھے وہ تو اس کے چکے میں نہ آئے مگر بیوقوفوں کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ انھوں نے خیال کیا کہ یہاں چار پائی، بستر بھی ملتا ہے، حلوا کھیر بھی ملتی ہے، بڑی سہولتیں ہیں۔ اس قسم کے لوگوں نے اس مصنوعی کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔

کچھ سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں کم ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ تجارت میں کمی آگئی ہے پہلے جتنا سامان فروخت ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہوتا۔ ہماری آمدنی پر زد پڑی ہے۔ اس کے لیے انھوں نے تحقیقی کمیٹی بنائی کہ وجہ معلوم

کرو کہ لوگوں میں کمی کیوں آئی ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنعاء میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے جس میں سہو تئیں بہت ہیں لوگ وہیں چکر لگا کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ قریش کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ باقی مارتو آدمی کھا لیتا ہے مگر پیٹ کی چوٹ بہت سخت لگتی ہے۔ ان کی آمدنی پر زبرد پڑی تھی وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے۔ قریش مکہ نے قبیلہ بنو خزاعہ کا اور بعض روایات میں ہے کہ بنو کنانہ کا ایک چالاک آدمی بھیجا کہ وہ اس مصنوعی کعبہ کو آگ لگا دے۔ اُس نے وہاں جا کر کچھ دن گزارے، کھاتا پیتا رہا، حالات کا جائزہ لیا اور پہلے اس میں غذا ظلت کی پھر اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ وہ بالکل راکھ ہو گیا۔

اصحابِ فیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں:

ابرہہ کو خیر پہنچی تو اس کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آ گیا کہ اتنی رقم لگا کر اتنا بلند و خوب صورت کعبہ بنایا تھا معلوم کرو یہ کام کس نے کیا ہے؟ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کارروائی قریش کے ایک آدمی نے کی ہے۔ اُس نے کہا کہ انھوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا ہے ہم نے اُن کا کعبہ گراتا ہے۔ فوج کو چلنے کا حکم دے دیا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساتھ بزار فوج اس نے ساتھ لی اور آٹھ ہاتھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہاتھی تھے اور بڑے کا نام محمود تھا۔ ہاتھی اس زمانے میں وہ کام کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرتے ہیں۔ ابرہہ فوج کی قیادت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے سے قبائل ساتھ ملتے گئے۔ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت عبدالمطلب کے دو سواونٹ چر رہے تھے۔ اُن پر انھوں نے قبضہ کر لیا۔ اُس وقت کعبۃ اللہ کے متولی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے اور یہ واقعہ صحیح قول کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے سال پیش

آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف پچاس دن پہلے۔

ابرہہ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کے بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کعبہ اللہ کے متولی تھے، بڑے قد و قامت والے اور شکل و صورت بھی بڑی اچھی اور بارعب تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے پوچھا کیا سوال لے کر آئے ہو؟ فرمایا تم نے میرے دو سواونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر سمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھ دار آدمی ہیں مگر بات آپ نے بڑی ہلکی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تجھے چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کعبہ کے بچانے کی بات کرتا تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا میرا خاندان بڑا ہے میں نے اپنے گزیرے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بیچا، کسی پر سامان لادا۔ اس طرح اپنا وقت گزارتا ہوں۔ اور کعبے کا مالک بڑا طاقت ور ہے وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اور غصہ آیا اور کہنے لگا دیکھوں گا کعبے والا کتنا طاقت ور ہے۔

جس وقت یہ مزدلفہ کے علاقے میں پہنچا۔ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے اس کا نام وادی محبت ہے۔ یہ پانچ سو چالیس * ۵۴۰ * ہاتھ چوڑی ہے اور اتنی ہی لمبی ہے۔ اس کے ارد گرد حکومت سعودیہ نے جنگلا لگایا ہوا ہے۔ وہاں شرطے (پولیس والے) کھڑے ہوتے ہیں اس طرف جانے نہیں دیتے۔ کیوں کہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عرفات سے واپسی پر مغرب، عشاء، فجر، مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہوتی ہیں اور صبح کی نماز کے بعد اصل مقصد ہے مزدلفہ میں ٹھہرنے کا۔

تو پولیس والے وادیِ محسر کی طرف نہیں جانے دیتے۔ کیوں کہ اس کالج پر اثر پڑتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا **الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وادیِ مُحَسِّرٍ** ”سارا مزدلفہ حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر وادیِ محسر نہیں۔“ اس وادیِ محسر میں جب ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سمندر کی طرف سے پرندے آئے فوج در فوج۔ ہر پرندے کے پاس تین کنکر تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسور کے دانے کے برابر۔ ایک ایک پنچے میں اور ایک چونچ میں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پتھر حمص یعنی چھوٹے چنے کے برابر تھے۔ وہ مسور کا دانہ سر پر پڑتا تھا آ رہا ہو کر نیچے سے نکل کر ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین پر گر جاتا تھا اور ان کی تڑپ تڑپ کر جان نکل جاتی تھی۔ ساٹھ ہزار میں سے کوئی واپس گھر نہیں لوٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی اس طرح حفاظت فرمائی۔

تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عبدالمطلب ابرہہ کے ساتھ گفتگو کر کے جب واپس آئے تو شباہیب مکہ، نوجوانان مکہ بڑے جذبات میں تھے۔ کیوں کہ کعبہ اللہ کا احترام تو سب کے دل میں تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے انھیں کہا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ شہر میں نہ رہنا۔ انھوں نے کہا باباجی! اپنی فکر نہیں ہے ہم تو کعبۃ اللہ کے بارے میں متفکر ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے انھیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی عورتوں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا زندہ ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ چنانچہ دو جبل نور پر چڑھ گئے۔ کچھ دوسرے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مکہ خالی ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو اس طرح ختم کیا کہ ان کی نسل بھی باقی نہ رہی۔

اصحابِ فیل کی ناکامی :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **الْمَعْتَرُ** کا معنی ہے **الْمَد تَعَلَّم**۔ کیوں کہ رویت آنکھ

سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے۔ تمام حضرات اَلْمَثَرِ کا ترجمہ کرتے ہیں
 اَلْمَثَرُ تَعَلَّمَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نہیں جانتے ہمارے بتلانے سے
 كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا کیا آپ کے پروردگار نے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی
 والوں کے ساتھ اَلْمَثَرُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو،
 ان کے مکر کو، ان کی شرارت کو فِي تَضَلُّلٍ خسارے میں۔ بڑے ٹھاٹھ ہاٹ کے
 ساتھ تکبرانہ انداز میں ابرہہ کی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے
 کدے بوگرا کر آئیں گے مگر ان میں سے ایک آدمی بھی بچ کر واپس نہ جا سکا۔

وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے۔ طیر
 طائر کی جمع ہے۔ اَبَابِيلُ کا مفرد اِبْتِيلُ بھی آتا ہے اِبْتِيلُ اور اِبَابَالُ
 بھی آتا ہے۔ جس کا معنی ہوگا گروہ، جماعت۔ تو ابابیل کا معنی ہوگا گروہ در گروہ (جوق در
 جوق)۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ورنہ مسور یا پتنے کے دانے سے آدمی نہیں مرتا۔ پھر ہاتھی
 تو ہاتھی ہے۔ مگر رب تعالیٰ نے ان کو گولی سے بھی تیز کر دیا تھا۔ کئی تڑپ تڑپ کر موقع پر
 مر گئے اور باقیوں کے جسم میں جدری، چیچک، خسرہ قسم کی بیماری پیدا ہو گئی وہ اس بیماری
 کی وجہ سے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے نصرت عطا فرمادے مگر اس
 کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ
 يَنْصُرْكُمْ ﴿محمد: ۶﴾ ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو وہ تمہاری مدد
 کرے گا۔“ دین کی مدد کا یہ معنی ہے کہ دین پر چلو۔ لیکن جب دین میں کمی آئے گی تو رب
 تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔

مصر میں کچھ حضرات سے مسواک چھوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے دو مہینے فتح رک گئی

تھی۔ حالانکہ مسواک نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس کا درجہ باقی نمازوں سے ستر گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں فرض چھوڑ دیئے گئے ہوں وہاں رب تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی۔ مولانا ظفر علی خاں مرحوم نے کیا خوب بات کہی ہے:

فَضَائِلُ بَدْرٍ بِمِثْلِهَا
فَرِشَاتُ تَيْسِرِي نَصْرَتُهَا
اِتْرَ سَكْتِي فِيهِمْ كَرْدُوْنَ سَا
قَطَارِ اَنْدَرَقَطَارِ اَبِ بَحِي

فرمایا تَرْمِيْنُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ جو مارتے تھے اُن کو پتھر کنکر کے۔
کسی کی نوک اس طرف کسی کی نوک اُس طرف فَجَعَلَهُمْ پس کر دیا اُن کو
كَعَصِيفٍ گھاس کی طرح مَّا كُنُوْنَ کھایا ہوا۔ یعنی گھاس کو جانور کھا کھا کے
بچے ہوئے (باقی ماندہ) کو پاؤں کے ساتھ روندتے ہیں اور منہ سے بگاڑتے ہیں۔ روند
کر کچل کر چھوڑا ہوا۔ اسی طرح وہ روندے ہوئے کچلے ہوئے تھے۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ
تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ قُرَيْشٍ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.

Horizontal text at the top of the page, possibly a header or title.

Horizontal text in the upper middle section of the page.

Small horizontal text fragment in the center of the page.

Large, illegible handwritten text in the middle section of the page.

Small handwritten text fragment in the lower middle section.

Horizontal text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

۱۰۶ سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ ۲۹ رُكُوعًا ۱ ایتھا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لَا یَلِیْفُ قُرَیْشٍ ۝۱ اِلَیْهِمْ رِحْلَةٌ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۝
فَلِیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ ۝۲ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ یَوْمٍ
وَّامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝۳

لَا یَلِیْفُ قُرَیْشٍ اس واسطے کہ مالوں رکھا قریش کو اِلَیْهِمْ
اُن کا مانوس کر دینا رِحْلَةٌ الشِّتَاءِ سردی کے سفر سے وَالصَّیْفِ اور
گرمی کے سفر سے فَلِیَعْبُدُوْا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رَبَّ
هٰذَا الْبَیْتِ اس گھر کے رب کی الَّذِیْ وہ رب اَطْعَمَهُمْ
جس نے ان کو کھانا کھلایا مِنْ جُوعٍ بھوک میں وَّامَنَهُمْ اور
امن دیا ان کو مِنْ خَوْفٍ خوف سے۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں قریش کا لفظ موجود
ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے
اٹھائیس سورتیں * ۲۸ * نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا انتیسواں
* ۲۹ * نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور چار آیتیں ہیں۔

سرزمین مکہ مکرمہ میدانی علاقہ نہیں ہے۔ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جوزمین ہے وہ ہموار نہیں ہے۔ زیادہ تر زمین بھی پتھر ملی ہے۔ وہاں کھیت کاشت نہیں ہو سکتے تھے اور وہ صنعتی دور بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش و خوراک تجارت تھا۔ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ عموماً سال میں دو سفر کرتے تھے۔ ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے کیوں کہ وہ گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام جاتے تھے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے شام دو ماہ میں پہنچتے تھے۔ وہاں چند دن رہتے، اپنا سامان بیچتے، وہاں سے چیزیں خریدتے اور پھر واپس آتے۔

قریش مکہ نے جب آنحضرت ﷺ کے معراج کا انکار کیا تو یہی بات کہی کہ ہم تو سواریوں کو چلاتے ہوئے دو ماہ میں مشکل سے پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا۔ آسمانوں والا سفر تو ویسے ہی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ شام کا سفر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دو مہینوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا۔

یہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ کیوں کہ کعبۃ اللہ کا احترام صرف عرب والے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی کرتے تھے۔ لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے۔ روٹی مفت، چاڑ پائی مفت، بستر مفت۔ مکہ مکرمہ کی چیزیں برکت والی سمجھ کر مہنگی خریدتے اور اپنی چیزیں سستی دیتے کہ یہ خدام کعبہ ہیں۔ عام قافلے والوں کو حتی البوسع ذاکو نہیں چھوڑتے تھے لیکن ان کا جب پتا چلتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ کوئی بد باطن قسم کا ہوتا تو الگ بات تھی۔ لیکن ان لوگوں کو سفر میں اطمینان نصیب

ہوتا تھا۔ اسی طرح جب یہ لوگ یمن جاتے تو راستے میں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کھانے مفت، دودھ، مکھن، گھی، جو ان کی بساط میں ہوتا پیش کرتے۔ ان سے چیزیں مہنگی خریدتے اور ان کے آگے سستی بیچتے۔ بل کہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت دے دیتے تھے کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کے خادم ہو اس لیے ہم نے تم سے پیسے نہیں لینے۔ گویا ان کو کعبۃ اللہ کی برکت سے جسمانی طور پر بھی امن ہوتا اور مالی طور پر بھی۔

اپنے اور بڑے مال کا فرق :

تو ان لوگوں کا فریضہ تھا کہ اس گھروالے کی صحیح معنی میں عبادت کرتے کہ اس کے گھر کی برکت سے ہماری اتنی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہوتا ہے کہ اے پروردگار! تو نے مجھ پر انعام کیا ہے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائز کاروبار دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکے۔ لیکن عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ مال آجانے کے بعد لوگ سرکش ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ غریب ہوتے تھے تو نماز کے لیے پہلی صف میں آکر بیٹھتے تھے، درس سنتے تھے۔ ملک سے باہر گئے، دولت آگئی، نہ نماز رہی، نہ روزہ۔ کبھی جمعہ میں نظر آجاتے ہیں۔ بھائی! ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے انسان نماز سے رہ جائے، دین سے دور ہو جائے۔ ایسی دولت تو لعنت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسی ہی دولت اور اس کے طلب گاروں کے بارے میں آتا **الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَ طَالِبُهَا كِلَابٌ** ”اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے

والے کتے ہیں۔ "مال فی نفسہ بڑا نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کمایا جائے اور آخرت سے غفلت کا باعث نہ بنے۔ اگر مال فی نفسہ بڑا ہوتا تو اس پر عبادات موقوف نہ ہوتیں۔ حج رکن اسلام ہے اور وہ مال پر موقوف ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مگر اس پر جس کے پاس مال ہو۔ عشر عبادت ہے لیکن اگر مال نہیں ہے تو عشر کہاں سے دے گا؟ لہذا دونوں کے درمیان فرق سمجھ لو۔ اگر مال جائز طریقے سے ہو اور آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہو تو یہ جتنا بھی زیادہ ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا مال کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی گئی ہو اور وہ آخرت سے غافل کر دے، نماز روزے کی پروا نہ رہے، یہ مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔

قریش مکہ کو کعبۃ اللہ کی وجہ سے امن حاصل تھا، عزت حاصل تھی، رزق ملتا تھا، ان کو اس کی قدر دانی کرنی چاہیے تھی لیکن ان ظالموں نے بجائے رب تعالیٰ کی عبادت کے تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا شروع کی ہوئی تھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ**۔ ایلاف کا معنی ہے مانوس کرنا، محبت ڈالنا۔ معنی ہو گا اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔

لفظ قریش کی وجہ تسمیہ :

قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ قریش کا معنی ہے جمع کرنا۔ یہ لوگ چونکہ تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس زرعی زمین نہیں ہے، باغات نہیں ہیں، اہل و عیال کا خرچہ جمع کرنا ہے تو تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے۔ اس لیے

ان کو قریش کہا جاتا ہے۔

قاموس اللغات، لغت کی مشہور اور مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ
نضر بن کنانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ وہ بڑے بہادر تھے۔ ان کو
بہادری کی وجہ سے قریش کا لقب ملا تھا۔ قریش اصل میں سمندر میں سب سے بڑی مچھلی کا
نام ہے جس پر آج تک کوئی قابو نہیں پاسکا۔ ساری مچھلیاں اس کے منہ میں آ جاتی ہیں۔
جیسے خشکی کے جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر شیر سمجھا جاتا ہے اسی طرح سمندری
مخلوق میں قریش مچھلی سب سے زیادہ بہادر سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ نضر بن کنانہ بڑا بہادر
آدمی تھا اس لیے اس کو قریش کا لقب دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور صحیح العقیدہ لوگ تھے۔ قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو
خزاعہ۔ اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمرو بن لُحی بن قح۔ اس ظالم نے کعبۃ اللہ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیا
کہ ان بزرگوں نے کعبۃ اللہ بنایا تھا۔

یہ بڑا فراڈ یا آدمی تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمرو بن لُحی نے ایک کنڈی
والی لائٹھی رکھی ہوئی تھی اور کمر کے پیچھے تھیلا رکھا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ طواف کرتے یہ دیکھتا
جس کا کبیل، چادر اچھی ہوتی کنڈی کے ذریعے اس کے کندھے سے اتار لیتا۔ اگر کسی کو علم
ہو جاتا تو کہتا غلطی سے لگ گئی ہے۔ لوگ کم ہوتے تھے طواف کرنے والے خال خال
ہوتے تھے۔ اب مخلوق بہت زیادہ ہو گئی ہے۔

میں نے پہلا حج بحری جہاز کے ذریعے صرف سولہ سو دس (۱۶۱۰) روپے میں کیا
تھا۔ آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کریں تو وہ مذاق سمجھتا ہے۔ پھر اس سولہ سو دس روپے

سے کرایہ، خرچہ، کتابیں خریدیں، مصلے، رومال، تسبیحیں اور تبرکات بھی تھے۔ جب میں نے طواف کیا تو کوئی شاذ و نادر ہی طواف ہوگا جس میں میں نے حجر اسود کو بوسہ نہ دیا ہو۔ اور اب مخلوق بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پیسے بھی لوگوں کے پاس عام ہو گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ توجہ فرض سمجھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اب حجر اسود کا بوسہ لینا آسان کام نہیں ہے۔

تو عمرو بن لُحی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے رکھ دیئے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے اس میں اضافہ کیا۔ ہابیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی لگا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا بھی لگا دیا۔ اساف اور نائلہ کا مجسمہ بھی لگا دیا۔ اساف مرد کا نام ہے اور نائلہ عورت تھی۔ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ شام کے بعد کچھ اندھیرا ہوا تو انھوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بُرائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، پتھر بنا دیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین کی ہے لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے مجسمے وہاں رکھ دیئے کہ رب تعالیٰ کے گھر کی توہین کرنے والے پتھر بن چکے ہیں۔ مرد کی شکل بعینہ مرد کی تھی اور عورت کی شکل بعینہ عورت کی تھی۔ لوگوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ** اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو

الْفِيْهِمْ اَنْ كَانُوْا سَرْدِيْنَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے۔ سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہیں۔ اور ان دو سفروں میں سال بھر کی روزی کما لیتے ہیں۔ ان کے گھرانے، کپڑوں وغیرہ سے بھرے ہوتے تھے۔ فرمایا **فَلْيَعْبُدُوْا** پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں

رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی جس کی برکت اور ویلے سے ان کو سب کچھ ملتا ہے۔ بتوں کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔

پنڈت کا اعتراض اور اس کا جواب :

پنڈت دیانند سوسوتی آریاسماج کا ایک منہ پھٹ لیڈر گزرا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”ستیا رتھ پرکاش“ اس کا چودھواں باب قرآن پاک پر اعتراضات کے لیے وقف ہے۔ یعنی اس باب میں اس نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں۔ اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ترجمہ نقل کرتا ہے شاہ عبدالقادر چندی وغیرہ سے پھر اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ اور عجیب عجیب حماقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہو کہ کعبۃ اللہ بھی تو پتھروں کا ڈھیر ہے۔

مسئلہ :

یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو لوگ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ان کے لیے عین کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کعبۃ اللہ سے ادھر ادھر چہرہ پھر گیا تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ اور جہاں کعبۃ اللہ نظر نہ آئے تو وہاں سمت کعبہ، جہت کعبہ ہی کافی ہے۔ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ تقریباً دو ڈگری کعبۃ اللہ سے ہٹی ہوئی ہیں مگر اس سے نماز پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ پانچ ڈگری تک بھی ہٹی ہوں پھر بھی نماز پر کوئی زد نہیں پڑتی، وہم نہ کرنا۔

تو پنڈت دیانند سوسوتی کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی

کتاب ”قبلہ نما“ میں دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ ہمارا مسجدِ اولہ نہیں ہے مسجدِ اولیہ ہے۔ ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو رب تعالیٰ کو کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے مختصر دورِ خلافت میں کعبہ کو شہید کر کے گہرائی تک لے گئے تھے نماز اس وقت بھی ہوتی تھی حالانکہ سامنے کوئی عمارت نہیں تھی۔ کئی مہینے مسلسل بغیر کعبۃ اللہ کی عمارت کے نمازیں ہوتی رہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی
 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا، خوراک دی بھوک
 میں کہ وہاں تو کوئی پیداوار نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کی برکت سے تجارت کے ذریعے ان کو
 خوراک نصیب فرمائی وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور جس رب نے ان کو امن دیا خوف
 سے۔ حرم سے باہر لوگ اطمینان سے سو نہیں سکتے تھے کہ چوری، ڈکیتی، قتل و غارت تھی۔
 لیکن حرم کے علاقے میں چور، ڈاکو بھی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو سمجھ دار
 لوگ ہیں وہ وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھ دار
 لوگ اُسے کہتے ہیں حرمِ الحجاج ”حاجی مت لڑو یہ حرم ہے۔“ حرم کے رقبے میں
 شکار بھی جائز نہیں ہے۔ چڑیا تک کونہ کوئی مار سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ درخت بھی نہیں کاٹ
 سکتا۔ اتنی پابندی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت سے تمہارا مال محفوظ، جان محفوظ اور اس کی برکت
 سے تمہیں روزی میسر ہے۔ اس کے رب کی عبادت کرو۔ لیکن ظالمو! تم نے ہبل کی
 عبادت شروع کر دی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام

اور ان کی والدہ کی عبادت شروع کر دی ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ ہوش کے
ناخن لو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْمَاعُونِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

﴿ آیتها ﴾ ۱۰۷ سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ ۱۷ ﴿ رُكُوعًا ۱ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَرَعَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالَّذِيْنَ ۙ فَاذٰلِكَ الَّذِيْ يَدْعُ الْيَتِيْمَ ۙ
وَلَا يَحْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ ۙ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۙ

اَرَعَيْتَ کیا آپ نے دیکھا الَّذِيْ اس شخص کو يَكْذِبُ جو جھٹلاتا ہے بِالَّذِيْنَ دین کو فَاذٰلِكَ الَّذِيْ پس یہی شخص ہے يَدْعُ الْيَتِيْمَ جو دھکے دیتا ہے يَتِيْمٌ کو وَلَا يَحْضُ اور ترغیب نہیں دیتا عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِيْنَ مسکین کو کھانا کھلانے کی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے الَّذِيْنَ هُمْ جو وہ عَنْ صَلَاتِهِمْ اپنی نمازوں سے سَاهُوْنَ غافل ہیں الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ وہ جو ریا کاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُوْنَ اور منع کرتے ہیں الْمَاعُوْنَ استعمال کی چیزیں۔

نام اور کوالف :

اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ماعون کا لفظ موجود

ہے۔ جس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے سولہ ﴿۱۶﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ستر ہوا ﴿۱۷﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور سات آیتیں ہیں۔

قیامت کے منکر پہلے بھی تھے اور آج بھی بہت سے گمراہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کوئی شے نہیں ہے۔ اور جو زبانی طور پر قیامت کے قائل ہیں ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے امتحاناتِ آخرت کے مقابلے میں کھیل کی حیثیت بھی نہیں رکھتے مگر ان کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں اور آخرت میں جو حقیقی اور سچا امتحان ہے اس کے لیے تیاری کرنے والے کتنے ہیں؟ اصل تو تیاریِ آخرت کے امتحان کی ہونی چاہیے۔

ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا مَتَى السَّاعَةُ ”حضرت یہ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مَا أَعْدَدْتَّ لَهَا ”تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟“ اس نے سر جھکا کر کہا حضرت! صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، نفلی نماز روزے کی توفیق نہیں ہے مگر اتنی بات ہے کہ أَحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔“ آج ہم میں سے کتنے ہیں فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے؟ یا کتنے خوش نصیب ہیں مردوں اور عورتوں میں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے ذمہ کوئی نماز نہ ہو۔ یا جن کی نمازیں رہ گئی ہیں قضا کر کے پوری کر چکے ہوں؟ میرے خیال میں ہزار میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوگا۔ تو وہ لوگ بڑے دھڑلے سے قیامت کا انکار کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **أَرَأَيْتَ الَّذِي** کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو **يُكَذِّبُ بِالذِّينِ** جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ دین کا معنی قیامت بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب اور بدلہ بھی ہے۔ تو وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، حساب کو جھٹلاتا ہے، نیکی، بدی کے بدلے کو جھٹلاتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ تفسیروں میں بعض کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ولید بن ولید اور ولید بن مغیرہ۔ یہ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ یہ بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا اور بڑا منہ پھٹ اور بے لحاظ آدمی تھا۔ اور بعض نے عاص بن وائل کا نام بتلایا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسا آدمی پیدا فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فاتح شام ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں۔ والد دونوں کے سخت قسم کے کافر اور مشرک ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرماتے تو کہتے لاکہاں رکھی ہے، قیامت کہاں چھپا رکھی ہے؟ کہتے ہو مردے زندہ ہوں گے ہمارے ساتھ قبرستان چلو اور کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی فرمائشی باتوں کو پورا نہیں کیا۔ رب قادر تھا وہ سب مردوں کو زندہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ اس میں اس کی حکمت تھی۔

فرمایا **فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ** پس یہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ برادری رشتہ داروں میں یتیم ہوتا اس کو حصہ نہیں دیتا تھا دھکے مار کر ان کو ان کے حصے سے پیچھے ہٹا دیتا اور یتیم کا مال کھا جاتا۔ حالانکہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ برادری کے لوگ خیال رکھیں، محلے والے خیال رکھیں، اہل دیہہ خیال رکھیں۔ جس قوم میں یتیم ہو اور وہ اس کا خیال نہ رکھیں، محلے والے خیال نہ رکھیں، اہل دیہہ خیال نہ رکھیں تو سارے محلے اور دیہات والے لوگ رب تعالیٰ کی لعنت

کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ خود یتیم کو تلاش کرتے تھے کہ یتیم مسکین کہاں ہے؟ اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔ غریبوں، مسکینوں کے وظیفے مقرر ہوتے تھے اور مسلمان از خود بھی خیال رکھتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کی برکات :

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں ایسا وقت بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والا رات کو دو رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا کرتا تھا اے پروردگار! کل میں نے زکوٰۃ دینی ہے مجھے کوئی زکوٰۃ کا مستحق مل جائے۔ پھر صبح کی نماز پڑھ کر، ناشتہ کر کے دو تھیلے ہاتھ میں لیتا۔ ایک میں سونے کے دینار اور ایک میں چاندی کے درہم اور مستحق کی تلاش میں نکل پڑتا۔ کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے ہلکے ہیں، خستہ حالت ہے۔ اس سے کہتا بھائی! اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو میرے پاس زکوٰۃ کی کافی رقم ہے۔ وہ کہتا ہائی خدا کی! میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ سارا دن گھومتا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا۔ شام کو وہ تھیلے لے کر گھر واپس آجاتا تھا۔ (اب کوئی آواز لگا کر دکھائے۔) وہ کیسا عجب دیانت داری کا زمانہ تھا۔ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو ہر آدمی کہتا اصل زکوٰۃ کا مصرف اور مستحق میں ہی ہوں۔ ساری مجھے دے دو چاہے میں گلی بناؤں، نالیاں بناؤں یا ان پیسوں سے الیکشن لڑوں۔ یاد رکھنا! جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، خنزیر کھاتا ہے۔ کئی کئی دن مسلسل تلاش کرتے زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے یہ واقعات ہیں۔

یتیم کا مال اور تیجے، ساتویں کی بدعت :

یاد رکھنا! بڑے گناہوں میں سے ہے یتیم کا مال کھانا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴿النساء: ۱۰﴾

”بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔“ معاف رکھنا! شاید کوئی ہم سے بچا ہوگا یتیم کا مال کھانے سے۔ سارے کمر باندھ کر کھاتے ہیں۔ یاد رکھنا! آدمی جب فوت ہوتا ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت فوراً خود بہ خود وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں رہتا۔ پھر فوت ہونے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے وارثوں میں چھوٹے بچے، بچیاں ہوتے ہیں۔ اس مال سے تیجا، ساتا، دسواں اور چالیسواں ہوتا ہے۔ وہ مال تو یتیموں کا ہے مرنے والے کا تو مال نہیں رہا۔ اور فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ نابالغ لڑکا لڑکی کسی چیز کی اجازت دیں تو ان کی اجازت کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ کیوں کہ وہ اجازت دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو ان یتیموں کے مال کو کھا رہے ہوتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ چاچا، مامے کھائیں، بابے کھائیں، مولوی اور پیر کھائیں، چودھری اور نمبردار کھائیں، سب نے حرام کھانا ہے۔ سنت، بدعت کا سوال تو بعد میں ہوگا کہ اگر وارثوں میں سے جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے تیجا، ساتا وغیرہ کریں تو یہ دوسری شق ہے، دوسری دفعہ لگے گی کہ دنوں کی تعیین کرنا ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے۔ ناک کی خاطر صحیح العقیدہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر نہ گیا تو ناراض ہوں گے۔ بھائی! اگر ہمدردی ہے تو جنازے میں پہنچو۔ جنازے کے بعد تعزیت کرنی ہے تو کسی دن پہنچ جاؤ۔ ضرور ہی ان متعین دنوں میں جانا ہے اور تیجے، ساتے میں پہنچوں گے تو ان کو تسلی ہوگی۔ یہ رسمیں لوگوں نے اتنی پختہ کی ہوئی ہیں کہ خدا پناہ!

قاضی محمد شفیع صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے۔ ان کے محلے کی بات ہے
 رمضان المبارک کے مہینے میں دن دیہاڑے تیجے کا کھانا پکا کر کھلایا گیا۔ کسی دین دار
 نے کہا بھئی! اگر کھلانا بھی تھا تو افطاری کے بعد کھلا دیتے۔ کہنے لگے شام کے بعد تو تیجہ ختم
 ہو جانا ہے چوتھی تاریخ شروع ہو جائے گی کہ اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے
 ساتھ ہی بدل جاتی ہے، وہ بھی چوتھا ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ! بدعت کے کتنے پکے ہیں؟
 رمضان شریف میں دن دیہاڑے کھلایا اور کھانے والوں نے کھایا۔ یہ گکھڑ کی بات ہے
 کسی اور علاقے کی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا! تیجے، ساتے، دسویں وغیرہ کا بدعت ہونا تو الگ
 بات ہے لیکن یتیم کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ تمام فقہاء حنفی،
 شافعی، مالکی، حنبلی اس پر متفق ہیں۔ اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح
 بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ خود سمجھ لو کہ کیا ہوگی؟

خاص طور پر ان بدعات میں عورتیں بہت پکی ہیں۔ عورتیں امام ہیں اور مرد مقتدی
 ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، مرنے کی رسمیں ہوں، ختنے کی رسمیں ہوں۔ لہذا عورتیں
 اچھی طرح سمجھ لیں اور ڈٹ جائیں کہ ہم نے یہ رسمیں نہیں ہونے دینی۔ امام پکا ہو جائے تو
 مقتدی کا بس نہیں چلتا۔ اور ایک سنت کو زندہ کرنے سے سوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا
 کھلانے کی۔ کوئی مسکین محلے میں ہے، برادری میں ہے، نہ اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ
 اس کو کھانا کھلا دے اور اگر خود توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ بھولے

ہوئے ہیں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ والے مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے اور انہی کی مذمت ہے مومنوں کی مذمت نہیں کیوں کہ مکہ میں سارے مومن مخلص تھے منافق ایک بھی نہ تھا۔ ہاں مدینہ میں جا کر منافق ہوئے۔ اور یہ مکی سورۃ ہے۔ تو مصلین سے مشرکین مراد ہیں نہ کہ مومنین۔ قرآن پاک کا شان نزول پر بند ہونا یعنی آیت کو شان نزول پر منطبق کرنا ضروری نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آج بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں لیکن اُس وقت مذمت اُن کی تھی۔ تفصیل کے لیے گلدستہ توحید دیکھیے۔)

منافق کی نماز :

حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتَّقُوا صَلَوةَ الْمُنَافِقِ اِتَّقُوا صَلَوةَ الْمُنَافِقِ اِتَّقُوا صَلَوةَ الْمُنَافِقِ ”منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔“ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے تین مرتبہ فرمایا۔ سوال کیا گیا حضرت! منافق کی نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا مستحب وقت نکل جائے تو اٹھتا ہے مرغے کی طرح ٹھونگیں مارتا ہے سجدے پر سجدہ۔ مثلاً: عصر کا وقت ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس وقت ٹھونگیں مارتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ کئی دفعہ یہ مسئلہ میں واضح کر چکا ہوں کہ ارکان نماز میں اعتدال، اطمینان واجب ہے۔ ترک واجب سے نماز کامل نہیں ہوتی جب تک سجدہ سہونہ ہو۔ رکوع میں اتنا اعتدال ہو کہ کمر سیدھی ہو جائے اور کم از کم تین تسبیحات پڑھے اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر سر اٹھاتے ہی سجدے میں چلا گیا تو نماز نہیں ویسے ہی ٹکریں مار رہا ہے۔

بخاری شریف، مسلم شریف اور تمام صحاح کی کتابوں میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے ایک شخص آیا جس کا نام خلاد بن رافع تھا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی بغیر رکوع، سجود کے اعتدال کے۔ آپ ﷺ کے پاس آ کر سلام کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا وعلیکم السلام! اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ”پھر جا نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“ پھر اُس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ پھر آ کر سلام کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ”پھر جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“ تیسری دفعہ پھر اُس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح اُس کو آتی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ”پھر جا کے نماز پڑھ یہ جو تو نے نماز نہیں پڑھی یہ کچھ نماز نہیں ہے۔“ اس نے کہا حضرت! اَبِي وَ اُمِّي میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے جو طریقہ آتا تھا میں نے اس کے مطابق پڑھی۔ آپ بتائیں مجھے کیسے پڑھنی چاہیے؟ آپ ﷺ نے وضو کا طریقہ بتلایا، پھر نماز کا طریقہ بتلایا اور فرمایا رکوع میں جاؤ تو رکوع اطمینان کے ساتھ کرو۔ جس وقت رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگا کر سجدہ کرو۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو۔

ہماری جو برائے نام نمازیں ہیں یہ ظاہری شرائط بھی پوری نہیں کرتیں اور جو باطنی شرائط ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ”کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس انداز سے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔“ تو جو

نمازیں شرائط کے ساتھ نہیں ہیں ایسے نمازیوں کے متعلق فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اس طبقے میں جائیں گے۔ جس سے دوزخ کے باقی طبقے روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وہ جو ریا کاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پڑھ لیتے ہیں اگر نہ دیکھا تو پروا نہیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو خوب سنوار کر پڑھتے ہیں۔ پھر یہ نماز رب تعالیٰ کے لیے تو نہ ہوئی جس کو دکھا رہا : س کے لیے ہوئی۔

ایک صحابی نے سوال کیا حضرت! میں نماز پڑھ رہا ہوں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس دوران میں کوئی آدمی آجاتا ہے اور میرے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے۔ حضر! یہ ریا کاری میں تو داخل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ ریا نہیں ہے۔ نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ریا تو ثب ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شروع کر لے۔

فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ماعون کہتے ہیں گھر کی استعمال کی چیزوں کو۔ مثلاً: دیکھی ہے، ہانڈی ہے، چمچ ہے، پیالیاں ہیں، چائے دانی ہے۔ اگر کوئی یہ چیزیں مانگتا ہے، اس سے منع کرنا نہ دینا بڑی حساست کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ جب یہ چیزیں واپس مل سکتی ہیں تو منع نہ کرو۔

ہاں! ایسے آدمی سے روکنے کی اجازت ہے جو لے کر واپس نہیں کرتا یا لے کر بے دردی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ صحیح چیز لے گیا اور توڑ پھوڑ کر واپس کر دی اس سے

روک سکتے ہو۔ اور اس سے کہہ دو کہ بھائی! تم صحیح چیز لے جاتے ہو اور توڑ پھوڑ کرواپس کرتے ہو اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ نہ کہو کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو۔ اور جو دیانت دار ہے اس سے استعمال کی چیزیں نہ روکو۔ تو فرمایا اور منع کرتے ہیں استعمال کی چیزیں۔ رب تعالیٰ اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[امین]




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



ایاتھا ۳ ۱۰۸ سُورَةُ الْكُوثْرِ مَكِّيَّةٌ ۱۵ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكُوثْرَ ۙ فَصَلِّ لِربِّكَ وَاَنْحَرْ ۙ اِنَّ
 شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۙ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی الْكُوثْرَ کوثر
 فَصَلِّ لِربِّكَ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے وَاَنْحَرْ اور
 قربانی کریں اِنَّ شَانِئَكَ بے شک آپ کا دشمن هُوَ الْاَبْتَرُ ہی ابتر
 ہے۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الْكُوثْرِ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کوثر کا لفظ موجود ہے۔
 جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا پندرہواں ﴿ ۱۵ ﴾ نمبر
 ہے۔ اس سے پہلے چودہ ﴿ ۱۴ ﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین
 آیتیں ہیں۔

قرآن پاک کی کوئی سورت تین آیات سے کم نہیں ہے۔ وہ سورتیں جو تین آیات
 پر مشتمل ہیں وہ تین ہیں۔ ایک سورۃ العصر، دوسری سورۃ الْكُوثْرِ اور تیسری سورۃ النصر ہے۔
 سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔

شانِ نزول :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ ایک خاوند سے ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت چالیس سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے ایک سال بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، پھر ایک سال بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں اور جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین تھے۔ دو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ۔ اس کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس عمر کو پہنچے تھے کہ کوشش کر کے گھوڑے، گدھے پر سوار ہو جاتے تھے۔ تقریباً آٹھ، نو سال عمر تھی۔ اور اس عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔

جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عاص بن وائل نے شور مچایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد کوئی نہیں رہی یہ ابتر ہو گیا ہے۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو کلمہ سناتا ہے، تو حیدر سناتا ہے وہ کب تک رہے گی؟ جب اپنی زینہ اولاد نہ ہو تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں دوسروں کے گھروں میں چلی جائیں گی

اور عورت کھل کر تبلیغ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مشن ختم ہو جائے گا کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ طبعی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف ہوئی۔ آخر بڑی بات آدمی نے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آدمی لو ہے یار بڑا بنا ہوا تو نہیں ہے۔ انسان آخر انسان ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ بِشَكِّهِمْ نَے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا حضرت! کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ ”جنت میں نہر ہے۔“ وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے کہ یہ زمین کی گہرائی میں چلتی ہیں اور دونوں طرف مٹی کے بند ہوتے ہیں (کنارے ہوتے ہیں۔) وہ نہر جنت کی زمین کی سطح پر چلتی ہے اور کناروں پر موتیوں کے بند ہیں۔ اس نہر کا پانی حوض کوثر میں ہوگا۔ اس حوض کوثر کے متعلق فرمایا وہ اتنا لمبا چوڑا ہے جیسے مکہ مکرمہ سے لے کر اذرحا کے مقام تک۔ آپ لوگ اس طرح سمجھیں کہ یہاں (گوجرانوالا) سے لے کر کراچی تک جتنی مسافت ہے اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہو گی۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو حشر کے تمام عرصہ میں پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اگر کوئی بار بار پینا چاہے گا تو وہ پانی فوراً ہضم ہوتا جائے گا۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے لِحُكِّ نَبِيِّ حَوْضٌ ”ہر نبی کے لیے حوض ہے اس کے امتی اس حوض سے پانی پییں گے۔“ مگر فرمایا سب سے بڑا حوض میرا ہوگا۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔ ان میں اسی (۸۰) صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور

چالیس صفیں باقی پیغمبروں کی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تہائی جنت میں آپ ﷺ کی امت ہوگی اور ایک تہائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام امتیوں کی ہوگی۔ ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کا ایک امتی ہوگا اور ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کا کلمہ پڑھنے والے دو ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے تین امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چار امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کے پانچ امتی ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے **وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ** ” اور ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ ایک امتی بھی ساتھ نہ ہوگا۔“ یعنی اس نبی کا کلمہ نہ بیوی نے پڑھا، نہ اولاد نے پڑھا نہ کسی بہن بھائی نے پڑھا تہا پیغمبر میدان میں آئے گا۔ سب سے زیادہ امت آپ ﷺ کی ہوگی۔

آب ﷺ نے فرمایا **تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ” ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، محبت کرنے والی ہوں میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن فخر کروں گا خوش ہوں گا۔“ آنحضرت ﷺ کا تو یہ فرمان ہے اور ایوب خان کا قانون ہے کہ چار سے زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی! تو تو چلا گیا اور کھانے والے اب تک کھا رہے ہیں۔ (استاذ محترم حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ خاندانی منصوبہ بندی کر کے آنے والوں کو روکتے ہیں۔ بھائی! تم آگے جاؤ آنے والوں کو آنے دو، ان کے لیے جگہ چھوڑو۔ مرتب: نواز بلوچ)

اقتصادیات والے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ دار سمجھتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد لوگ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے؟ بھئی!

کھانے پینے کا مسئلہ رب تعالیٰ کے متعلق ہے یا تمہارے متعلق ہے؟ تم نے کھانے کھلانے کا ٹھیکہ کب سے لیا ہے؟ یہ تو رب تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بارہویں پارے میں ہے

وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ” اور کوئی نہیں ہے چلنے پھرنے والا زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی روزی۔“ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ تھوڑے ہوتے تھے پیداوار بھی کم ہوتی تھی۔ زیر کاشت زمین بھی تھوڑی تھی۔ اب لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیداوار زیادہ کر دی ہے۔ بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ پیداوار بڑھاتے جائیں گے۔ پھر عجیب بات ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کے لیے تو ہم ٹھوکرین کھاتے پھرتے ہیں۔ ملک، غیر ملک ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ اور مغفرت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے نہیں لی اس کی فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔

اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ کمائی کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل کماؤ، ملک میں غیر ملکوں میں جاؤ مگر اس بات کو مد نظر رکھو کہ ماننا وہی ہے جو قسمت میں ہے۔ لہذا جتنا آدمی رزق کے لیے گھومتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے اور جس کی مغفرت ہو گئی بس اس کی کیا بات ہے؟

تو حوض کوثر میں نہر کوثر کا پانی ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے کنارے پر جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے و صَاحِبَاتِي عَلَى الْحَوْضِ ” یہ جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں حوض کوثر پر بھی میرے

ساتھی ہوں گے۔“ ان دونوں کا تعلق تو آپ ﷺ کے ساتھ ایسا تھا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی ساتھی ہیں اور محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے۔

اہل بدعت حوض کوثر سے محروم رہیں گے :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے فرشتے ان کو دھکے ماریں گے، پیچھے ہٹائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں ان کو پیچھے کیوں دھکیلتے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضرت! آپ ﷺ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں گھڑی تھیں **فَأَقُولُ سُبْحٰنًا سُبْحٰنًا** ”میں فرشتوں سے کہوں گا جلدی سے ان کو میری آنکھوں سے پیچھے ہٹا دو۔“ تو اہل بدعت جتنے ہیں وہ حوض کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ بدعت بڑا سنگین جرم ہے۔ جس طرح شرک سخت ترین جرم ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری شفاعت میرے ہر گناہ گار امتی کے لیے ہے **مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا** ”جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا“ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے قطعاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب ماننا، مختار کل ماننا قطعاً شرک ہے۔ اور شرک کے لیے نہ شفاعت ہے اور نہ وہ حوض کوثر کا حق دار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان مسائل کو چھوٹے مسائل نہ سمجھنا۔ بعض نادان قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے حنفی، مالکی، شافعی اختلافات ہیں۔ حاشا وکلا یہ ایسے اختلافات نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ

روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دی یعنی خیر کثیر دی۔ شاگردوں میں سے ایک نے کہا حضرت! آپ اس کا معنی خیر کثیر کرتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے اور حوض کوثر مراد ہے۔ تو مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو اس کی تفسیر خیر کثیر کی یہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ کیوں کہ خیر کثیر جنس ہے حوض کوثر اس کی ایک نوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی، نبوت دی، رسالت دی، قرآن دیا، یہ امت دی، حوض کوثر دیا۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے تو اس کے شکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ تمام عبادات میں نماز کا بہت بلند مقام ہے۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ لیکن آج ہم نے نماز کو کچھ نہیں سمجھا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اگر کوئی تختہ دار پر لٹکا ہوا ہو، بدن میں میخیں ٹھکی ہوئی ہوں پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اشارے کے ساتھ پڑھے۔ اگرچہ ظاہر شرم آتی ہے لیکن دین کا مسئلہ ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے بچے کا سر پیٹ سے باہر آ گیا ہے باقی جسم نہیں نکلا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اس حالت میں بھی عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ وہ بچے کا سر ہنڈیا میں کر کے نماز پڑھے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کر بچے کا سر اس میں کر کے نماز پڑھے۔ اس وقت جو خون آئے گا بیماری کا ہوگا، نفاس کا نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز اس پر فرض ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم ہے۔

تو فرمایا نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے **وَإِنحَرْ** اور قربانی کریں۔ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس کا معنی ہے نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں **لَا يَصِحُّ** ”یہ روایت صحیح نہیں ہے۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا۔

دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اپنی چھاتی کو قبلے کی طرف ٹھیک کرو۔ لیکن **وَإِنحَرْ** کی صحیح تفسیر وہ ہے جو جمہور نے کی ہے کہ نحر کا معنی قربانی کرنا ہے۔ نحر اونٹ کو کھڑے کر کے قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ مستحب ہے۔ لٹا کر ذبح کرنا بھی صحیح ہے۔ تو **وَإِنحَرْ** میں قربانی کا حکم ہے۔

منکرین قربانی کے اعتراضات اور جواب :

قربانی کے منکر کہتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ قربانیاں کرتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ مولویوں نے کھالیں جمع کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قربانی صرف حاجی کو کرنی چاہیے۔ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی! قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے انسانیت چلی ہے قربانی بھی ساتھ چلی ہے۔ ہابیل قابیل کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قربانی کا حکم ہوا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے **إِذْ قَرَّبْنَا قَبْلَنَا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ ﴿المائدہ: ۲۷﴾** ”جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی پس ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔“ ہابیل رحمہ اللہ کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تو قربانی مولویوں نے نہیں بنائی یہ شروع سے چلی آرہی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَإِنحَرْ** اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج

کر اور قربانی کر۔ اس وقت توج نہیں تھا جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور حج مدینہ طیبہ میں فرض ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے **أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا يُضْعِجِي** ”آنحضرت ﷺ نبوت کے بعد دس سال مدینہ طیبہ میں رہے ہر سال قربانی کرتے تھے۔“ قربانی نہ حرم کے ساتھ خاص ہے نہ حاجی کے ساتھ خاص ہے۔

فرمایا **إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ چنانچہ عاص بن وائل کا نام بیٹے کے سامنے آتا تھا تو شرمندہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اس کا نام نہ لو۔ آنحضرت ﷺ کی باتیں کرو۔ آپ ﷺ کے دشمنوں کا خیال تھا کہ آپ کی زینہ اولاد نہیں رہی یہ دین بھی نہیں رہے گا لیکن الحمد للہ! آپ ﷺ کے وفادار امتیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور جانوں کو تکلیفوں میں ڈال کر آپ ﷺ کے کلمے، آپ ﷺ کے دین کو دنیا کے کونے میں پہنچایا اور ان شاء اللہ العزیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہ دین، یہ حق باقی رہے گا۔ اس کے بعد کمان وہ خود سنبھال لیں گے۔



Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

(مكمل)

جلد ۲۱



ایاتھا ۲ ۱۰۹ سُورَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ ۱۸ رکو عھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۲ وَلَا اَنْتُمْ
 عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۳ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۴ وَلَا اَنْتُمْ
 عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۵ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وِلٰی دِيْنِ ۶

قُل اے پیغمبر آپ فرمادیں یٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اے کافرو
 لَا اَعْبُد میں نہیں عبادت کرتا مَا تَعْبُدُوْنَ جن کی تم عبادت کرتے
 ہُو وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو مَا اَعْبُدُ
 اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا اَنَا عٰبِدُ اور نہ میں عبادت
 کروں گا مَا عَبَدْتُمْ جن کی تم عبادت کر چکے ہو وَلَا اَنْتُمْ
 عٰبِدُوْنَ اور نہ تم عبادت کرو گے مَا اَعْبُدُ اس کی جس کی میں عبادت
 کرتا ہوں لَكُمْ دِيْنِكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین ہے وِلٰی
 دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورة الكفرون ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کافرون کا لفظ
 موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سترہ (۱۷) سورتیں نازل ہو چکی

تھیں۔ اس کا اٹھارہواں ﴿۱۸﴾ نمبر ہے۔ اس کا ایک رکوع اور چھ ﴿۶﴾ آیات ہیں۔

شان نزول :

اس سورت کا شان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ کی آبادی تھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں میں پہلے دن ہی پہنچ گئی تھیں۔ جن کو پہلے دن پتا نہیں چلا ان کو دوسرے، تیسرے دن پتا چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس سلسلے میں انھوں نے دارالندوہ میں اجتماع کیا۔ یہ ان کا دارا تھا جس میں مشاورت کے لیے، گیوں کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ مسجد حرام میں شامل ہو چکا ہے۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اس کے دعویٰ نبوت کی وجہ کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ آخر اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟

کسی نے کہا کہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے اس کا مقصد ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں گے میری امداد کریں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ بات بھی ممکن ہے لیکن ہماری سمجھ میں دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب صورت جوان ہے، صحت مند ہے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بیوہ ہے اس کا مقصد ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ رشتہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔

چنانچہ ایک وفد کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہنے لگے

حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرئیل

ﷺ فرشتوں کا سردار مجھ پر نازل ہوا ہے اور مجھے قرآن پاک کی یہ سورتیں سکھلائی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اور بھی قرآن نازل ہوگا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، قیامت کے مسئلے کی دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، سچ بولنے، جھوٹ چھوڑنے کا کہتا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کا کہتا ہوں، بد امنی پھیلانے سے روکتا ہوں۔

کہنے لگے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جتنا مال آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ادھا مال میرے ذمہ ہے باقی تم سارے مل کر دینا۔ اتنا مال اس کو دے دیں کہ اس کی سات پشتیں ختم نہ کر سکیں۔ عتبہ نے کہا کہ سارے جانتے ہیں کہ میری لڑکیاں شکل و عقل والی ہیں۔ سب لوگ رشتے کے پیغام بھیجتے ہیں لیکن میں نے کسی کے لیے ہاں نہیں کی۔ آپ جس پر ہاتھ رکھیں میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اختلاف بڑی چیز ہے یہ گھر گھر میں پھیلے گا، گلی گلی میں پھیلے گا، بازار میں پھیلے گا۔ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے سامنے مال کی پیش کش کی ہے مجھے رب تعالیٰ کی قسم ہے اگر تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دو میں پھر بھی حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ رشتے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت دی ہے مجھ سے جتنا ہوسکا میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پھر کہنے لگے اس میں کچھ ترمیم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہنے لگے چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ان کو بُرا

مت کہیں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ صلح صفائی سے وقت گزارنا چاہیے۔ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ پیش کش کی تو آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ پر یہ سورت نازل ہونی شروع ہو گئی تھی۔

احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی سخت سردی میں بھی آپ ﷺ کی پیشانی سے پسینا بہتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے تو بعض نے یہ خیال کیا کہ اس پر ہماری بات کا اثر ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جواب میں تاخیر اس لیے کی ہے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اور یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے جو میں تم کو ابھی پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ ﷺ نے پروقار انداز میں یہ سورت ان کو سنائی۔

قُلْ اے نبی کریم ﷺ! آپ ان سے کہہ دیں يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
اے کافرو! لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت
کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ عبادت کرنے والے
ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مشرک رب تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں
تھے رب تعالیٰ کو مانتے تھے اور رب تعالیٰ کی عبادت کے بھی قائل تھے مگر اکیلے
رب کی عبادت کے قائل نہیں تھے۔ رب تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک
ٹھہراتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا قَالُوا اٰجِئْنَا لَتَعْبُدَ اللّٰهَ
وَخَدَّهٗ وَنَدَّرَ مَا كَانَ يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا ﴿الاعراف: ۷۰﴾ ”کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس
مقصد کے لیے کہ ہم عبادت کریں اکیلے خدا کی اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت
کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔“ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور دوسروں کی بھی

عبادت کریں گے۔ مشرک رب تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ظاہری طور پر مشرک عام کلمہ گو مسلمانوں سے زیادہ رب تعالیٰ کا عقیدت مند ہوتا ہے۔ آٹھویں پارے میں موجود ہے کہ وہ پیداوار میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے هَذَا لِلّٰهِ بِرَّعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا ”یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اپنے خیال سے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔“ دیکھو! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ پہلے نکالتے تھے اور ان کی یہ عقیدت قرآن سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں کچھ دانے شریکوں کے مل جاتے تو الگ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے یہ محتاج ہیں۔ اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا اس میں سے کچھ دانے شریکوں کے حصے میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کوئی بات نہیں رب غنی ہے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو بہ ظاہر رب تعالیٰ کے ساتھ مشرک کو کتنی عقیدت ہے۔

اور مشرکوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں ان کو ہم الہ نہیں سمجھتے۔ ہم تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴿۳﴾ ”ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔“ اور سورت یونس آیت نمبر ۱۸ میں هُوَ لَآءِشْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ”یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔“ یہ خدا نہیں ہیں خدا کے قریب کرنے والے ہیں۔

پھر مثالیں دیتے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم کو ملنا ہوتا تو براہ راست آدمی نہیں مل سکتا۔ گورنر، کمشنر، ڈی، سی کے ذریعے ملتا ہے۔ اسی طرح ہم پست ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت

بلند ہے یہ ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَلَا تَقْصِرْ بُوَاذِئِهِ إِلَّا مَثَالًا** "اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" (النحل: ۳۷) "پس نہ بیان کرو تم مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔" بادشاہ وزیر اعظم کے لیے تو واسطے اس لیے تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کو حالات کا علم نہیں ہوتا ان سے ملاقات کر کے ان کو حالات سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر شے کا علم ہے اس کو کس شے سے آگاہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلند ذات ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہے۔ سورۃ الحدید، آیت ۴، پارہ ۲ میں ہے **وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ** "اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔" لہذا یہ بادشاہوں والی مثال بیان نہ کرو۔

اور دوسری مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھلانگ لگا کر تو اوپر نہیں جا سکتا۔ مکان کتنا بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے یہ با۔ بے درمیان میں ہماری سیڑھیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس آنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے **وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (ق: ۱۶) "اور ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی دھڑکتی ہوئی رگ سے۔" شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں یہاں کون سی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے۔

تو مشرک رب تعالیٰ کا بڑا عقیدت مند ہوتا ہے لیکن مشرک کو خالص عبادت رب کی نصیب نہیں ہوتی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے **اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَّاحِدًا** "اِنَّ هٰذَا نَشِيْءٌ عَجَابٌ" (ص: ۵) "کیا اس نے کر دیا ہے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بے شک یہ ایک عجیب چیز ہے۔" یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دست گیر ہے، ایک ہی فریاد رس ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بات

ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔

آج بھی مسجدوں میں یہ شعر پڑھے جاتے ہیں:

اِمداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم و سنگیر

ان سے کہو کہ صرف رب سے مانگو تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان سے کہہ دیں

يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ اے کافرو! لَا آغْبُدْ میں نہیں عبادت کرتا فی الحال، اس وقت مَا
ان کی تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جنوں کی فرشتوں کی، انسانوں کی،
لات، منات، عزی۔ میں ان کی عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں نہ ہی وہ
عبادت کے مستحق ہیں۔ میں تو وحدۃ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر
کھڑا ہونا بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، سجدہ بھی اسی کے لیے۔

بعض قرآء حضرات دین کی روح سے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ مجمع میں لوگوں
کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر (جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں) قرأت کرتے
ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حالت رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے۔ مخلوق کے
سامنے، بندوں کے سامنے یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پوچھنے
والے نے پوچھا حضرت! ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کر
سکتا ہے۔ حضرت! مصافحہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری
شریف میں باب قائم کیا ہے المصافحہ بالیدین ”مصافحہ دو ہاتھوں سے ہوتا ہے۔“
پھر اس پر حدیث پیش کی ہے۔ پھر پوچھا حضرت! اَیْتَحَنِیْ لَہُ ”کیا ایک آدمی“

دوسرے آدمی کو جھک کر مل سکتا ہے؟“ فرمایا نہیں اس لیے کہ جھکنے میں رکوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور رکوع کی حالت صرف رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہے تاکہ کم فہم لوگ اور بد باطن لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مردے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے امر مجبوری۔ وہ الگ بات ہے۔ مثلاً: میں بیٹھا ہوا ہوں اگر کوئی آکر مصافحہ کرے گا تو جھکے گا۔ یا کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے تو جھکے گا یہ بائرمجبوری ہے کیوں کہ وہ بے چارہ اٹھ نہیں سکتا۔ مجبوری کے مسائل الگ ہیں۔ مثلاً: عام حالات میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے مگر جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی سارا دن بازار گھومتا رہے اور نماز بیٹھ کر پڑھے یہ جائز نہیں ہے۔

دیہاتی عورتیں سودا سلف خریدنے کے لیے آتی ہیں بعض ہمارے گھر بھی آ جاتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتی ہیں مصلیٰ دے دو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بچیاں مصلیٰ دے دیتی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ اے بی بی! سارا دن تو نے لگھڑ میں چکر لگایا ہے، بازار گھوم چکی ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بیٹھ کر نماز اس کی ہوتی ہے جو کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو۔ ان کی پڑھی ہوئی نمازیں سب ان کی گردن پر قرض ہیں۔ اور عورتیں یہ مسئلے بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ عورتوں کی آستین کلائی تک ہونی چاہیے۔ اگر کلائی تک نہ ہوئی تو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ ناخن پالش کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی ہے اور سرخی لیس دار ہے پانی نیچے نہیں جاتا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں۔

تو فرمایا میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا آتُكُمْ

عِبَادُونَ مَا عَبَدُوا اور نہ تم خالص عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے وہ کافر مخاطب ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ بیش تر وہ ہیں جو بدر کے موقع پر مردار ہوئے جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وَلَا أَنَا عَبِدُ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کر چکے ہو وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرے سامنے نہ تم مال پیش کرو اور نہ رشتے پیش کرو اور نہ اس طرح کی صلح کی شرائط پیش کرو لَكُمْ دِينَكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین ہے وَلِيَّ دِينٍ۔ اصل میں دینی تھای متکلم کو تخفیفاً حذف کر دی گیا۔ اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱



أياتها ۳ ۱۱۰ سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۳ رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَّابًا ۝

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى كِي مَدَا جَاءَ كِي وَانْفُتْحُ اُور
مَكَّة فَتَحَ هُوَ جَاءَ كَا وَرَأَيْتَ النَّاسَ اُور اُپ دِيكھیں گے لوگوں كو
يَدْخُلُونَ دَاخِلَ هُوَتے هیں فِي دِينِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كے دِين
مِيں اُفْوَاجًا فَوْجِ دَرَفَوْجِ فَسَبِّحْ اُپ اُپ تَسْبِيْحَ بِيَانِ كَرِيں بِحَمْدِ
رَبِّكَ اُپنے رُب كِي حَمْدِ كِي وَاسْتَغْفِرْهُ اُور اُس سے اسْتِغْفَارِ كَرِيں
اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شَكِّ اللَّهُ تَعَالَى تُوْبَهٗ قَبُولِ كَرْنِ وَا لَاهے۔
نَامِ اُور كُو الْف :

اس سورت کا نام سورة النصر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں نصر کا لفظ موجود ہے۔
اسی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور نازل ہونے
کے اعتبار سے اس کا ایک سو چودھواں ﴿۱۱۳﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سو تیرہ
﴿۱۱۳﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ :

دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے اور ایک وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ کی شاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ قریش مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ ہر ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیا کہ یہ سارے اکٹھے حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم ہمارے ساتھ لڑ نہ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے تو سب مل کر ادا کر دیں گے۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ نے جبل ثور کی چوٹی پر غار ثور میں چھپ جانا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے فوراً یہ لفظ نکلا الصَّحْبَةُ الصَّحْبَةُ ”حضرت میں بھی ساتھ جاؤں گا۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑا دشوار گزار پہاڑ ہے۔ میں بڑا اہمیت والا آدمی تھا مگر اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں میرے پونے دو گھنٹے لگے تھے (اس وقت سیڑھیاں نہیں بنی تھیں اب تو سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں پھر بھی ہم لوہیوں کے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مرتب) بہت دشوار گزار اور بلند پہاڑ ہے۔ میں نے غار میں دو نفل بھی پڑھے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گھر سے تشریف لے گئے

تو کافر بڑے پریشان ہوئے کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر جب یہ اعلان سنا کہ ان کو پکڑنے والے کو دو سواونٹ ملیں گے تو اس لالچ میں اور پاگل ہو گئے۔ دو سواونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غار ثور میں چھپنے والا راز صرف دو آدمیوں کے پاس تھا۔ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہ ان کی ڈیوٹی تھی رات کو غار میں کھانا پہنچانے کی۔ اور دوسرے راز دان عبد اللہ بن اریق تھے جن سے دس دینار پر طے ہوا تھا کہ تین دن بعد غیر معروف راستے سے یشرب لے جانا ہے۔ کیوں کہ یہ راستوں کا ماہر آدمی تھا۔

یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور ان کافروں میں سے تھا جنہوں نے خیف بنو کنانہ میں قسمیں اٹھائی تھیں بائیکاٹ کی کہ بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھنا ہے جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بائیکاٹ تھا "أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ" نہ ان کے ساتھ رشتہ کرنا ہے اور نہ ان سے خرید و فروخت کرنی ہے۔" لیکن یہ بات کا پکا آدمی تھا سب کچھ اس کے علم میں تھا۔ کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے طے کیا تھا کہ تو نے تین دن کے بعد ہمیں فلاں جگہ سے وصول کرنا ہے اور گم نام راستے سے مدینہ طیبہ پہنچانا ہے اس پر تجھے دس دینار ملیں گے۔ اُس وقت دس دینار کا ایک اونٹ آتا تھا۔ پہلے لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بدر والے راستے سے جاتے تھے مگر وہ لمبا راستہ تھا سعودی حکومت نے آج کل جو سڑک بنائی ہے یہ طریق الحجرتہ ہے۔ اسی راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج کل بسیں اسی راستے پر جاتی ہیں۔

تو کافر ہونے کے باوجود یہ بڑا دیانت دار آدمی تھا دس دینار پر راضی رہا اور ایک

سوتوے دینار پر لات ماری۔ اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور وہ بیٹھ ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے تلاش شروع کی۔ قبیلہ بنو مخزوم کا ایک بڑا ماہر کھوجی تھا۔ وہ پاؤں کے نشانات کے ذریعے غار ثور کے منہ پر جا پہنچا۔ کہنے لگا یہاں تک کھوج پہنچتا ہے اور کہہ بھی صحیح رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے اور کبوتری نے انڈے دے دیئے۔ لوگوں نے کھوجی سے کہا کہ تیری عقل ماری گئی ہے اگر وہ اندر جاتے تو مکڑی کا جالا اس طرح رہتا؟ الٹا اس پر برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے قلعہ کا کام لیا۔ کافر غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے کہا حضرت! اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے لا تمحزن آپ پریشان نہ ہوں۔

یہاں پر رافضیوں کی خیانت دیکھو! کہتے ہیں کہ ابو بکر اس لیے بولے تھے کہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم اندر ہیں اور آنحضرت ﷺ کو شہید کر دیں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ آنحضرت ﷺ کو شہید کر دیتے تو ابو بکر بیچ جاتے؟ انعام تو دونوں نے لیے مقرر تھا۔ مگر خبیث آدمی کو خباثت ہی سو جھتی ہے۔

فتح مکہ :

تو خیر ایک وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پھر آٹھ سال کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ ﷺ دس ہزار نفوس قدسیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نبی ﷺ۔ اور تورات کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ دنیا کا سردار فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار نفوس قدسیہ،

پاک باز نفوس کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اب عیسائیوں نے دس ہزار کا لفظ نکال کر اس کی جگہ دس لاکھ کر دیا ہے تاکہ یہ پیش گوئی آپ ﷺ پر صادق نہ آئے۔ ۱۹۰۰ء سے پہلے جو انجیل اور کتاب مقدس طبع ہوئی ہے اس میں دس ہزار کا لفظ موجود ہے۔ 1982ء میں مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔ مانچسٹر پہنچے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تورات کا کوئی پرانا نسخہ تلاش کرو۔ نسخہ مل گیا، وہ انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا فلاں باب نکال کر مجھے اس کا ترجمہ سناؤ۔ اس میں دس ہزار کا لفظ موجود تھا۔ میں نے اس صفحے کی اور پہلے صفحے کی فوٹو کاپی کرائی جو میرے پاس موجود ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر صرف پندرہ جانبیں ضائع ہوئیں۔ آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے اس گلی سے گزر کر کعبہ پہنچنا ہے۔ مختلف ساتھیوں کے لیے مختلف گلیاں مقرر فرمائیں کہ اس نے اس گلی سے اور اس نے اس گلی سے کعبہ اللہ پہنچنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گزرنے لگے تو قریشی ضد میں آگئے کہ ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ جو تلوار نہ اٹھائے اسے کچھ نہیں کہنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تلوار اس کے خلاف استعمال کرنی ہے جو تمہارے سامنے تلوار اٹھائے لہذا تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ انھوں نے کہا کہ ہم اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے دوسرا راستہ اختیار کرو۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے اسی گلی سے گزرنا ہے۔ پیش قدمی کی تو انھوں نے دو صحابی شہید کر دیئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی حملے کا حکم دیا۔ قریش کے تیرہ آدمی مارے گئے۔ بس یہ نقصان ہوا۔

مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو جتنے نامی گرامی آدمی تھے سب بھاگ گئے۔ ان بھاگنے

والوں میں وحشی بن حرب بھی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ہبار بن اسود بھی بھاگ گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا برادری میں چچا لگتا تھا۔ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے جا رہی تھیں تو اس نے روکا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اپنے خاوند کی اجازت سے جا رہی ہوں۔ کہنے لگا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اونٹ پر سوار تھیں ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ ان کے پیٹ میں بچہ تھا ضائع ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں فوت ہو گئیں۔ اس ہبار بن اسود نے بھی دوڑ لگا دی۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے بھی دوڑ لگا دی۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کی سیدھ میں تیس میل کے فاصلے پر سمندر تھا۔ جدہ شہر اس وقت آباد نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ کشتی میں سوار ہو گیا حبشہ جانے کے لیے۔

ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جھنڈا لہرایا اور حجوں کے مقام پر جھنڈا لہرایا جہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے قسمیں کھائی تھیں۔ اور فرمایا مکے والو! ادھر آؤ میری بات سنو۔ ڈرتے ڈرتے عورتیں، بچے اور بوڑھے آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے جرم دہرائے اور زیادتیاں بتلائیں جو وہ کرتے رہے تھے کہ تم نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں وقت یہ کی۔ تم نے حارث بن خدیج کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جرائم بتلاتے جاتے تھے ان کے حوصلے پست ہوتے جاتے تھے اور کئی نے دوڑ لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والو! تم نے اپنے جرائم سن لیے لَّا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ”نہیں ہے ملامت تم پر آج کے دن“ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔

ہبار بن اسود کے عزیز نے کہا کہ حضرت! ہبار کے لیے معافی ہے؟ فرمایا ہاں!
 معافی ہے۔ وحشی بن حرب کو بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں! معافی ہے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں البتہ
 اتنی بات ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ کیوں کہ اس نے بڑی بے دردی
 سے میرے چچا کو شہید کیا ہے۔ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا، دل نکالا، ناک، کان کاٹے۔
 میرے سامنے نہ آیا کرے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔

عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا آئیں۔ کہنے لگی! حضرت مجھے جانتے
 ہیں؟ فرمایا ہاں! ام حکیم ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند دوڑ گیا ہے اگر وہ آجائے تو اس کو بھی
 پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں! مل جائے گی۔ کہنے لگی وہ بغیر کسی نشانی کے مطمئن نہیں ہوگا کوئی
 نشانی دے دو۔ احادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی
 پگڑی تھی وہ اُتار کر دے دی۔ وہ لے کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کشتی
 طوفان کی وجہ سے واپس آگئی۔ عکرمہ نے دیکھا کہ میری بیوی کنارے پر کھڑی ہے کہنے
 لگا معاملہ بڑا سخت لگتا ہے انھوں نے عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ پوچھا ام حکیم کیسے آئی
 ہو؟ تیرے ساتھ کیا ہوا، اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر
 ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تجھے بھی معافی مل گئی ہے۔
 کہنے لگا دیکھنا کہیں مجھے پھنسانہ دینا۔ ام حکیم نے پگڑی مبارک سامنے کی اور کہا کہ یہ
 انھوں نے نشانی دی ہے کہ واقعتاً میں نے معاف کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ جَبَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي مَدَّ آجَائِي كِي
 وَالْفَتْحُ وَأُورْمَكَةُ فَتْحٌ هُوَ جَائِي كَا وَرَأَيْتَ النَّاسَ أَوْرْمَكَةَ دِي كِي كِي كِي كِي كِي كِي
 يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا دَاخِلٌ هُوَتِي هِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي دِي نِي مِي فَوْجِ دَر

فوج۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے استغفار
کریں۔ اس کے بعد آپ ﷺ یہ پڑھتے تھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ
اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یوں ان آیات پر عمل کرتے تھے۔

۹ ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ اس سال آپ ﷺ حج پر تشریف نہیں لے
گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو لے جا کر حج
کرائیں میں نہیں جاسکتا۔ کیوں کہ لوگ دور دراز سے کلمہ پڑھنے کے لیے آرہے ہیں مجھے
نہیں پائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ عرب کا بڑا وسیع رقبہ تھا۔ اس وقت سعودیہ کا رقبہ
بائیس ۲۲۶ لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی ایک کروڑ اتنی لاکھ ہے۔ پاکستان کے رقبہ
سے تین گنا زیادہ رقبہ ہے۔ پاکستان کی آبادی پندرہ کروڑ ہے۔ تو لوگ دور دراز سے آ
رہے ہیں پریشان ہوں گے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الوفود، عام الوفادہ، وفدوں والا
سال کہا جاتا ہے۔


آنحضرت ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت عبد اللہ بن
عباس رضی اللہ عنہما کی عمر دس سال تھی۔ اڑھائی سال تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ پھر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً تیرہ، چودہ (۱۳-۱۳)
سال تھی۔ مجلس شوریٰ کے اجلاسوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بٹھاتے تھے۔ حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انھوں نے اعتراض کیا اے امیر
المؤمنین! آپ اس بچے کو شوریٰ میں بٹھاتے ہیں۔ شوریٰ میں بڑی بڑی راز کی باتیں ہوتی
ہیں اور یہ بچہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر میرا بیٹا بھی آ بیٹھے گا، دوسرے

بچے بھی آ بیٹھیں گے۔ شورئی پر بچوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے یہ کیا ہے؟

پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورئی والوں سے سوال کیا کہ سورۃ النصر میں گر کی بات کیا ہے مجھے بتاؤ؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہا راز اور گر کی بات پوچھ رہا ہوں۔ کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا بیٹا! تم بتاؤ اس میں گر کی بات کیا ہے؟ فرمایا **فِيهَا أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ** ”اس سورت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔“ مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی تیاری کریں، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کی اور استغفار کریں۔ فرمایا سمجھ آیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔

تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تسبیح اور استغفار پڑھا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے قرآن کا چوتھائی حصہ پڑھ لیا ہے **إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا** بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والا ہے۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

آیتھا ۵ ۱۱۱ سُوْرَةُ اللَّهْبِ مَكِّيَّةٌ ۲ رُكُوْعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۱ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ وَاكْسَبَ ۲
 سَيَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۳ وَاَمْرَاتُهُ حَمٰلَةَ الْخَطْبِ ۴
 فِیْ جَنَدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۵

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں و
 تَبَّ اور وہ خود بھی ہلاک ہو مَا اَغْنٰی عَنْهُ نہیں کام آئے گا اس
 کے مَالُهُ اس کا مال و مَا كَسَبَ اور جو اس نے کمایا
 سَيَصْلٰی نَارًا عنقریب داخل ہوگا آگ میں ذَاتَ لَهَبٍ جو شعلے
 مارنے والی ہے وَاَمْرَاتُهُ اور اس کی بیوی بھی حَمٰلَةَ الْخَطْبِ
 جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے فِیْ جَنَدِهَا اس کی گردن میں حَبْلٌ
 رسی ہے مِّنْ مَّسَدٍ مونج کی۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں لہب کا لفظ موجود ہے۔ جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا چھٹا نمبر ہے۔ اس سے پہلے پانچ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک

رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

شان نزول :

واقعہ اس طرح پیش آیا کہ سراقہ بن مالک جو قبیلہ بنو کنانہ کا سردار تھا۔ قبیلہ بنو کنانہ عرب کے قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا۔ دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق تھا۔ چلتا پھرتا پرزہ تھا۔ خاصا بااثر آدمی تھا۔ مکے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے بعد انھوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور اس نے مکے والوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اُس وقت عربوں کا مزاج تھا کہ جب تک دشمن سے انتقام نہ لے لیتے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والا ہے۔

اُس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی مختصر تھی۔ وہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ اُنھی دنوں میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی **وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿الشعراء: ۲۱۴﴾** ”اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔“ اس وقت یہ بلڈنگیں نہیں تھی۔ صفا پہاڑی دور سے صاف نظر آتی تھی۔ آپ ﷺ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سفید چادر لہرائی۔ یہ سفید چادر لہرانا خطرے کا الارم ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ملکی جنگ شروع ہو جائے تو خطرے کے الارم بج جاتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان۔ انھوں نے سمجھا کہ شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کر دیا ہے۔ بڑا مجمع جمع ہو گیا۔

حضور ﷺ کے چپ اور پھوپھیاں :

آنحضرت ﷺ کے نو چچا تھے۔ آپ ﷺ کے والد محترم حضرت عبد اللہ تمام

بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ نوپچوں میں سے دو کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ پھوپھیاں تھیں۔ ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو رب تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچوں میں سے ایک کا نام عبدالعزیٰ تھا جس کی کنیت ابو لہب تھی۔

صفا پہاڑی کا وعظ :

جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جبل ابوقیس کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے مَا جَزَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَطُّ ” ہم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔“ یہ تقریباً نبوت کا پانچواں سال تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پینتالیس سال ہو گئے ہیں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور یہ لفظ بھی آتے ہیں مَا جَزَبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ” ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں۔“ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا ” سچے دل سے کلمہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ پڑھ لو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔“ ورنہ معصوم فرشتوں کی فوجیں تمہارے خلاف کارروائی کریں گی۔ سب حیران ہو گئے کہ اس نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ ابو لہب آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کیے جیسے عورتیں لڑتی ہیں تو ہاتھ بڑھاتی ہیں۔ تو اس نے ہاتھ آگے کر کے کہا تَبَّالِكَ سَائِرًا إِلَّا يَأْمُرُ الْهَذَا جَمَعَتْنَا ” ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ساری عمر اس لیے ہمیں بلایا ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو صہر! اَنْقِذُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ” اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔“

اے بنو ساعدی، اے بنو مخزوم، اے بنو قارہ، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچالو۔ سب خاندانوں سے کہا کہ اتمام حجت ہو جائے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا۔ اے میری پھوپھی! تو میرے واسطے قابل احترام ہے لیکن اپنے آپ کو دوزخ سے بچالے۔ اور ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا اے فاطمہ! سَلِّينِي مِنْ مَّالِي مَا شِئْتِ ”میرے پاس جو مال ہے مانگ میں تجھے دوں گا“ لیکن لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ”اللہ تعالیٰ کی گرفت سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا۔“ بیٹی ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت والے دن ایمان لے کر آئیں، عمل صالح، اخلاق حسنہ لے کر آئیں اور تو صرف نسبت لے کر آئے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ صرف نسبت کام نہیں آئے گی۔ قاتیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا؟ کیا یہ نسبتیں کام آئیں؟ محض نسبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ نسبت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح ہوں تو نور علی نور ہے۔

تو آنحضرت ﷺ نے اتمام حجت کیا۔ صفا پہاڑی کی چٹان پر دین کا نقشہ پیش کیا تو آپ ﷺ کا چچا ابولہب بڑے غلط انداز سے پیش آیا اور کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہلاک ہو جائے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہ سبق سنانا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں وَتَبَّتْ اور وہ خود بھی ہلاک ہو مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال وَمَا كَسَبَ اور جو اس نے کمایا اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ابولہب کے بیٹے بھی کافی تھے۔ اس کے دو بیٹوں عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں آنحضرت ﷺ کی دو

بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کلمہ ظاہر کیا ساس جس کا نام اُزوی بھی بتاتے ہیں اور عوراء بھی بتاتے ہیں بڑی سخت مزاج عورت تھی۔ یہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی سگی ہمشیرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی تھی۔ قدرتی طور پر یہ خاندان سخت مزاج تھا۔ خاندانی اثرات قوموں میں ہوتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے:

الْوَلَدُ سِرٌّ لِأَبِيهِ

”بیٹے میں باپ کے اثرات ہوتے ہیں۔“ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے، فاروقی تھے۔ ایک موقع پر کسی نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ خط کا مضمون پڑھ کر آپ غصے میں آگئے۔ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ”بے اختیار رگم فاروقیم در حرکت شد۔“ میں نے تمہارا خط پڑھا تو میری فاروقی رگ بے اختیار پھڑک اٹھی۔ کتنی صدیاں اور کتنی نسلیں گزر چکی تھیں مگر خاندانی اثرات اسی طرح موجود تھے۔

ابولہب کی بیوی ام جمیل :

تو ابولہب کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل تھی بڑی سخت عورت تھی۔ پہلے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو روکا کہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ مگر وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں کسی کے دباؤ میں آکر وہ کلمہ کس طرح چھوڑ سکتی تھیں۔ پھر اس نے اپنے لڑکوں کو اُکسایا کہ ان کو مارو، ڈراؤ کہ یہ کلمہ نہ پڑھیں۔ جب یہ تدبیر بھی نہ چلی تو ابولہب کو کہا کہ گلیوں، بازاروں میں لٹھ لے کر کلمہ روکتا پھرتا ہے تجھے اپنے گھر کی خبر نہیں کہ اس کی یہ لڑکیاں تیرے گھر میں کلمہ پڑھتی ہیں۔ ابولہب نے بھی ڈرایا، دھمکایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا کہ دین حق چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی اور تکلیف ہے تو بتلاؤ

کوئی خدمت میں کمی ہے تو بتلاؤ مگر جہاں تک کلمے کی بات ہے ہمارے بدن کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان شاء اللہ! ہماری بوٹیوں سے بھی کلمے کی صدا آنے لگی۔ بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ بتلاؤ ہمارا بن کر رہنا ہے یا محمد کا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ میرے ساتھ فیصلہ کرو میں تمہارا باپ ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہنے لگا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اس کی بیٹیوں کو لے جاؤ، اس کے گھر چھوڑو اور طلاق دے کر آ جاؤ کہ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں کہ گلیوں، بازاروں میں لوگوں کو کلمے سے روکتا پھرتا ہے اور تیرے گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے میں اتنا بڑا طعنہ نہیں سن سکتا۔ چنانچہ دونوں بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔

دوموذی النان :

ابو جہل اور ابولہب دونوں بڑے موذی آدمی تھے۔ ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ جہاں جا کر بیان کرے سارے کام چھوڑ کر اس کی تردید کرنی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے۔ کیوں کہ حج کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ منیٰ میں لوگ جمع تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے عمدہ پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سے فارغ ہوئے تو ابولہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا ائہمنا الناس اے لوگو! میری بھی سن لو۔ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ ابولہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا خوب صورت تھا (حسن کے شعلوں والا)۔ اس کا چہرہ حسن کے شعلے مارتا تھا۔ کہنے لگا میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے اور صابی ہو گیا ہے اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ اس کے کہنے میں نہ آنا۔ پھر موٹی موٹی ریت اور

کنکریوں کی مٹھی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی۔ اشارہ تھا کہ اس پر تم سنگ باری کرو۔

ابولہب کی عبرت ناک ہلاکت :

اس نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری اور ذلیل ہو کر مرا۔ اسے طاعون کی بیماری لگی جسے مکے والے عدسہ کہتے تھے۔ جسم پر ایک دانہ نکلتا تھا۔ یہ متعدی بیماری ہوتی ہے۔ اگر طاعون کی بیماری ملک میں ہو جائے تو دوسرے ملک والے اپنے ملک میں ان کے جہاز نہیں آنے دیتے کہ طاعون یہاں نہ لے آئیں۔ تو اس کو زہریلا پھوڑا نکلا۔ گھر والوں کو علم ہوا تو انھوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ ایک حبشی غلام سے پوچھا کہ تو جہاں کام کرتا ہے وہاں تجھے کتنی مزدوری ملتی ہے؟ اس نے کہا دس درہم۔ انھوں نے کہا کہ ہم تجھے بیس درہم دیں گے اور کھانا بھی دیں گے ہم کاروباری لوگ ہیں، دکانوں میں رہتے ہیں ہمارے باباجی بیمار ہیں بس تو نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، دوائی دینی ہے، خوراک دینی ہے۔ بس اتنا ہی کام ہے۔

وہ بڑا خوش ہوا کہ مزدوری بھی ڈبل اور رہوں گا بھی سائے میں۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اس کو تو طاعون کی بیماری ہے، وہ دودھ دیتے کہ با بے کو پلاؤ وہ غلام دودھ خود پی جاتا اور اس کے قریب نہ جاتا۔ جو پھل فروٹ وہ دیتے وہ بھی کھا کر برتن لا کر دے دیتا کہ باباجی کھا بیٹھے ہیں۔ دو تین دن گزرے تو آواز نہ آئی۔ غلام سے پوچھا تو اس نے کہا باباجی آرام کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ مر چکا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ تین دن تک اس کی لاش کے قریب کوئی نہ گیا۔ حبشی غلاموں کو کرائے پر حاصل کی گیا جو اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر پتھر ڈال دیئے۔

اس طرح اس کو موت آئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَصْلَى نَارًا عَمَقْرِبَ دَاخِلٌ هُوَ كَا اِيْسَى اَآگ مِيں ذَات لَهَبٍ جو شعلے مارنے والی ہے وَ اَمْرَا تُهُ اور اس کی بیوی بھی حَمَالَةٌ الْحَطَبِ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ یہ بڑی سخت مزاج اور خسیس عورت تھی۔ باوجود اس کے کہ اس کا گلاسونے سے بھرا ہوا ہوتا تھا جنگل سے جا کر خود لکڑیاں لاتی اور روٹیاں پکاتی تھی۔

ام جمیلہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت :

یہی وہ عورت ہے جو کانٹے لا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سحری کے وقت اٹھ کر مسجد حرام میں آتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا یہ چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چھیں۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سوکھی لکڑیاں کافی مل گئیں۔ ان کا بڑا گٹھا بنا یا سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ گٹھا گر گیا اور اس کی رسی گلے میں اٹک گئی جس کی وجہ سے گلا گھٹ کر مر گئی (لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سامان سر پر رکھ کر اس کی رسی تھوڑی سے نیچے کر کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ سامان سر سے پیچھے گرے گا تو وہ رسی پھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مرتب)

یہ سزا تو اس کو دنیا میں ملی اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ اور بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم حَمَالَةُ الْحَطَبِ کا معنی کرتے ہیں چنغل خور۔ ایک کی بات دوسرے کو بتائی۔ فارسی میں اس کو ہیزم کش کہتے ہیں۔ لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، تنکے اکٹھے کرنے والا۔ تنکوں کو اکٹھا کر کے آگ لگائی جائے تو خوب لگتی ہے۔ یہ چنغلی کرنے والا بھی آگ لگانے والا ہوتا

ہے۔

یہ عورت آپ ﷺ سے اتنی سخت عداوت رکھتی تھی کہ آپ ﷺ کا نام سن کر دانت پیستی تھی کہ میں اس کو کچا کھا جاؤں **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ** اس کے گلے میں رسی ہے **فِي مَسَدٍ** مونج کی۔ اور قیامت والے دن اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے گی جس کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے **فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا** ﴿الحاقہ: پارہ ۲۹﴾ ”ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے۔“ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق کہ جہنمی نیچے گردن نہیں جھکا سکیں گے۔ اس دن ظالم مشرک کہے گا **يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا** ﴿الفرقان: ۲۷﴾ ”کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ۔“ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے پر چلتا۔ مگر اس وقت شرمندگی اور ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے **شَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ”قیامت کے دن کی پشیمانی بڑی بڑی پشیمانی ہے۔“ کہ اس کا علاج کوئی نہیں۔ دنیا میں آدمی اپنی غلطی پر پشیمان ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی علاج نکل آتا ہے۔ وہاں کوئی علاج نہیں نکل سکے گا۔

تو فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے جس میں پھنس کر وہ مری اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ سورۃ اللہب کا مختصر خلاصہ ہے۔



11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

(مكمل)

جلد ————— ۲۱

1875

Dear Mother
I received your letter of the 10th and was
glad to hear from you. I am well and
hope these few lines will find you the same.
I have not much news to write at present.
The weather here is very pleasant now.
I must close for this time. Write soon.
Your affectionate son,
John Doe

Dear Mother
I received your letter of the 15th and was
glad to hear from you. I am well and
hope these few lines will find you the same.
I have not much news to write at present.
The weather here is very pleasant now.
I must close for this time. Write soon.
Your affectionate son,
John Doe

1875

آیاتها ۴ ۱۱۲ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ ۲۲ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَكَمْ يُولَدُ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

قُلْ (اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ اس نے نہیں جنا کسی کو وَلَمْ يُولَدُ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس کا كُفُوًا أَحَدٌ ہمسر کوئی بھی۔

نام اور کوائف :

اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یعنی اس میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا بابائیسواں ﴿۲۲﴾ نمبر ہے۔ اس سے پہلے اکیس ﴿۲۱﴾ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک رکوع اور چار آیتیں ہیں۔

شان نزول :

اس کا شان نزول تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافروں کے ہر داروں کا ایک گروہ حاضر ہوا اور سوال کیا کہ تم ہمارے خداؤں

کو بُرا کہتے ہو، ان کی عاجزی اور بے کسی بیان کرتے ہو بھلا بتلاؤ تمہارا خدا کیا کیا صفت رکھتا ہے؟ اور کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ آنحضرت ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام یہ سورت لے کر آئے۔

سورة اخلاص ثلاث قرآن :

آنحضرت ﷺ نے فرمایا **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اصولی طور پر قرآن کریم میں تین عقیدے بیان ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ باقی ہجرتی عقیدے ہیں وہ ان کی فرع ہیں۔ توحید چونکہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے اور اس سورت میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہوئی۔

لیکن اکثر اور جمہور فقہائے کرام، محدثین عظام رضی اللہ عنہم اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ سورۃ **قُلْ هُوَ اللَّهُ** پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف، ابوداؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا **أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ** ”کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ ہر رات قرآن پاک کا ایک ثلث پڑھ کر سوائے **قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُهُ ذَلِكَ** صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوائے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم ایک دفعہ **قل هو الله احد** پڑھو گے تو تمہیں قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا۔ ساتھیو! ایک منٹ میں تین دفعہ پڑھی جاسکتی ہے۔

ایک موقع پر ساتھی کام کاج کے لیے جا رہے تھے۔ آخر دنیا کے دھندے بھی ہوتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ اَقْرَأْ عَلَیْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ”میں تمہیں تہائی قرآن پڑھ کر سنا تا ہوں۔“ وہ پریشان ہو گئے کہ ضروری کام کے لیے جلدی جانا ہے اور آنحضرت ﷺ کے حکم کو چھوڑ کر بھی نہیں جاسکتے اور تہائی قرآن پر وقت بھی لگتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے پڑھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ فرمایا تم قرآن پاک کا تیسرا حصہ سن چکے ہو، جاؤ۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔

بعض چیزوں کا بہ طور انعام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہونا :

بعض چیزیں انعام کے طور پر ہوتی ہیں اور بعض محنت کا پھل ہوتی ہیں۔ انعام میں محنت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آقا خوش ہو کر انعام دینا چاہے تو تھوڑے کام پر زیادہ دے دیتا ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مسجد قبا کا رقبہ وقف کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں جہاں مسجد قبا ہے یہاں آپ ﷺ نے چودہ دن قیام فرمایا۔ ان حضرات نے جتنا ممکن تھا خدمت کی لیکن آپ ﷺ پریشان نظر آتے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت! آپ ﷺ پریشان نظر آتے ہیں کیا آپ کو مرضی کی چیزیں نہیں مل رہیں؟ حضرت فرمائیں جو کمی ہے ہم اپنی ہمت کے مطابق پوری کریں گے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت! یہ میری زمین ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت! جتنا رقبہ آپ فرمائیں میں مسجد کے لیے مختص کر دیتا

ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ انھوں نے کہا حضرت! میں قیمت نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی زمین دی ہے اس کا میں واحد مالک ہوں۔ آپ نشانی دہی فرمادیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اشارے سے آپ ﷺ نے اصل مسجد قبا کے لیے لکیر کھینچی اور حد بندی کر دی۔ آپ ﷺ کے وہاں قیام کے دوران ہی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴿التوبة: ۱۰۸﴾ ”البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔“

مسجد قبا میں حضرت کلثوم بن ہدم انصاری رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے اور اس کے ساتھ مزید کوئی اور سورت بھی ملاتے تھے۔ سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ مقتدی کافی دن دیکھتے رہے مگر انھوں نے اپنا طریقہ نہ بدلا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! یہ ایک منفل سورت ہے آپ اسی پر اکتفا کر لیا کریں ساتھ اور سورت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے تم اگر چاہو تو میں امامت کراؤں گا اگر نہیں چاہتے تو میں امامت نہیں کراؤں گا۔ لیکن اگر میں امامت کراؤں گا تو سورۃ اخلاص ضرور پڑھوں گا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے پاس یہ شکایت پہنچی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت! آپ ﷺ نے ان کو امام مقرر کیا ہے نیک آدمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوسری سورت ملاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو بلایا کہ تمہارے مقتدی یہ شکایت کرتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت! فیہ صفة الرحمن ”اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔“ اس لیے

میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہر امام کو اجازت ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ اعتراض نہ کرتے۔ کیوں کہ اعتراض والے مقتدی بھی تو صحابہ ہیں۔ پھر اعتراض بھی بڑی عدالت میں لے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بعض چیزیں خصوصی ہوتی ہیں یعنی بعض آدمیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ وہ قانون نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اس طرح کرے۔

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کی فضیلت سنی تو قربانی میں جلدی کی کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ چونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ گھر والوں کو کہا جلدی جلدی مجھے گوشت بھون دو میں نے کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح کی نماز کے بعد جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شَاتُكَ شَاةٌ لِحِمِّهِ ”یہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے قربانی نہیں ہوئی۔“ وہ بے چارہ رونے لگ گیا۔ عرض کی حضرت! میرے پاس تو یہی بکری تھی۔ نہ میرے پاس اور بکری ہے نہ پیسے ہیں کہ خرید کر اور قربانی کر لوں۔ ہاں میرے پاس چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کر لے وَلَنْ نُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ”تیرے بعد کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔“ یعنی یہ تیری خصوصیت ہے۔ کوئی اور چھ ماہ کا بکری کا بچہ قربان نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تو بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہیں۔ ان کا عمومی حکم نہیں ہوتا۔ اسی لیے محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ محض حدیث دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک حدیث کا علم نہ ہو، ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو۔ کہ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں منسوخ تو نہیں ہے۔

تو خیر سورۃ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دس پاروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ** پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** پڑھتے تھے۔ اور سات چکر طواف کے پورے کرنے کے بعد جو دو رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ** اور دوسری رکعت میں **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** پڑھتے تھے۔

سورۃ کافرون کی فضیلت :

سورہ کافرون کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ چوتھائی قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں اصولی مسئلے یہ ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور شرک کا رد۔ جب تک باطل کا رد نہ ہو وہ خلط ملط رہتا ہے۔ **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ** میں کفر کا رد ہے، شرک کا رد ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر کو کافر کہنا گستاخی نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی اس کا ورد بنا لے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ شیعہ بکے کافر ہیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن گلی محلے میں کافر کافر شیعہ کافر کے ورد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور فتنہ و

فساد بڑھتا ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے۔ اور جس کا کفر ثابت ہو اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ لہذا کافر کو کافر کہنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا ورد بنانا اور نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔

تو فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جن کے سارے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یاد رکھنا! پیر، پیغمبر، ولی، قطب، غوث، شہید، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر ۱۵ میں ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ”اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریفوں والا ہے۔“ شاعر کہتا ہے:

دینا ہے تو اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے

کیوں مانگتا پھرے ترا سال جبکہ جبکہ

لَمْ يَلِدْ اس نے نہیں جنا کسی کو۔ اس میں یہودیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہے اور مشرکین کا بھی رد ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ”اور کہا یہودیوں نے عزیر عليه السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ عليه السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔“ ﴿سورۃ التوبہ: ۳۰﴾ عرب اور بعض دوسرے علاقوں کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ ﴿النحل: ۷۵﴾ ”اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔“ تو لَمْ يَلِدْ میں اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرما دیا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا نہ اس

کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے وَلَمْ يُولَدْ اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَشْتَمِنِي ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ ”ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے وَيُكْذِبُنِي ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو اس کا حق نہیں ہے۔“ گالیاں کیسے نکالتا ہے؟ يَدْعُوْا اِلَيْ وَاَلَدًا ”میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسے ہماری تمھاری ثابت النسب اولاد کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ تیری نہیں ہے۔ یہ ہمارے حق میں گالی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گالی ہے۔ لیکن دیکھو! جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں رزق، اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے۔ کیوں کہ رزق کا سلسلہ الگ ہے۔ اس کا قانون الگ ہے۔ یہ نیک کو بھی ملتا ہے اور بد کو بھی ملتا ہے۔

امیری، غریبی رب کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں :

حدیث پاک میں آتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ”بے شک اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اس کو جس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی جس سے راضی نہیں ہوتا۔“ دولت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہوں حاشا وکلّا۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی پیارا ہوتا تو قارون سب سے زیادہ پیارا ہوتا۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کافی بڑی جماعت ان کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔

اور دولت کا نہ ہونا اگر ناراضگی کی علامت ہے تو العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ پھر

یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ سے زیادہ ناراض تھے کہ آپ ﷺ کے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی سیر ہو کر نہیں۔ دودن مسلسل گندم کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے، جوتے کو ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔ ساری زندگی میں ایک دودفعہ گھر میں چراغ جلا ہے۔ نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ ﷺ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جب آپ ﷺ سجدے میں جاتے تو مجھے ہاتھ لگاتے میں پاؤں سمیٹ لیتی پھر آپ ﷺ سجدہ کرتے۔

تو یاد رکھنا! دولت کامل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دو، دو مہینے ہمارے چولھے میں آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا انصار مدینہ دودھ بھیج دیتے تھے۔ کسی وقت بھجوریں لھا لیتے تھے اور وقت گزار لیتے تھے۔ ایسا غریب آج دنیا میں کوئی پیدا ہوگا؟

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مختصری سورت ہے مگر اس کی فضیلت بڑی ہے۔ جو شخص اس کو سوتے وقت تین دفعہ پڑھ لے۔ گویا وہ پورا قرآن پڑھ کر سویا ہے۔ لہذا اس کا ورد رکھو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ الْفَلَقِ

(تكميل)

جلد ————— ۲۱



آیتھا ۵ ۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مَدِينَةُ ۲: رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۱ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۳ وَ
مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۴

قُلْ (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں اَعُوذُ میں پناہ لیتا
ہوں بِرَبِّ الْفَلَقِ صبح کے رب کی مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اس
مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اور
اندھیرے کے شر سے إِذَا وَقَبَ جب وہ چھا جاتا ہے وَمِنْ شَرِّ
النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اور حسد کرنے والے کے شر سے إِذَا حَسَدَ جب وہ حسد
کرتا ہے۔

نام اور کوائف :

یہ جو قرآن ہمارے تمہارے پاس موجود ہیں ان میں بہت بڑی غلطی ہے کہ سورۃ
الفلق کو مکہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الناس کو بھی مکہ لکھا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی
ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ سورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی ہیں۔ قرآن کریم کے صحیح

نسخے بھی موجود ہیں جن میں مدنی لکھا ہوا ہے۔ ان کو مکی لکھنے والی غلطی تاج کیمینی والوں نے کی ہے۔ اس سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے مگر انھوں نے اصلاح نہیں کی۔ اور نمبر بھی بیس، اکیس لکھا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ ان کا نمبر بہت بعد کا ہے۔ شان نزول ان کا تھوڑی سی تمہید کے بعد بتاتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ کی آمد سے پہلے اور بعد میں مدینہ والوں کے حالات :

آنحضرت ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے رہائشیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ تین خاندان یہود کے تھے۔ بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قریظہ قحاح۔ مدینہ طیبہ کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ دانہ منڈی ہو یا کھجور منڈی یا کپڑے کی تجارت ہو سب پر ان کا قبضہ تھا۔ سکول، کالج اور یونیورسٹی بھی ان کی تھی۔ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ جن کے پاس مال ہو، علم ہو، اثر و رسوخ بھی انھی کا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دو خاندان مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ تعداد ان کی بھی کافی تھی۔ مگر یہ لوگ ان پڑھ تھے۔ زیادہ تر ان کا پیشہ زراعت تھا، کھیتی باڑی کرنا، باغات لگانا۔ یہودیوں نے بھی ان سے کافی زمینیں خریدی تھیں۔ باغات تھے اور اوس و خزرج کے لوگ ہی ان کے مزارع ہوتے تھے۔ پھر اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔

بخاری شریف میں بُعات کا لفظ آتا ہے۔ یہ ایک قلعے کا نام تھا۔ اس قلعے پر قبضہ کے لیے اوس و خزرج کی لڑائی ہوئی جو ایک سو بیس سال تک چلتی رہی۔ باپ مرتا تو بیٹوں کو وصیت کر جاتا کہ اگر تم نے بُعات پر قبضے کی کوشش نہ کی تو میں اپنا حق تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک لڑائی ان کی داحص تھی جو تریسٹھ سال تک جاری رہی۔ داحص

گھوڑے کا نام تھا۔ گھوڑ دوڑ تھی شرط پر۔ گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے تو ایک نے دوسرے کے گھوڑے کے منہ پر تھپڑ مارا کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہے۔ کیوں بازی لے جانے والے کو انعام ملنا تھا۔ اس پر لڑائی ہوئی جو تریسٹھ سال تک جاری رہی۔

ایک لڑائی کا نام حرب بسوس ہے۔ یہ کبوتری کے انڈے سے شروع ہوئی۔ ایک آدمی کی زمین میں کیکر کا درخت تھا جس پر گھونسلا بنا کر اس میں کبوتری نے انڈے دیئے۔ دوسرے کی اونٹنی آئی اس نے کیکر کی لونگ کھانے کے لیے درخت کو کھینچا تو انڈے نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ زمین والا دیکھ رہا تھا اس نے اونٹنی مار دی کہ کبوتری نے میرے درخت پر پناہ لی ہوئی تھی اس اونٹنی نے میری پناہ کو خراب کیا ہے۔ اونٹنی والے نے آکر اس کو مار دیا کہ اس نے میری اونٹنی کو کیوں مارا ہے؟ پھر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ جس کا ذکر سورۃ الانفال آیت نمبر ۶۳ میں ہے **وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** ”اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔“ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۰۳ میں ہے **إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا** ”جب کہ تم آپس میں دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس ہو گئے تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی۔“ اب اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے رشتے لیتے دیتے ہیں، اکٹھے تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔

اس سے پہلے یہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور یہودیوں کے

دست نگر بن چکے تھے۔ یہودیوں کا ان پر اتنا اثر تھا کہ اپنی بچیوں کا نکاح یہودیوں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ محلے کے بڑے یہودی سے پوچھتے تھے سردار جی! فلاں جگہ لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو تو کروں؟ اگر وہ اجازت دیتا تو شادی کر دیتے ورنہ مجال نہ تھی۔

حج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حالات ہی بدل گئے۔ یہودی پاس سے گزرتا تو اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کوئی نہ دیکھتا۔ پہلے ان کو اٹھ کر سلام کرتے تھے۔ ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ لوگ تو ہماری اجازت کے بغیر شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، ہماری اجازت کے بغیر سفر پر نہیں جاتے تھے۔ حج عمرے پر جاتے تھے تو ہم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اور اب یہ وقت ہے کہ پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔

یہودیوں پر دوسری زد یہ پڑی کہ مکے والے تجارت میں بھی بڑے تیز تھے کیوں کہ یہ لوگ نسلاً بعد نسل تاجر پیشہ لوگ تھے اور بڑی دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور کھرے لوگ تھے۔ یہودی ڈنڈی مارتے تھے۔ مہاجرین نے جب تجارت شروع کی تو تھوڑے ہی دنوں میں یہودیوں سے آگے نکل گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ بھئی! یہ پورا تول کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا روپیہ پیسہ رہ جاتا تو اس کے پیچھے دوڑ کر جاتے کہ بھائی! تمہارے پیسے رہ گئے ہیں لے کر جاؤ۔ یہودیوں کی تجارت بھی ختم اور علمی برتری بھی ختم کہ اب یہودیوں سے مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ بڑے صاحب علم آگئے ہیں۔

مسجد نبوی کے قریب یہودیوں کے کافی گھر تھے۔ اذان ہوتی تو یہودیوں کے کلیجے پھٹتے۔ جس وقت مؤذن اشہدان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتا تو ان کی

حالت غیر ہو جاتی کہ یہ ہمیں کیا سننا پڑتا ہے۔ مال دار لوگ تھے دوسرے محلوں میں بھی ان کے مکان تھے۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہمارے مکان ہیں یہ ہم کرائے پر دے دیتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ ہم ان کی اذان نہیں سن سکتے اور نہ ان کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہیں۔ نہ انہیں اکٹھا بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مکان خالی کر کے چلے گئے۔

نبی القبلتین :

قبیلہ بنو سلمہ والے اس محلے میں رہتے تھے جہاں مسجد قبلتین ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی دو رکعت پڑھا چکے تھے اور جبرئیل علیہ السلام نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو دوسری دو رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھائیں۔ سولہ سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ حکم اس لیے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نبی القبلتین آئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین نہ ہوتے تو ان پر حجت پوری نہ ہوتی۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے اس کی صفت پڑھی ہے نبی القبلتین۔

یہ محلہ مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب قبیلہ بنو سلمہ والوں نے سنا کہ یہودی مسجد نبوی کے پاس والے گھر خالی کر گئے ہیں اور وہ کرایہ پر چڑھتے جا رہے ہیں ہمیں مسجد نبوی میں دور سے آنا پڑتا ہے ہم وہ مکان کرایہ پر لے کر وہاں چلے جائیں۔ پھر کہنے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک وفد آیا کہ حضرت ہم بنو سلمہ کے لوگ ہیں

ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں وعظ و نصیحت سننے کے لیے بھی آنا ہوتا ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی گرمی سخت ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کے گھر یہودی خالی کر گئے ہیں اور وہ کرائے پر چڑھ رہے ہیں ہم یہاں قریب نہ آجائیں کہ قریب سے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ اَثَارُكُمْ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ اَثَارُكُمْ ”اپنے گھروں میں رہو جتنی دور سے آؤ گے اتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔“ ہر قدم پر دس نیکیاں، ایک گناہ مٹے گا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی محلہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو اور وہاں صرف یہودی ہی یہودی رہیں۔

یہودی آنحضرت ﷺ کے انتہائی دشمن تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے محتاط تھے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے کہ زندگی سے ناامید ہو گئے۔ کہنے لگے اَوْصِيكُمْ ”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں“ اگر میری وفات ہو جائے اور دفنانے کا وقت رات کا ہو تو آنحضرت ﷺ کو ہرگز ہرگز نہیں بلانا۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ اس موقع پر تو یہ وصیت ہونا چاہیے تھی کہ میرا جنازہ آنحضرت ﷺ پڑھائیں کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر میں جو سب سے بہتر آدمی ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے۔

آپس میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا کہ کلمہ صحیح نہیں ہے منافق ہے، کسی نے کہا نہیں کلمہ تو صحیح ہے اب مرتد ہو گیا ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے بدحواس ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہا

ہے۔ انھوں نے سب کی باتیں سنیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہوا ہوں۔ نہ مرتد ہوں، نہ بدحواس ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے محلے میں یہودی زیادہ ہیں میں نے سنا ہے کہ یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے میں تشریف لائیں اور ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ میرے جنازے کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے۔ ”الاصحابہ فی تمییز الصحابہ“ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے حالات صحابہ پر۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔

چنانچہ ان کی وفات رات کو ہوئی اور رات ہی کو دفنایا گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا دَلُّونِي عَلَى قَبْرِہِ ”مجھے اس کی قبر بتلاؤ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا لَهُ ”پس آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کی۔“

اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے یا ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے اور ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ انھوں نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے ”نماز حنفی“۔ اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہئیں۔ میں نے ”راہ سنت“ میں لکھا ہے ہاتھ اٹھانے چاہئیں۔ مدرسہ خیر المدارس کے جلسے کے موقع پر کمرے میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مسئلہ چھیڑ دیا اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت! آپ نے لکھا ہے کہ قبروں پر جاؤ تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو اور راہ سنت میں لکھا ہے

کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ تو ہم کس بات پر عمل کریں؟ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے دلیل پوچھیں۔ میں نے کہا میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک یہی دلیل جو مسلم صفحہ ۳۱۳ جلد ۱ پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے **فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا لَهُ** ”پس آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے تین مرتبہ دعا کی۔“ دوسری روایت میں نے اصابہ والی بتلائی۔ ”راہ سنت“ میں میں نے ان کے باقاعدہ حوالے دیئے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا خیر محمد صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔

یہود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور سورۃ کا شان نزول :

تو خیر میں نے کہا کہ یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کئی منصوبے بنائے۔ خیبر کے مقام پر زینب نامی یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا کہ اس نے آپ کی دعوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے۔ اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن براء رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کھاتے ہی تڑپ کر فوت ہو گئے۔ باقی جن ساتھیوں نے کھایا وہ بیمار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لقمہ منہ مبارک میں ڈالا مسند داری کی روایت میں ہے کہ اس لقمے نے کہا حضرت! نہ کھانا مجھ میں زہر ہے لیکن لعاب اندر چلا گیا۔ وہ اتنا تیز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبب عالم اسباب میں وہی بنا۔

بخاری شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! جو زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس دفعہ قسم اٹھا کر کہہ

سکتا ہوں کہ آپ ﷺ شہید ہیں، شہید ہیں، شہید ہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر میں زینب نامی یہودیہ نے آپ کو دیا تھا۔ اپنے لیے تو آپ ﷺ نے کوئی انتقام نہیں لیا لیکن بشر بن معرور رضی اللہ عنہ اور جو دوسرے ساتھی شہید ہوئے تھے ان کی وجہ سے دارقطنی کتاب میں روایت ہے کہ زینب نامی عورت کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہودیوں نے آپ ﷺ پر جادو بھی کیا لیکن اس کا کچھ اثر آپ ﷺ پر نہ ہوا۔ خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے انھوں نے بھی جادو کیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔

مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا البید بن اعصم۔ یہ جادو کے فن کا امام تھا۔ اس کی فیس زیادہ تھی ہر آدمی اس کے پاس نہیں جاسکتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے اس کو آکر کہا اَنْتَ اَعْلَمُنَا فِي السِّحْرِ ”تو ہم سے جادو کو زیادہ جانتا ہے۔“ جادو کا استاد ہے جتنی فیس مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں محمد (ﷺ) کو راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس نے تین دینار بے کر کارروائی شروع کی۔ اس طرح کہ آنحضرت ﷺ کا اس نے مجسمہ بنایا موم کا۔ اس میں اس نے گیارہ سوئیاں چبھوئیں۔ اور ایک لمبی رسی لے کر اس پر گیارہ گرہیں لگائیں۔ ان گرہوں پر اس نے اور اس کی شاگرداں (چیلیوں) نے کچھ پڑھا بھی۔ اس موقع پر یہ آخری دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ یہ سورتیں مدنی ہیں مکی نہیں ہیں۔ باقی ان شاء اللہ العزیز کل بیان ہوگا۔



آیتھا ۵ ۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ ۲۰ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا

حَسَدَ ۝۵

ما قبل سے ربط :

پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ یہود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت تھی۔ اس عداوت کی وجہ سے کئی دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ زہر بھی دیا، اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا ماہر جادوگر تھا البید بن اعصم۔ خیبر کے یہودیوں نے آکر اس کو کہا کہ ہم نے اس پر بڑے جادو کیے ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ تم اس پر وار کرو۔ اور تین دینار اس کو دیئے۔ تین دینار اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ اس نے ہامی بھری۔

یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی کے دندانے حاصل کرنے کے لیے ایک نو عمر بچہ جس کا نام عبد القدوس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا بڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ اور اس بچے کو کہا کہ

جب تو کنگھی کرے تو ان کے سر (مبارک) کے جو بال کنگھی میں پھنسیں ان کو سنبھال لینا اور جو میل کچیل کنگھی میں ہو اس کو بھی سنبھال لینا اور کنگھی کے جو دندانے گریں وہ بھی رکھ لینا۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے چند دن آپ ﷺ کی خدمت کی اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے لبید بن اعصم کو پہنچادیں۔

اس نے موم سے آنحضرت ﷺ کا مجسمہ بنایا، اس میں گیارہ سوئیاں چبھوئیں اور ایک لمبی ڈوری لی۔ اس میں آنحضرت ﷺ کے سر کے بال جوڑے، میل کچیل ملی اور نر کھجور کا کھابا بھی تھا۔ کچھ ٹسر کے دھاگے تھے۔ اس ڈوری پر اس نے گیارہ گرہیں لگائیں۔ ہر گرہ پر جادو کے کلمات خود بھی پڑھ کر پھونکتا تھا اور شاگردا ت (چیلیاں) رکھی ہوئی تھیں، وہ بھی پڑھ کر پھونکتی تھیں۔

آنحضرت ﷺ پر جادو کا اثر :

اس جادو کا دینی لحاظ سے تو آپ ﷺ پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ تبلیغ کے سلسلے میں اور نہ نمازوں کے سلسلے میں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ہوا۔ وہ اس طرح کہ کھانا کھایا یا دن رہتا کہ کھایا ہے یا نہیں؟ پانی پیایا دنہ رہتا پیا ہے کہ نہیں۔ اور آپ ﷺ بڑے پریشان اور مغموم رہنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جب آپ ﷺ گھر تشریف لاتے تھے تو بڑے ہشاش بشاش اور خوش ہوتے تھے۔ مگر اب آتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، اللہ اللہ کرتے مگر چہرے پر پہلے کی طرح خوشی نہ ہوتی اور آپ ﷺ کا وزن بھی کچھ کم ہو گیا۔

یہ اثر آپ ﷺ پر کتنا عرصہ رہا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ چھ ماہ رہا۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ ایک سال رہا۔

آپ ﷺ نے بہت دعا کی اسے پروردگار! مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کیا ہے؟ میری طبیعت پہلے کی طرح نہیں ہے۔ بار بار دعا کی۔ آپ ﷺ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل سو جاتے تھے کیوں کہ سحری کے وقت اٹھنا ہوتا تھا۔ آپ ﷺ سوئے تو خواب میں دو آدمی آئے۔ ایک آپ ﷺ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ جبریل سر ﷺ کی طرف اور میکائیل ﷺ پاؤں کی طرف۔ اور آپس میں گفتگو شروع کی۔ پاؤں کی طرف والے نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ سر کی طرف والے نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ یعنی جبریل ﷺ نے کہا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعصم یہودی نے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ فرمایا کچھ سر کے بال ہیں، کنگھی کے دندانے ہیں، زکھور کا گھاہا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ بئر ذی اروان میں۔ یہ مدینہ طیبہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر ایک غیر آباد کنواں تھا۔ پہلے وہاں آبادی تھی پھر ختم ہو گئی۔ اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ کنویں کے اندر ایک جانب پتھر ہوتا اس پر پاؤں رکھ کر کنواں صاف کرتے تھے، ڈول نکالتے تھے۔ اس پتھر کو عربی میں رعوفہ کہتے تھے۔ اس پتھر کے نیچے اس نے وہ چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں۔

آپ ﷺ صبح کو اٹھے تو بڑے خوش خوش تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی ﷺ نے کہا حضرت! آج آپ خلاف معمول بڑے خوش خوش ہیں۔ فرمایا مجھے جو بیماری تھی وہ مجھے میرے رب نے بتلا دی ہے۔ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ صحابہ کرام نبی ﷺ کو ساتھ لے کر وہاں گئے۔ بئر ذی اروان کے اوپر کھڑے ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوف، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمار بن عبدالمطلب، نیچے اترے اور پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالیں۔ یہ دو سورتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ ان کی گیارہ آیتیں ہیں۔ ایک ایک

آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ کھولتے جاتے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے خیال فرمایا کہ ان چیزوں کو اگر ہم مدینہ طیبہ لے کر گئے تو لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا کہ ان چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں فتنہ پیدا ہوگا۔ کنواں چونکہ غیر آباد تھا آپ ﷺ نے وہ چیزیں اسی کنوئیں میں دفن کرادیں اور فرمایا کہ کنوئیں کو مٹی سے بھر دو۔

آپ ﷺ ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے تو یوں لگتا تھا کہ بدن سے ایک سوئی نکل گئی ہے، دوسری سوئی نکل گئی ہے۔ جب آپ ﷺ نے دونوں سورتیں پڑھ لیں تو آپ ﷺ کا جسم مبارک پر سکون ہو گیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ ﷺ سوتے تھے تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھ بدن پر مل لیتے تھے۔ جادو سے بچنے کے لیے ان دو سورتوں سے زیادہ مؤثر کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف پڑھنے کے بعد اثر نہ ہو تو سمجھو کہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، ہماری خوراک میں اثر نہیں ہے، میری نیکی میں کمی ہے، تقویٰ میں کمی ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں آج بھی وہی اثر ہے جو اس وقت تھا۔ ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ ﷺ تعوذ کے لیے اور کئی کلمات پڑھتے تھے۔ آخر میں یہی دو سورتیں آپ ﷺ اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی پڑھ کر پھونکتے تھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اٰمِنُوْا بِرَبِّ الْاَلٰسٰمٰی
میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ کیوں کہ بہت ساری چیزیں انسان کو دن میں اذیت اور دکھ پہنچاتی ہیں مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اور اس مخلوق کے شر سے جو رب نے پیدا کی

ہے۔ دن چڑھنے کے بعد جو مخلوق شر پہنچاتی ہے میں اس کے شر سے تیرے سے پناہ لیتا ہوں۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں ان کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نَفَّاثَاتُ نَفَّاثَةٌ کی جمع ہے جس کا معنی ہے پھونکنے والی۔ تو نَفَّاثَاتُ کا معنی ہوگا پھونکنے والیاں۔ عُقَدٌ عُقْدَةٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے گرہ۔ معنی ہوگا اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ان عورتوں کے شر سے جنہوں نے لبید بن اعصم کے ساتھ گرہوں میں جادو کے کلمات پھونکے تھے۔ یہ اس کی شاگرداں تھیں۔ اے پروردگار! میں ان کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کتنی بُری چیز ہے کہ اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سبق دے رہے ہیں۔

حسد، غمبٹ اور وسوسہ :

ابوداؤد میں حدیث ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ”بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“ حسد کی ایک شق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، حسن عطا فرمایا ہے، قد و قامت عطا فرمایا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے۔ اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ اس کو یہ کیوں ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ زبان سے نہیں کہتا دل کے اندر کڑھتا ہے۔ اور دوسری شق یہ ہے کہ مجھے یہ خوبی نہیں ملی اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یعنی اس سے نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے۔ یہ بھی حسد

ہے۔ حسد گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، رشک۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے اے پروردگار! جیسے اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ جائز ہے۔ اور ایک خیال اور وسوسہ ہوتا ہے جو خود بہ خود ذہن میں آتا ہے آدمی خود لاتا نہیں ہے۔ اور اس وسوسے کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز میں آجائے یا نماز سے باہر آجائے۔ بُرے سے بُرا خیال بھی آجائے تو شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔

ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضرت! بعض دفعہ ہمیں ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں مگر ان کو زبان پر نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے حضرت! مثلاً: یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین کو رب نے پیدا کیا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو رب نے پیدا کیا ہے، رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پر ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيْمَانِ ”یہ تو ایمان کی واضح علامت ہے۔“ ایسے خیال سے نفرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ عزم اور ارادے پر گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔

[امین]






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير

سُورَةُ النَّاسِ

(مكمل)

جلد — ۲۱



آیتها ۲ ۱۱۳ سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ ۲۱ رُكُوعًا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوسْوِسُ فِي
 صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

قُلْ (اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں اَعُوذُ میں پناہ لیتا ہوں بِرَبِّ النَّاسِ لوگوں کے رب کی مَلِكِ النَّاسِ جو لوگوں کا بادشاہ ہے اِلٰهِ النَّاسِ لوگوں کا معبود ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وَسُوَسٌ ڈالنے والے کے شر سے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الَّذِي يُّوسْوِسُ جو وسوسے ڈالتا ہے فِي صُدُوْرِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں میں مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔

قُلْ آپ کہہ دیں اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی مَلِكِ النَّاسِ جو لوگوں کا بادشاہ ہے اِلٰهِ النَّاسِ لوگوں کا معبود ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس اور دست گیر ہے۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وَسُوَسٌ ڈالنے والے کے شر سے الْخَنَّاسِ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان سے مراد ابلیس نہیں بلکہ عام شیطان۔ یہ عوام جو کہتے ہیں کہ ابلیس ہر جگہ ہوتا ہے۔ حاشا و کلاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ رات کو ڈیوٹیاں لگاتا ہے، دن کو ڈیوٹیاں لگاتا ہے گمراہ کرنے کی۔ پھر یہ واپس جا کر جب رپورٹ پیش کرتے ہیں تو بٹھاتا جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹے قد کا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے لَعْنَةُ آوَّلِ بَيْتٍ لَعْنَةُ ابْلِيسَ لَعْنَةُ ابْنِ حَتَّى اشْرَكَ "میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کو مشرک بنا کر چھوڑا۔" ابلیس لعین اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے نِعْمَ الْوَلَدُ أَنْتَ "زندہ باد میرا بیٹا تو ہے، تو میرا بہت اچھا بیٹا ہے۔" کیوں کہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کی سزا خلود فی النار نہیں ہے، دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور مشرک نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس لعین ہر جگہ نہیں ہوتا۔ شیاطین بہت زیادہ ہیں۔ اتنے زیادہ کہ ان کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ آدم ﷺ سے دو ہزار سال پہلے ان کی نسل چلی ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے ہوں گے؟

تو دل کے ایک کنارے پر فرشتہ ہوتا ہے جو اچھی باتوں کا القاء کرتا ہے اگر اچھی بات کا خیال پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دو کہ یہ فرشتے کا القاء ہے۔ اگر بُرا خیال آئے تو بائیں طرف تھوک دو کہ یہ شیطان کا دوسوہ ہے۔ اور شیطان اس وقت دوسوہ ڈالتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے چوکیدار جاگتا رہے، آواز دیتا رہے تو چوروں کو ہمت نہیں ہوتی اور جب چوکیدار غافل ہو جائے تو چور چوری شروع کر دیتے ہیں تو شیطان ذکر

سے غفلت کے وقت حملہ کرتا ہے۔ پچیسویں پارے میں ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿الزخرف: ۳۶﴾ ”اور جو شخص اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم مقرر کر دیتے ہیں، اس کے لئے شیطان پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر انسان دل میں رحمان کو جگہ نہیں دے گا تو شیطان آجائے گا۔“ جیسے انسان گھر بنا کر خالی چھوڑ دے تو پھر اس میں بلیاں کتے آجاتے ہیں اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔

فرمایا الَّذِي يُوسُّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بعض انسان شیطان صفت ہوتے ہیں۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ قرآن کے خلاف، رسالت کے خلاف، قیامت کے خلاف، توحید کے خلاف۔ اور شیطان تو ہیں ہی شیطان۔ اے پروردگار! چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ جو بھی غلط خیالات ڈالتے ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھے ان کے شر سے بچا اور حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ دعا ہے۔

دعائے ختم القرآن :

اللَّهُمَّ اِنْسِ وَخَشْتِي فِي قَبْرِى اے پروردگار! مجھے مانوس رکھ میری تنہائی کے وقت قبر میں۔ قبر میں میرا کوئی ساتھی بنا دینا اللَّهُمَّ اَرْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اے اللہ! مجھ پر رحم فرما قرآن پاک کی برکت کے ساتھ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا اور اے پروردگار! اس کو میرے لیے امام بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے وَتُوْرًا اور نور

بنادے وَهْدَى اور ہدایت بنادے وَرَحْمَةً اور رحمت بنادے اَللّٰهُمَّ
 ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ اے پروردگار! مجھے یاد کرا دے اس سے وہ چیزیں جو میں بھول
 چکا ہوں وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ اور سکھا دے مجھے قرآن پاک کی وہ چیزیں جن
 سے میں جاہل ہوں، بے خبر ہوں وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اور اے پروردگار! میری قسمت
 میں کر دے اس کی تلاوت اِنَّاءَ الْاَيْلِ رات کے اوقات میں پڑھتا رہوں وَاِنَّاءَ
 النَّهَارِ اور دن کے اوقات میں بھی پڑھتا رہوں وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَّارَبَّ الْعَالَمِيْنَ
 اور بنادے قرآن پاک کو میرے لیے حجت قیامت والے دن اے رب العالمین! اٰمِيْنَ
 قرآن بہ طور سلطانی گواہ :

حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ قرآن پاک
 تیرے لیے دلیل اور حجت ہوگا۔ سلطانی گواہ ہوگا۔ اگر تو نے اس کو پڑھا اور اس کے
 مطابق عمل کیا تو قیامت والے دن پروردگار سے کہے گا اے پروردگار! اس کی غلطیوں
 سے درگزر فرما۔ یا تیرے خلاف حجت و دلیل بن کر آئے گا، گواہ بن کر آئے گا۔ تیرے
 خلاف گواہ ہوگا کہ اے پروردگار! اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اس کے مطابق
 اس نے عقیدہ نہیں بنایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رَبِّ تَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ
 يَلْعَنُهُ ”بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔“ مثلاً:
 قرآن میں پڑھتا ہے اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اور نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ یہی آیت اس
 پر لعنت بھیجتی ہے۔ اَتُوا الزَّكٰوةَ پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہی آیت اس پر لعنت
 بھیجتی ہے۔ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ پڑھتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ یہی آیت

اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ جب پڑھے گا لَا تَقْرَبُوا الزَّانَا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس میں آلودہ ہوگا تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ لِذَكَرٍ مِثْلُ حِطِّ الْأُنثِيَيْنِ پڑھے گا اور وراثت پر پورا پورا عمل نہیں کرے گا۔ بیٹی، بہن، پھوپھی کا پورا حق نہیں دے گا تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ جب پڑھے گا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اور یتیم کا مال کھائے گا تو یہی آیت کریمہ اس پر لعنت بھیجے گی۔ ابھی وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا اور لوگ اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تیجا، ساتواں، دسواں، چالیسواں کرتے ہیں۔ سنت بدعت کا مسئلہ تو علیحدہ ہے۔

پھر اس مال کے وارثوں میں یتیم لڑکا یا لڑکی ہو تو شریعت ان کی اجازت کو بھی معتبر قرار نہیں دیتی۔ ایسے مال کا کھانے والا پیٹ میں خنزیر کا گوشت ڈال رہا ہے۔ یاد رکھنا! یتیم کا مال کھانا قطعاً حرام ہے۔ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔ اور خیر سے تم نے ناک کی خاطر تیجے، ساتے نہیں چھوڑنے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ آمین

آج پہ روز ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ، بہ تاریخ ۷ مارچ ۲۰۱۵ء

تیسواں پارہ مکمل ہوا۔

والحمد لله على ذلك

(مولانا) محمد نواز بلوچ



